

يا حي يا قيوم

ما يلهي الله الا الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد

محمدا

الذي لا اله الا هو وحده لا شريك له وهو الذي لا يلد ولا يولد ولا يكن له كفوا احد
ورحمي نفسك وراية عرشك ومبدأ كتابك استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن القهّار والمتوكل اليه

نسخة مائة من اعطى شام

الامم الكريمة

للتبشير والتبشير في سبيل الله

لاستماع و التفع

لجميع امم النبوة والرسالة والهدى والبرهان


لمرضات الله تعالى وتبشيره الكريم من عباده الراسخين

امين

ابراهيم محمد بركات علي لود بونو غني

دار الاحسان - نيسابور

يا حي يا قيوماً



ما انتقل الاقوال الا بالله اللهم صل على ابي عبد الله وبارك في سائرنا وجميعنا

محمد بن

النبي الا في وعلى له وصفا وعز ببد كل مملوك بعد خلقك
ورضى نفسك وزينة عرشك ومداك كلمنا انك تتغفر الله الذي لا
الا هو الحق القيرم وان توب اليه

نسخة مائة عطي شام
محمد بن محمد

اسماء جبرائيل الكريمة

صلى الله عليه وسلم

للتبشير والتبؤ في سببك اللهم

لانتفاع و انتفاع

لجميع اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم

لمرضات الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم
امين

ترتلت: ابو نيس محمد برکت علی عنی عنہ

دار الاحسان فيصل آباد

جلد چہارم

— طبع اول —

تاریخ طباعت — ۱۰ رذی الحجۃ الحرام ۱۳۹۹ ہجری

مطابق یکم نومبر ۱۹۷۹ عیسوی


تعداد — ایک ہزار

مقام اشاعت — المقام التجار الصحاح المتبرک المصطفیٰ

دارالاحسان فیصل آباد پنجاب پاکستان

طابع — سٹارٹ پریس لینڈ - ۹، انڈسٹریل ایریا - گلبرگ لاہور

کتابت اسماء — رئیس اعظم، حافظ محمد یوسف سدیدی





بِإِذْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَقِيَ اللَّهُ الْإِنْسَانَ إِلَّا بِخَيْرٍ وَيَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ يُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَأُخْرَى وَيَضَعُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ غَنِيُّ الرَّحِيمُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا إِذْنُ رَبِّنَا لَمُنَّوْنَا بِهِتَالًا عَظِيمًا

الإهداء

إلى

حضرة الأقدس الأكمل الأطيب الأطهر الأكرم
الأجمل جناب سرور كائنات فخر موجودات، سيد
الكونين، سيد المرسلين، خاتمة النبيين، رحمة
للعلمين، شفيع المذنبين، شفيع الأمم، شفيع
الأمّة، صاحب الجود والكرم، عاصم المطهرة
نبي الخاتم، رسول الآخر، صاحب تيجان
المقربين، راحة قلوب المؤمنين، حبيب رب العالمين
مصباح المقربين، محب العاشقين، محبوب الطالبين
العارفين، سراج السالكين، مأوانا وملجانا وسيدنا
وسندنا ونبيّنا ورسولنا ومولينا وحبيبنا ومحبوبنا

مُحَمَّدٌ

المصطفى أحمد من المجتبي محمد النبي الأمي

حضرة

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِإِذْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَمْ يَلِدْ وَأَمْ يَلِدْ وَمَا كُنْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ يَلِدْ وَهُوَ كَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَكْفِي عَالَمِينَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَتَقَبَّلْ مِنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَتَرْضَاهُمْ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ
 الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَأَعُوذُ بِكَ يَا حَيُّ الْقَيُّومُ

التشكر والمنة

كل من اعانتى فى تأليفه وتدوينه ونظامته
 وتكميله وتشهيره وتدبيره وتبليغه وتفسيره وتشيحه
 وطبعه وكتابته واشاعته من مطابع وكتاب
 واصحاب التصانيف والتأليف استفيد
 منهم واصحاب استمد منهم علماً وادباً
 ونظراً وفكراً وقلماً وعملاً ومالاً ولساناً
 واعانتى فى تأليف هذا الكتاب المقدس
 والمطهر وشذا رزى كلهم مشكورون
 ومعنونون بصميم قلبى فجزاء هو الله احسن
 الجزاء ، الفقير ممنون وشاكر لكل احد
 منهم استغفر الله لهم وأرجو
 لهم الخير من الله

اللَّهُمَّ

تَقَبَّلْ مِنَّا وَمِنْهُمْ أَمِينَ شَرَامِينَ

ابو انيس محمد بركت على لودها نوى ،
 المهاجر الى الله والمرسل على الله العظيم ،

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

ذاتنا الرحمن الرحيم ما نشاءه الله يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وآل محمد
 صلواتك على محمد وآل محمد افضل صلواتك على نبي الله محمد وآل نبي الله محمد
 الباقية لغيره واغنى عن غيره

تشکر و امتنان

تالیف و تدوین ، ترتیب و تنظیم ، تشکیل و تکمیل ، تشریح
 و تدبیر ، تبلیغ و تفسیر و تشریح اور طباعت و کتابت و اشاعت
 میں جن جن مطابع و مکاتب نیز اصحاب تصنیفات و تالیفات سے استفادہ
 کیا گیا ہے ، نیز وہ تمام استاد و اشخاص جن سے علمی ، ادبی ، نظری
 فکری ، قلبی ، عملی ، مالی اور لسانی استمداد حاصل کی گئی ہے اور اس
 مقدس و مطہر تالیف میں جس جس نے کسی طرح سے بھی میری مدد کی ہے
 اور میرا ہاتھ بٹایا ہے ، وہ سب میرے قلبی اور دلی شکر یہ و اظہار
 امتنان کے حقدار ہیں ۔ فَجَزَاهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ
 خاکساران سب کا ممنون و شکر گزار ہے اور ان کی مغفرت کیلئے
 دُعا گو و امیدوار ہے ۔

اللَّهُمَّ

تَقَبَّلْ مِنَّا وَمِنْهُمْ

أَمِينَ تَوَّامِينَ

ابو ایس محمد برکت علی لو دھیا نومی ،
 المہاجر الی اللہ و المتوکل علی اللہ العظیم ،

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِإِذْنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يُخْفَى عَلَيْهَا عِلْمُ اللَّهِ بِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
الْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ
الْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ وَالْحَقِيقَةُ

التقديم

اللَّهُمَّ لَكَ الشُّكْرُ وَالْمِنَّةُ بِمَا أَنْعَمْتَ وَأَكْرَمْتَ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ
بِسُجْدِكَ وَصَمَدِيَّتِكَ عَلَى تَخْرِيجِ أَسْمَاءِ مَبَارَكَةِ وَمَكْرَمَةِ لِحَبِيبِكَ
الْأَقْدَسِ وَالْأَكْمَلِ وَالْأَكْرَمِ وَالْأَجْمَلِ وَالْأَطْيَبِ وَالْأَطْهَرِ وَطَهْهِ وَوَلِيِّهِ
وَالْمَزْمَلِ وَالْمَذْثَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حِجَابِ خَفَاءِ إِلَى ظَهْرِ سَعَادَةِ
تَارِيحِي شَرَفْتَنَا - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْقَيُّومِ -

يسجد لك كل من قطن بدار الإحسان من إنسان وورق شجرة
وذرة أرض على بابك العالی يا ذا الجلال والإكرام بما أنعمت علينا
وانتخبت هذا المقام الخفاف الصَّحَافِ الْمَقْبُولِ الْمُصْطَفِينَ لِتَخْرِيجِ
أَسْمَاءِ مَعْظَمَةٍ مِنْ حِجَابِ إِلَى الظهور - فالله خير الرازقين -

وتطبع "دار الإحسان" هذه الأسماء المباركة بكتابة نفيسة
وطبعة مزينة وترتيب وترئين وتمهدي هذه الهدية الفريدة
الوحيدة التي لا نظير لها ولا مثل لها بفرحة وابتهاج إلى حضرة
الأقدس والأكمل والأجمل والأطيب والأطهر فداه رُحْمِي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْعِ جَمِيعِ أُمَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ لِتَحْصِيلِ سَعَادَةِ الدَّارِينَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمِينَ آمِينَ آمِينَ

ابوانيس محمد بركت على عفى عنه

دار الاحسان - باكستان

١٠ ربيع الأول ١٣٩٩ هـ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لَنَا نَحْوَكَ اللَّهُ يَا قَبْلُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَكُونُ لَكَ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَاللَّهُ لَئِنْ
لَمْ يَصْبِرْ لَكَ لَمَّا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ لَمَّا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ لَمَّا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ لَمَّا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ
الْحَقِّ الْقَبِيلُ وَالْحَقُّ الْقَبِيلُ وَالْحَقُّ الْقَبِيلُ وَالْحَقُّ الْقَبِيلُ

مقدمہ

یا اللہ تیرا شکر و احسان ہے کہ تو نے اپنی مجدیت و صمدیت کے صدقے ہم
خاک نشینوں کو اپنے حبیبِ اقدس و اکمل، اکرم و اجمل، اطیب و اطہر، ظہ، یس،
مزل، مدثر صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت مآب اسمائے مبارکہ و مکرمہ کو پردہ عدم
سے منصفہ شہود پر لانے کی تاریخی سعادتِ عظمیٰ سے مشرف فرمایا۔ الحمد للہ الحی القيوم۔
”دار الاحسان“ کا ہر مہینہ اور ہر ذرہ تیری اس بے پایاں عنایت
پر تیری بارگاہ رب ذوالجلال والا کرام میں سجدہ ریز ہے کہ تو نے اپنے اس
مقام البجاف الصحاف لمقبول لمصطفین کو رویت ازلی میں محبوب و مستور تقدس
مآب اسمائے معظمہ کے شہود و ظہور کے لیے منتخب فرمایا۔ فاللہ خیر الرازقین۔
”دار الاحسان“ عمدہ ترین کتابت و طباعت اور نفیس ترین ترتیب
و تزئین کے ساتھ اس مایہ ناز، منفرد، بے مثل اور عظیم نظیر تالیف کو انتہائی
مسرت کے ساتھ حضور اقدس و اکمل، اکرم و اجمل، اطیب و اطہر صلی اللہ علیہ وسلم
کی ساری امت کو نفع پہنچانے کے لیے حضور اقدس رومی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں بطور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ آمِينَ آمِينَ آمِينَ

ابو انیس محمد برکت علی عفو عنہ

دار الاحسان - پاکستان

۱۰ ذی الحجہ الحرام ۱۳۹۹ھ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝
آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآخِصَائِهِ وَعَصْرَتِهِ مَعْدُومٍ كُلِّ تَسْلِيمٍ أَلَمْ
تَعُدَّ وَخَلَقْتَ وَجِئْتَ فَطَرْتَ وَنَشَرْتَ شَيْئَكَ وَمَدَّوْكَامَا لَيْتَ اسْتَفْزَأَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ أَحَدًا وَلَمْ يُولَدْ أَحَدًا وَأَمَّا الْبَرُّ

سَيِّدُكَ الْمَاجِدُ

عَمَّا تَسْرَرُ بُرُكِي وَالِي دُرُودُ سَلَامٍ بِحُجَّةِ الْآلَةِ

یہ مجید سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔
جسکے معنی ہیں بزرگی کی وسعت اور وہ
ہستی جن سے بیشمار فوائد حاصل ہوں۔
حضرت ایاس بن سلمہ بن اکوع
رضی اللہ عنہما نے فرمایا۔

”بلند اخلاق بزرگ ہستی جن کا کلام
پتھا ہے۔ اور ان میں شفقت اور
دشمن پر گرفت بھی ہے۔“

حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما
نے حضور اقدس ﷺ پر یہ مشیہ پڑھا۔
آپ بہترین اونٹنی کے سوار اور
تقویٰ کے معاملے میں سارے جہان سے
زیادہ متقی۔ بزرگ سردار مخلوق کے اور
دانائی کے بلند مرتبہ والے تھے۔

اسم فاعل من المجد وهو
سعة الشرف وكثرة الفوائد
(سبل الهدى ج ۱ ص ۶۲۱)
قال ایاس بن سلمة بن
الاکوع رضي الله عنهما :

”سمع الخليفة ماجد وكلامه
حق وفيه رحمة ونكال“
(سبل الهدى ج ۱ ص ۶۲۲)

قال كعب بن مالك رضي الله عنهما
على خير من حملت ناقته
واقى البرية عند التقى
على سيد ماجد بحضل
وخير الانام وخير اللهها
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۳۲۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَلِّسْنَا فِي الْجَنَّةِ النَّبِيَّ الْأَمِيرَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجِّزْ بِمَدَدِ كُلِّ مُسْلِمٍ أَدَّ
وَعَدَّ وَعَلَّفَكَ رُوحَهُ لِعَلِّكَ وَتَشْرِيكَ وَمِنَادُكَ لِكَلِمَاتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

سَيِّدِكَ الْمَلِيحِي

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سردار کفر کو مٹانے والے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں۔ میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماجی ہوں۔ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ کفر کو ختم کرے گا۔ اور میں حاشر ہوں جس کے قدموں پر قیامت کے دن لوگ اکٹھے ہوں گے۔ اور میں تمام نبیوں کے آخر میں آیا ہوں۔

یعنی حقیقت میں جزیرہ عرب سے کفر کو ختم کر دیں گے۔ اور حکماً تمام روئے زمین سے کفر کو زائل کر دیں گے۔

عن جبریل بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله ﷺ لي خمسة أسماء انا محمد و انا احمد و انا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر و انا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي و انا العاقب۔

(موطأ امام مالك ص ۳۹۲)
ای یزیلہ حقیقۃ من جزیرۃ العرب و حکما من جمیع الارض۔
(نیم الریاض ج ۲ - ص ۳۸۱)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

قال ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ
فی شرح الشمائل معناه
انت من امن به
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَعِي ذَنْبِ
كُفْرِهِ وَمَا عَمِلَهُ فِيهِ -

(نسيم الرياض ج ۲ - ص ۲۸۸)

نام من ماحی ست آنکہ محوے
کند حسد بوجود من و دعوت
من کفر را زیادہ از آنچه بدعت
پیغمبران دیگر کردہ -

(اشعة النعمات للشيخ عبدالحق الصلح ج ۳ ص ۲۸۲)

قال الزهري رحمۃ اللہ علیہ
اخبرني محمد بن جبیر
ابن مطعم رحمۃ اللہ علیہ عن
ابيه قال قال رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان لي اسماء
انا محمد وانا احمد
وانا الماحي الذي
يُمَعِي بي الكفر - (الحديث)
(ابوداؤد الطيالسي ج ۱ ص ۱۲)

علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شمائل
ترندی کی شرح میں فرماتے ہیں
اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو
شخص حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر ایمان
لے آئے اس کے کفر یہ گناہ
اور اعمال مٹا دیے جائیں گے۔

میرا نام ماحی اس لیے ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ میرے وجود اور
میری دعوت سے کفر کو اس سے
زیادہ مٹائے گا جتنا کہ دوسرے پیغمبروں
کی دعوت سے کفر کو مٹایا تھا۔

امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
مجھے خبر دی حضرت محمد بن جبیر
رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ حضرت
جبیر بن مطعم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضور اقدس
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا میرے بے شمار
نام ہیں۔ میں محمد ہوں اور میں احمد
ہوں اور میں ماحی ہوں۔ اللہ تعالیٰ
میرے ذریعے کفر کو نیست و نابود
کر دے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كُنَّا اللَّهُ لَا نُفِيهِ إِلَّا اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَلَّكَ مِنْكُمْ
رَبَّهُ وَخَلَقَكَ وَجْهِي لِيُحْيِيكَ وَمَنْ دَعَاكَ لَكَ اسْتَجَبْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

سَيِّدُكَ مَادِمَادٌ

اللَّهُ أَكْبَرُ
صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سرور ستودہ صفات درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

جب تو محمدؐ اور ماد ماد کے
حروف کو غور سے دیکھے گا۔ تو
دونوں کلموں کو ایک ہی پائے گا۔
کیونکہ دونوں میں اور ہمزہ اور ح
کا مخرج ایک ہی ہے۔ اور حرف
(د) کا استعمال (ذال) عبرانی لغت
میں عام ہے۔ وہ واحد کو ایجاز اور
قدس کو قوذس کہتے ہیں۔ اور
وال اور ذال قریب قریب ہیں۔
پھر جو شخص ان دونوں لغتوں اور ان
دونوں اسموں کو غور سے دیکھے گا۔ تو
وہ اس بات میں شک نہیں کریگا۔
کہ وہ دونوں حقیقت میں ایک
ہی ہیں۔

فاذا نظرت في حرف
محمد ﷺ وحروف
ماد ماد وجدت الكلمتين
كلمة واحدة فان اليمين
فيها والهمزة والحاء من
مخرج واحد والذال كثيرا
ما تجد موضعها ذالا في لغتهم
يقولون ايحاذ للواحد و
يقولون قوذس في القدس
والذال والذال متقاربتان
فن تأمل اللغتين وتأمل
هذين الاسمين لم يشك انهما
واحد۔

(جلاء الافهام في الصلوة والسلام على
خير الانام للشيخ ابن القيم الجوزية ص ۱۲۲)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ رَبِّمِنَّا يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَنْتُمْ بِمَدْرَسَةِ عَلَمٍ مَلَكُوتِي
 وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَمَا كَلَّمَكَ اللَّهُ الْخَلْقَ الْكَافِرَ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُشْرِكِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقَ

صِدْقِي عَلَيْهِ السَّلَامُ

ہمارے سردار تعریف کے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

عربی اور عبرانی لغات میں اس کی بیشمار مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر موسیٰ عبرانی لغت میں موشیٰ اشین کے ساتھ ہے جس کا اصل ماہ اور شجر ہے۔ وہ ماہ پانی کو ماہ اور شجر درخت کو شا کہتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر والوں نے ایک نہر سے اٹھایا جو ایک کڑھی کے صندوق اور پانی میں تیر رہا تھا۔ موسیٰ اور موشیٰ میں جو فرق ہے۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے محمد اور ماہ ماہ میں۔ اسی طرح اسماعیل انکی لغت میں شماعیل الف کے ساتھ جوئی اور الف کے درمیان ہے اور شین سین

ولهذا نظائر في اللغتين مثل موسى فانه في اللغة العبرانية موشى بالشين واصله الماء والشجر فاهم يقولون للماء مو و شا هو الشجر وموشى القبطه ال فرعون من بين الماء والشجر فالفاوت الذی بین موسیٰ و موشیٰ كالتفاوت بین محمد (ﷺ) وماذ ماذ وكذلك اسمعيل هو في لغتهم شماعيل بالالف بين الباء والالف وبشين بدل السين

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

فالتفاوت بينهما كالتفاوت
بين محمد (ﷺ) و ماذماذ
و كذلك العيص و هواخو
يعقوب يقولون له عيسى
وهو عيص -

(جلاء الافهام فى الصلوة والسلام على
خير الانام لشيخ ابن القيم الجوزية ص ۱۲۳)

و قالت طائفة
اخرى بل هي صريح
اسم محمد (ﷺ) قالوا ويدل
عليه ان الفاظ العبرانية
قريبة من الفاظ العربية
فهى اقرب اللغات
الى العربية فانهم
يقولون لاسماعيل
شما عيل و لموسى موسى
و قدسك قدسنا.

(الجواب الفصح للعلامة الموسى
ج ۱ - ص ۸۵)

کے بے۔ ان دونوں میں فرق ایسا
ہی ہے جیسا محمد اور ماذماذ
کافرق ہے۔ اور اسی طرح عیص
جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے
بھائی ہیں۔ اُسے وہ عیس کہتے
ہیں۔ حالانکہ وہ عیص ہے۔

اور ایک دوسرے گروہ نے
یہ کہا ہے۔ بلکہ یہ لفظ صریح محمد
ﷺ کے نام پر دلالت کرتا
ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ
اس پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ
عبرانی الفاظ قریباً قریباً عربی الفاظ
سے ملتے جلتے ہیں اور لغات
کے لحاظ سے بھی عربی کے بہت
قریب ہیں کیونکہ وہ اسماعیل کو
شما عیل اور موسیٰ کو موسیٰ اور
قدس کو قدس کہتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرَكَ اَلَا بِاللَّهِ
الَّذِي هُوَ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمَهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَمْرِ وَالْعِلْمِ وَالْحَقِّ وَالْبَرِّ وَالْاَعْلَى وَالْحَقِيقِ الْمَعْلُومِ الَّذِي هُوَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمَقْدُومُ وَالْمَوْلَى الْاَمْرُ الْاَمْرُ

سَيِّدُكَ **اَهْلِي الْمَوَدَّةِ** مُحَمَّدٌ **اَسْمَاءُ** ﷺ
لَكَ اِلَهٌ اَعْلَى
صَلَّى وَسَلَّمْ وَارْحَمَهُ

ہمارے سردار اللہ کی طرف سے حکم کئے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”سو آپ اسی طرف بولتے جائیے۔
اور جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے،
مستقیم رہیے۔“

”غرض آپ کو جس بات کا
حکم کیا گیا ہے، اس کو صاف صاف
سناد دیجئے۔ اور ان مشرکوں کی پرواہ
نہ کیجئے۔“

”آپ فرمائیے کہ مجھ کو صرف
یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی عبادت
کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہروں۔“
”پھر تم نے آپ کو دین کے
ایک خاص طریقہ پر کر دیا۔ سو آپ
اسی طریقہ پر چلتے جائیے۔“

اشارة الى قوله:

”فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ
كَمَا اُمِرْتَ“

(سورة الشورى ۱۵)

”فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ
وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ“

(سورة الحج ۹۲)

”قُلْ اِنَّمَا اُمِرْتُ
اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَا اَشْرِكَ
بِهٖط

(سورة الرعد ۳۶)

”ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ
شَرِيحَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا“

(سورة الجاثية ۱۸)

رَبِّمَا تَقْبَلُ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَخَلِّفِ فِيهِ
وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ كُلِّ نَبِيٍّ وَأُمَّةٍ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

سَيِّدِنَا الْمَلَأْمُونَ

ہمارے سردار امین بنائے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”بیشک تم کو اللہ اس بات کا
حکم دیتا ہے کہ اہل حقوق کو ان کے
حقوق پہنچا دیا کرو۔ اور یہ کہ جب
لوگوں کا تصفیہ کیا کرو تو عدل سے
تصفیہ کیا کرو۔ بیشک اللہ جس
بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ
بات بہت اچھی ہے۔ بیشک اللہ
خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔“
”اے ایمان والو! تم اللہ اور اس
کے رسول کے حقوق میں خلل مت
ڈالو اور آپس کی امانتوں میں جان
کرخیانت نہ کرو۔“

اشارۃ الی قوله،
” اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُكُمْ
اَنْ تُوَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلَىٰ
اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ
اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَظُنُّكُمْ
بِهِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝“

(سورۃ النساء ۵۸)
”يَآٰيَهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا
تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَكَ
وَتَخُوْنُوْا اَمَانَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ۝“ (سورۃ الانفال ۲۷)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا تَدْعُوْا لِحُكْمِ اللّٰهِ لَا يَنْفَعُ الْاِنْسَانَ شَيْئًا اَللّٰهُ يَصَلِّ وَسَلُوْا اَرْضَكُمْ عَلٰی سَيِّدَانَا وَمَوْلَانَا وَرَجُلَيْنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاَمْرِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَصَلِّتُمْ بِمَدْرَسَةٍ تَسْلَمُ اَنْ تَرْتَدَّ وَتُخْلِكَ رَوْحَ طَيْبِكَ وَتَنْتَعِزِكَ وَمَا كُنْتَ لَكَ اَسْتَعِزُّ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا اَلَّ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

المسحوب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہمارے سرور عظیم دینے والے دُرود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
قال قال رسول الله ﷺ
لعباس بن عبدالمطلب يا عباس
يا عماه الا اعطيك الا امحك
الا احبوك الا افضل لك
عشر خصال اذا انت فعلت
ذلك غفر الله لك ذنبك
اوله واخره وقديمه وحديثه
وخطاه وعمده وصغيره و
كبيره وسره وعلايته عشر
خصال ان تصلي اربع ركعات
تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب
وسورة فاذا فرغت من القراءة
في اول ركعة قلت وانت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس
ﷺ نے حضرت عباس بن
عبدالمطلب رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ
عباس! میرے چچا کیا تم پر عطیہ
نہ کروں کیا تمہارے ساتھ صلہ رحمی نہ
کروں۔ کیا تمہاری محبت کا حق ادا
نہ کروں۔ کیا تم کو دس کلمات بتلاؤں
کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے
تمام اول اور آخر پُرانے اور نئے
ارادی اور غیر ارادی چھوٹے اور بڑے
ظاہری اور باطنی گناہ معاف فرمادے؟
وہ دس کلمات یہ ہیں۔ کہ تم چار رکعتوں
کی نیت کرو۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ یٰ اَرْثَ الْعٰلَمِیْنَ ط

قام سبحان الله والحمد لله و
لا اله الا الله والله اكبر
خمس عشرة مرة ثم تركه فقول
وانت راع عشر اثم ترفع
راسك من الركوع فقولها
عشر اثم تهوى ساجدا
فقول وانت ساجد عشر
ثم ترفع راسك من السجود
فقولها عشر اثم تسجد
فقولها عشر اثم ترفع راسك
من السجود فقولها عشر
فذلك خمسة وسبعون
في كل ركة تفعل
في اربع ركعات ان
استطعت ان تصليها
في كل يوم مرة فافعل
فان لم تستطع ففي
كل جمعة مرة فان لم
تفعل ففي كل شهر
مرة فان لم تفعل
ففي عمرك مرة -

(سنن ابن ماجه ص ۹۹)

اور اسکے ہمراہ کوئی سی سورۃ پڑھو۔
بعد فراغت قرأت کی یہ کلمات پندرہ
مرتبہ کہو۔ سبحان الله والحمد
لله ولا اله الا الله
والله اكبر۔ یعنی اللہ
پاک ہے۔ اور اللہ کیلئے تعریف ہے۔ اور
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے
بڑا ہے۔ پھر رکوع کرو اور رکوع میں
دس مرتبہ یہی کلمات پڑھو پھر رکوع
سے سر اٹھانے کے بعد دس مرتبہ پڑھو۔
پھر سجدہ کرو اور سجدہ میں دس مرتبہ یہی
کلمات پڑھو پھر سجدہ سے سر اٹھاؤ تو
دس مرتبہ کہو پھر (دوسرے) سجدہ میں دس
مرتبہ یہی کلمات پڑھو۔ پھر سجدہ سے سر
اٹھاتے ہوئے دس مرتبہ پڑھو۔ پس یہ ہر
رکعت میں پچتر مرتبہ ہوگا۔ چاروں رکعتوں
میں اسی طرح کرو اگر تمہاری قدرت اور امکان
میں ہو تو روزانہ ایک مرتبہ یہ نماز پڑھو۔ اگر
ہر روز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو ہر جمعہ کے
روز پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو ہر ماہ
میں ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو
تو ساری عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَقِّرْ سُدُورَنَا بِمَاءِ طَهْرِكَ
وَمَدِّ خَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَرَحُّمِكَ وَمِنَّا عَلَى مَا كُنَّا نَسْتَفِرُّكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِنَا الْمَلِكُ الْمَكِّيُّ

ہمارے سردار جاری چشمہ درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو سیلاؤ۔
کہ اگر تمہارا پانی نیچے کو غائب ہی ہو
جائے سو وہ کون ہے جو تمہارے پاس
جاری پانی لے آئے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ ایک وقت ہم حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اور
ہمارے پاس پانی نہ تھا تو ہم سے حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے
پاس بچا ہو پانی ہو مانگ لو۔ پانی لایا
گیا اور اسکو برتن میں ڈال دیا۔ تو آپ نے
اس میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ تیربٹی آپ
کی انگلیوں سے چشموں کی طرح ابلتا تھا۔

إشارة إلى قوله :
”قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
أَصْبَحَ مَاءُكُمْ كُغُورًا فَمَنْ
يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ۝“

(سورة الملك ۳۰)
عن ابن مسعود رضي الله عنه
بينما نحن مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
وليس معنا ماء فقال لنا
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا من
معه فضل ماء فاقى بماء فصبه
فإناء ثم وضع كفه فيه فجعل
الماء ينبع من بين
اصابع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم -

(الشفاء للقاضي عياض ج ۱ - ص ۱۸۶)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا كَانَ لِلّٰهِ لَاحِظَةٌ اِلٰیٰنَا اللّٰهُ
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا نَبِيًّا وَرَحْمَةً عَلٰی
رَبِّهِ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَةً عَلٰی اُمَّةٍ كَانَتْ مِنْكَ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا نَبِيًّا وَرَحْمَةً
عَلٰی رَسُوْلِكَ

سُبْحَانَكَ يَا كَرِيمٌ
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سردار جاتے پناہ درود سلام بھیجے اللہ آپ پر

حضرت عبداللہ بن جعفر
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
مجھے حضور اقدس ﷺ نے ایک
دن اپنے پیچھے سوار کیا۔ پھر مجھے
چپکے سے ایک بات فرمائی جس کو
میں کبھی کسی سے بیان نہ کروں گا۔
اور قضا حاجت کے لیے جو چیز
آپ کو اچھی لگتی تھی، وہ یا تو ریت
کا ٹیلہ ہوتا یا کھجوروں کا جھنڈ۔ ایک
دن آپ کسی انصاری کے باغ میں
تشریف لے گئے وہاں ایک اونٹ
جگالی کر رہا تھا۔ اور اس کی آنکھوں
سے آنسو جاری تھے۔ بجز وعفان
زویوں کا بیان ہے جب اس نے

عن عبد اللہ بن
جعفر رضی اللہ عنہما قال ارد فی
رسول اللہ ﷺ
ذات یوم خلفہ فأسر
الی حدیثا لا اخبر بہ احد
ابدا وکان رسول اللہ
ﷺ احب ما استتر
بہ فی حاجتہ ہدف او
حائش نخل فدخل
یوما حائطا من
حیطان الانصار فاذا
جمل قد اماہ فجر جبر و
ذرفت عیناہ و قال بہز
وعفان فلما رای رسول اللہ

رَبَّنَا نَقْبَلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِیْمُ
اٰمِیْن اٰمِیْن اٰمِیْن یٰ اَرْحَمَ الرَّحِیْمِیْنَ ط

ﷺ حن و ذرفت عیناه
فمسح رسول الله ﷺ سراته
ذفراه فسكن فقال من
صاحب الجمل؟ فجاء فتى
من الانصار قال هولى يا
رسول الله ﷺ فقال
اماتتقى الله فى هذه
البيمة التى ملكها
الله لك؟ انه شكاه
الح انك تجيعه
وتدببه.

(تاریخ ابن کثیر ج ۶ - ص ۱۳۷)

قال صفية بنت
عبد المطلب ﷺ
النبي ﷺ

"ثمالمعدمين وكل جار
وماوى كل مضطهد غرباً"

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۱۲۹)

حضرت اقدس ﷺ کو دیکھا تو وہ
رو پڑا اور اس کی آنکھیں جاری ہو گئیں
آپ نے اس کو پیار کیا تو وہ خاموش
ہو گیا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ
اونٹ کس کا ہے؟ ایک نوجوان
انصاری آیا اور اس نے عرض کیا
کہ اے اللہ کے رسول! یہ میرا اونٹ
ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس جانور
کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے
جس کا اللہ نے تجھے مالک بنایا
ہے؟ یہ اونٹ تیری شکایت کرتا
ہے کہ تو اسے بھوکا پیاسا رکھتا ہے۔

حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب

رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس ﷺ
کا مٹبہ پڑھا۔

"بے کاروں اور پڑوسیوں کے
سہارا۔ اور ہر مفلس بے وطن کی
جائے پناہ۔"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرَكَ الْآيَاتُ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَسْبُنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأَمِينُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَنْتُمْ بِمَدَدِ كُلِّ مُتَّقِمٍ أَلَّا
تَمُوتَ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَوَسَائِدُ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِنَا الْمَلِكُ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

درد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

باب برکت

ہمارے سردار

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اور یوں کہنا کہ اے میرے رب
مجھ کو برکت کا اتارنا اتاریو اور
آپ سب آٹانے والوں سے
اچھے ہیں۔“

حضرت حسان بن ثابت
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں۔

”مبارک احمد ﷺ پر خدا
اور اس کے عرش کو گھیرنے والے
فرشتے اور پاک لوگ درود شریف بھیجیں“
حضور اقدس ﷺ کی چھوٹی
عائکہ مرثیہ پڑھتی ہیں۔

”مبارک اور صاحب توفیق و
تقویٰ الحقیقت کے حامی رشد و

اشارہ الی قوله:

”وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي
مَنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ
خَيْرُ الْمُنزِلِينَ“

(سورة المؤمنون ۲۹)

قال حسان

ابن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

”صلى الاله و مزيجت بعشه
والطيبون على المبارك احمد“

(شرح الموهب اللدنية للزرقاني ج ۲ ص ۱۳۲)

قالت عائكة بنت

عبدالمطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما:

”فابكى المبارك والموفق ذالمقى

حامى الحقيقة ذالرشاد المرشد“

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۳۲۶)

قال حسان بن

ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ :

"نوراً اضاء على البرية كلها

من يهد للنور المبارك يهد"

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۳۲۶)

قال حسان

ابن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يرف

رسول الله ﷺ :

"من الذي كان نوراً يستضاء به

مبارك الامر ذاحزم وارشاد

مصدقاً للنبيز الالى سلفوا

وابذل الناس للمعرف للمجادی

خير البرية انى كنت فى نهر

جار فاصبحت مثل المفرد لصاى

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۳۲۶)

هدایت والے پر خوب روو،

حضرت حسان بن ثابت

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے فرمایا۔

"تمام روئے زمین پر نور چمک

اٹھا۔ جو بابرکت نور سے ہدایت

لے گا، ہدایت پائے گا۔"

حضرت حسان بن ثابت

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے حضور اقدس ﷺ

کا بول مرتبہ پڑھا۔

"آپ تو وہ ہیں جن کے نور

سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔

بابرکت حکم والے پختہ ارادے اور

ہدایت والے۔ اگلے پیغمبروں کی

تصدیق کرنے والے اور تمام جہان

سے زیادہ سخاوت کرنے والے

مخلوق میں سب سے بہتر۔ میں تو گمراہی

کی نہر میں بہ رہا تھا اب میں کنارے

پر صحیح و سالم پہنچ گیا ہوں۔"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَّا
يُزِيلَهُمْ مِنْ جَنَّاتِكَ وَيُجْعَلَ مِنْهُمْ لِيَوْمِكَ وَمَوَادَّ لِمَنْ لَا يَسْتَعْرِضُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَبْدَأُ الْعَالَمِينَ

ہمارے سردار بابرکت احمد درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت حسان بن ثابت
رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس ﷺ
کا مشہد یوں پڑھا۔
انصار کیسا تھ شہرت لگ گئے ہیں۔
اور غم کے مارے ان کے چہرے سڑنے کی طرح سیا
ہو گئے ہیں۔ آپ کو ہم نے ہی پرورش کیا
اور آپ کی قبر بھی ہمارے ہی پاس ہے
اور ہم پر آپ کے انعام اتنے ہیں جن کا ہم
انکار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے آپ کو
ہمارے لیے تحفہ بنایا۔ آپ کے ذریعے اللہ نے
آپ کے انصار کی ہر گھڑی رہنمائی فرمائی
اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجے اور وہ فرشتے بھی
جنہوں نے اس کے عرش کے ارد گرد گھیر ڈال
رکھے۔ اور پاک ہستیاں مبارک اٹھ پر دو بیٹھیں۔

قال حسان بن ثابت
رسول الله يرفي النبي ﷺ:
”صاقت بالانصار البلاد فاصبحوا
سودا وجوههم كلون الاثمد
ولقد ولدناه، وفينا فبره
وفضول نعمته بنا لا تحمد
والله اهداه لنا وهدى به
انصاره في كل ساعة مسهد
صلى الاله ومن يحف برشه
والطيبون على المبارك احمد
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۲۱۳)

رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولِيْ عَقْلٍ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَنْ تَقَدَّمَ
 مِنْكَ وَمَدَدِ مَنْ تَخَلَّفَ مِنْكَ وَمَدَدِ كُلِّ مُؤْمِنٍ آمَنَ بِكَ اسْتَغْنَى اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ ﷺ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَنْ
 تَقَدَّمَ مِنْكَ وَمَدَدِ
 مَنْ تَخَلَّفَ مِنْكَ

ہمارے سردار بابرکت نام والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

قال حسان بن

ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:

"وشق لكم من اسمي ليحبله
 فذوالعشر محمود وهذا محمد"

(جلاء الافهام - ص ۱۱۲)

واما محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فلم يتسم به احد من العرب ولا

غيرهم الا حين شاع قبيل

مولده ان يسموا ببعث اسم محمد

فسمي قوم قليل من العرب ابناءهم

بذلك رجاء ان يكون احدهم

هو والله اعلم حيث يجعل

رسالته -

(القول البديع ص ۵۳)

حضرت حسان بن ثابت

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے فرمایا۔

"اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام عزت

عطا کرنے کے لیے اپنے نام سے نکالا

ہے۔ عرش والا محمود اور آپ محمد ہیں۔"

اور محمد کے نام پر کسی عربی کا نام نہیں رکھا

گیا اور نہ ان کے علاوہ کسی نے یہ نام رکھا یا

جب بات عام ہوگی کہ عنقریب آخری

نبی مبعوث ہونے والے میں جن کا نام محمد ہوگا تو

اس وقت اہل عرب میں سے چند نے اپنے بیٹوں

کا نام اس امید پر محمد رکھا کہ شاید یہ لڑکا وہی

ہو جو نبی ہونے والا ہے لیکن اللہ خوب

جانتا ہے کہ اس کی نبوت اور رسالت

کے لائق کون ہے۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ اللَّهُ لِأَخِيهِ الْإِسْحَاقَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَسْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعُمَّتِهِ بِمَدُونِهِمْ كُلِّ مَسْجُودٍ أَلَيْكَ
رَبِّهِمْ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرِزْقِكَ وَمِنَادُكَ يَا أَلَلَّهُ الْأَكْبَرُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ

سَبِّكَ يَا رَبِّ مَبْرُكًا يَا رَبِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار بابرکت نسل والے دُودُوسُلاً بِحُجْبِ اللَّاتِ بِتِ

حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت
حسین رضی اللہ عنہما دونوں کو اپنی انوں
پر بٹھایا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا
اور انکے خاوند حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بہت
قریب بٹھایا۔ پھر ان کو ایک چادر کے
اندر چھپا لیا۔ پھر آپ نے دعا کی کہ اے
اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ حضرت ائمہ
نے عرض کیا۔ کہ اے اللہ کے رسول کیا
میں آپ کے اہل خانہ میں سے نہیں
ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور تو بھی میرے گھر والوں میں سے
ہے۔

عن وائلة بن الاسقع
رضی اللہ عنہما روى ان النبي
صلی اللہ علیہ وسلم دعا حسنا و
حسینا رضی اللہ عنہما فاجلس
کل واحد منهما علی
فخذہ وادنی فاطمة
رضی اللہ عنہا من حجرہ وزوجھا
ثم لف علیہم ثوباً ثم
قال اللهم هؤلاء اہلی
قال وائلة رضی اللہ عنہ فقلت یا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا
من اہلیک فقال و انت
من اہلی۔

(رواہ البیہقی - جلاء الافہام ص ۱۶۱)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبِّ الْمَلِيقِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُخْفُونَهَا عَنْ النَّاسِ عَمَلًا وَاللَّهُ يَخْفَى عَنِ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعِزِّهِمْ مَدَى عِلْمِكَ وَمَنْ مَدَى عِلْمِكَ وَنِعْمَتِكَ وَمِنَافِعِكَ وَأَمْرًا بِكَ اسْتَشْفَاكَ اللَّهُ لَأَنَّ الْإِسْلَامَ لِيُحْيِيَ الْخَيْرُ وَالْأَمْرُ بِالْإِخْوَانِ

سُبْحَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ہمارے سرور بابرکت اُمت والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

جب ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ محمد ﷺ پر برکت نازل فرما تو اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ محمد ﷺ کا ذکر اور آپ کی دعوت اور شریعت ہمیشہ جاری رکھو اور آپ کے پیروکاروں کو زیادہ کرنے اور آپ کی جماعت میں ترقی فرما اور آپ کی اُمت میں سعادت و برکت کو عام کرنے کہ تو ان کے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرمائے اور ان کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے اور ان کو اپنی رضامندی کے گھر مقام میں آگے۔ تو اس صورت میں برکت و سعادت کی زیادتی اور ہمیشگی جمع ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے۔

فاذا قلنا اللهم بارك على محمد ﷺ فالمعنى اللهم ادم ذكر محمد ﷺ ودعوته وشريعته وكثر اتباعه واشياعه وعرف امته مزيمنه وسعاده ان تشفعه فيهم وتدخلهم جنانك وتحلهم دار رضوانك فيجمع التبريك عليه الدوام والزيادة والسعادة والله المعين -

(القول البدیع ص ۶۹)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین یا رب العالمین ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْبَلَاءَ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَنْتَهُ بِعَدَدِ كُلِّ مَلَكٍ أَنْ
رَبِّهِ وَخَلْقِكَ وَرَبِّكَ وَتَتَشَرَّفُكَ وَمَا أَذْكَرَكَ اسْتَشْفَى اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَبْلُوكُ الْأَمْرِ

ہمارے سردار بابرکت حکم والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اور اسی طرح ہم نے آپ کے
پاس وحی یعنی اپنا حکم بھیجا ہے“

پھر ہم نے آپ کو دین کے
ایک خاص طریقہ پر کر دیا سو آپ
اسی طریقہ کی اتباع کریں۔

حضرت حسان بن ثابت
رضی اللہ عنہما آپ ﷺ کا مرثیہ
پڑھتے ہیں۔

”آپ تو وہ ہیں جن کے نور سے
روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ بابرکت
حکم والے پختہ ارادے اور ارشاد والے“

اشارة الى قوله ،

” وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ط“

(سورة الشورى ۵۲)

” ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَا
شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ
فَاتَّبِعْهَا“

(سورة الجاثية ۱۸)

قال حسان

ابن ثابت رضي الله عنه يرضى
النبي ﷺ

” من الذي كان نوراً يستضاء به
مبارك الامر ذاهم وارشاد“

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۳ ص ۳۲۲)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ اللَّهُ لَهْوَةَ الْأَيَّامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَنْ تَسْلَمُ أَنْ
تُرْمَدَ وَتَحُلُوكَ وَجَلَّ عِلْمُكَ وَرَبِّكَ عِزُّكَ وَمَنَادُكَ عِزُّكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مَبَارَكٌ مَبَارَكٌ

ہمارے شہر مبارک شہر کے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قوله

”إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ
لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
وَهَدًى لِلْعَالَمِينَ“

(سورة العن ۱۹۶)

عن خالد بن عروة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْاِتِّحَادِي
عَنِ الْبَيْتِ اهُوَ اَوَّلُ
بَيْتٍ وَضِعَ فِي الْاَرْضِ
قَالَ لَا وَلَكِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ
وُضِعَ فِيهِ الْبَرَكَةُ۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ - ص ۲۸۳)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”تینا وہ گھر جو سب سے پہلے لوگوں کے
واسطے مقرر کیا گیا وہ ہے جو مکہ کے عیب میں
ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت
والا ہے۔ جہاں بھر کے لوگوں کا رہنا ہے۔“

حضرت خالد بن عروة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے

کھڑے ہو کر حضرت علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے

پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ

بیت اللہ سب سے پہلا گھر ہے جو زمین پر

بنایا گیا؟ حضرت علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے فرمایا

نہیں بلکہ یہ تو سب سے پہلا وہ گھر ہے

جس گھر میں برکت رکھی گئی۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ الْأَيْمَانَ • اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ الرَّاحِمِينَ وَعَنْتُمْ بِعَدْوَىٰ مَسْلُومٍ أَلَّا تَرِيَهُ وَتَحْكُمَ وَتَجْعَلَ لِي فِيهِ نَصْرًا وَمَدَدًا كَمَا أَنَّكَ اسْتَجَبْتَ لِي اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيِّ

مِثْلُ الْكَلْبِ

صَلَّى عَلَيْكَ
اللَّهُ وَأَوَّالِكَ
صَلَّى عَلَيْكَ

سَيِّدِكَ

ہمارے سردار بابرکت دعاؤں والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت ام اوس بہزیرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے گھی اکٹھا کر کے اس کو ایک کپے میں ڈال لیا۔ اور پھر اسے حضور اقدس ﷺ کی خدمت اقدس میں بطور تحفہ پیش کیا۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور تھوڑا سا کپے میں باقی چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے اس میں پھونکا اور برکت کی دعا کی پھر آپ نے فرمایا اس کپے کو اسے واپس کر دو۔ صحابہ نے وہ مجھے واپس کر دیا تو وہ گھی سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ حضور اقدس ﷺ نے میرا تحفہ قبول

عن ام اوس
البهزيرة رضي الله عنها قالت
سليت سمالي فجعلته
في عكة فاهديته
لرسول الله ﷺ
فقبله و ترك في
العكة قليلا و نفخ
فيها و دعا بالبركة
ثم قال ردوا
عليها عكها فردوها
عليها و هي مملوءة
سمنا قالت فظننت
ان رسول الله
ﷺ لم يقبلها

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

فجاءت ولها صراخ
 فقالت يا رسول الله
 انما سليت لك
 لتأكله فلم انه
 قد استجيب له
 فقال اذهبوا
 فقولوا لها فلتأكل
 منها وتدعو بالبركة
 فأكلت بقية عمر
 النبي ﷺ وولاية
 ابوبكر ﷺ وولاية
 عمر ﷺ وولاية
 عثمان ﷺ حتى
 كان من امر علي
 ومعاوية ﷺ
 ما كان.

(رواه البيهقي)

(تاريخ ابن كثير ج ۶ - ص ۱۰۲)

نہیں فرمایا۔ میں روتی ہوئی آپ
 کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی
 اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ
 میں تو یہ گھی آپ کے کھانے کے
 لیے لائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا
 تحفہ قبول ہے۔ اسے لے جاؤ۔
 اور اس کو استعمال کرو اور برکت
 کی دعا مانگتی رہو۔ تو میں نے وہ
 گھی نبی کریم ﷺ کی روصال
 تمک کی (بقیہ عمر میں کھایا اور اسی
 طرح حضرت ابوبکر ﷺ کی
 خلافت میں اور حضرت عمر فاروق
 ﷺ کی خلافت اور حضرت عثمان
 ﷺ کی خلافت میں استعمال
 کرتی رہی۔ حتیٰ کہ جب خلافت حضرت
 علی ﷺ اور حضرت معاویہ
 ﷺ کے درمیان بٹ گئی تو
 وہ گھی ختم ہو گیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَظَمْتَ مَعْرَتَهُمْ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ
رَبِّهِمْ وَخَلْقِهِمْ وَجَمِيعِ خَلْقِكَ وَتَحَرَّكَ وَمَا كُنَّا إِلَّا لَكَ اسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سُبْحَانَكَ يَا كَرِيمُ

ہمارے سردار مبارک دین والے درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
” بیشک دین (حق اور مقبول)
اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔“
” آج کے دن تمہارے لیے تمہارے
دین کو میں نے کامل کر دیا ہے۔ اور
میں نے تم پر انعام تمام کر دیا اور میں
نے اسلام کو تمہارا دین بننے کیلئے پسند کر لیا۔“
حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے
حال کی طویل حدیث میں وہی ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا زمین کو کہا جائے گا پھر
اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکت واپس کر۔
اسوقت ایک نار کا دانہ بھاری عجت
کھائے گی۔ وہ انار ان کو میرے گئے گا اور لوگ
اسکے پھل کے نیچے سایہ حاصل کریں گے۔

اشارہ الی قولہ:
” إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ
الإِسْلَامُ قَدْ “ (سورة العمران ۱۸)
” الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
دِينَكُمْ وَ أَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا ط “ (سورة المائدة ۳)
عن فاطمة بنت قيس
رضي الله عنها في حديث الدجال
ثم يقال للارض انبتي ثمرتك
وردى بركتك فيومئذ تاكل
العصابة من الرمانة فتشبعهم
ويستظلون بقحفها. (الحديث)
(سنن ابن ماجه ص ۲۹)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا الْعَلِيمُ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا أَشَاءَ اللَّهُ لَا تُغْنِيهِ الْآيَاتُ لِلَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَسْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَشْرَتِهِ سَلَامًا وَسَلَامَةً لَكَ
 وَمَعَهُ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَى سَائِرِ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ وَمَا أَدْعَاكَ اسْتَشْفَعُ بِكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَأَسْأَلُكَ بِهِ

مَبَارَكٌ مَبَارَكٌ مَبَارَكٌ

سَيِّدِكَ
 اللَّهُ الْأَمِينُ
 مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

ہمارے سردار بابرکت ذکر والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
 ”اور یہ ایک کثیر الفائدہ نصیحت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ سو کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو۔“ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا آوازہ بلند کیا۔“
 حضرت حسان بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ آپ کا مرثیہ پڑھتے ہیں۔
 ”اے آمنہ کے اکلوتے فرزند جس کا ذکر بابرکت ہے۔ پاکیزہ والدہ نے بڑے نصیبوں والے کو جن۔“

إشارة إلى قوله ،
 " وَ هَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ " (سورة الانبياء - ٥٠)
 " وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ " (سورة الانشراح ٢)
 قال حسان ابن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ
 النسي من الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 " يا بكر أمنا المبارك ذكره ولدته محصنة بسعد الاسد " (الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ ص ٢٢٢)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا تُخَذِلْنَا اللَّهُمَّ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَشْرَتِهِ بِعَدْوٍ كُلِّ مَسْلُومٍ أَنْ
تُرْمَدَ وَتُحْلَقَ رُجُوعِي لِقَائِكَ بِتَسْرِيَةٍ وَمَا كُنَّا بِكَ اسْتَشْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ وَأَعُوذُ بِكَ

مَبَارَكٌ مَبَارَكٌ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہمارے سرورِ بابرکت پیغمبری والے درود سلام بھیجیے اللہ آپ پر

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”بیشک اللہ اور اس کے
فرشتے درود بھیجتے ہیں اُن پیغمبر
پر۔ اے ایمان والو! تم بھی آپ پر
پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام
بھیجا کرو۔“

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
سے، ان اللہ و ملائكتہ
يصلون على النبي الذي تفسير
میں آیا ہے کہ فرشتے آپ پر برکت
کی دعا کرتے ہیں۔
پس مبارک وہ ہے جو ذاتی
طور پر کثیر الخیر ہو اور اس سے
خیر و برکت دوسروں کو بذریعہ تعظیم

اشارہ الی قولہ:
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
(سورة الاحزاب ۵۶)

قال ابن عباس
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ان الله وملائكته
يصلون على النبي قال
يباركون عليه.
(جلاء الافهام - ص ۱۰۸)
فال مبارك
كثير الخير في
نفسه التذي

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

يحصله لعنيره تعليمًا
و اقتدار و نصحاء
و ارادةً و اجتهادًا
و لهذا يكون العبد
مباركًا لان الله
بارك فيه و
جمله كذلك والله
تعالى متبارك
لان البركة
كلها منه فعبد
المبارك -

(اجلاء الافهام ص ۱۰۸)

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
في حديث التيمم
فقال اسيد بن الحضير
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقَدْ بَارَكَ اللهُ
لِلنَّاسِ فِيكُمْ يَا أبا
ابى بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْتُمْ
إِلَّا بِرُكَّةٍ لَهُمْ -

(تفسير ابن كثير ج ۲ - ص ۲۹)

اور اقرار اور نصیحت اور عقیدت و
احترام اور امور خیر میں سب سے
کوشش سے حاصل ہوتی ہو اس
لیے بندہ مبارک قرار پاتا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس
کے احوال میں شامل ہوتی ہیں۔
اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کو
بارکت کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ
مبارک ہے یعنی برکت دینے والا
اور جامع خیر ہے۔ کیونکہ ہر طرح کی
برکتیں اسی سے حاصل ہوتی ہیں۔
پس اس کا بندہ برکت والا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
سے تيمم کے نزول میں حضرت اسيد
بن حضير رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے فرمایا تھا کہ
اے ابو بکر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے گھر والو اللہ تعالیٰ
نے تمہاری وجہ سے لوگوں میں
برکت فرمائی۔ اور تم تو لوگوں کے
لیے برکت ہی برکت ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَضِدْ بِمَدِينَةِ مَقَامِهِ
وَمَدِينَةِ خَلْقِهِ وَرَحْمَتِكَ وَمَنَادِ عِبَادِكَ اسْتَشْفِئْنَا بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْشُّجْرِ وَالْأَمْرِ وَالْإِسْرَارِ

سَيِّدِنَا
مُبَارَكٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار بابرکت طریقے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف؛
”آپ فرمادیں گے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ
سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا
اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے
محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے
سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔
اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے
والے اور بڑی عنایت فرمانے
والے ہیں۔“

”مع اور رسول جو کچھ تم کو دے
دیا کریں وہ لے لیا کرو۔ اور جس
چیز سے تم کو روک دیں تم روک
جایا کرو۔“

اشارہ الی قوله
” قُلْ إِنْ كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي
يُحِبِّكُمْ وَاللَّهُ وَاعِظُكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ “
(سورة آل عمران ۳۰)

” وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا “
(سورة الحشر ۷)

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سُبْحَانَ اللَّهِ لَعَلَّهَا الْآبَاءُ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَعَصْرَتِهِ وَمَنْ تَلَّحَّهُمْ عَلَىٰ مَثَلِهِمْ لَكَ
 وَرَحْمَةً وَكَرَمًا وَجِئْنَا بِكَ يَا مُحَمَّدُ وَمَا كُنَّا نَسْتَعْرِضُكَ لَكَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْغَنِيُّ الْكَرِيمُ يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا ﷺ مَبْلَغَ الشَّعْمِ

ہمارے سردار بابرکت شریعت والے دُود و سلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قوله

"شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ
 بِهِ نُوحًا وَالدِّعَ
 أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ وَمَا
 وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
 وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ
 أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ
 وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ط"

(سورة الشعراء ۱۳)

"لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً
 وَ مِنْهَا جَا ط"

(سورة المائدة ۴۸)

اشارہ ہے اس قول کی طرف :-
 "اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے
 واسطے وہی دین مقرر کیا ہے جس
 کا اُس نے حضرت نوح کو حکم دیا تھا
 اور جس کو ہم نے آپ کے پاس
 وحی کے ذریعہ سے بھیجا ہے ۔ اور
 جس کا ہم نے حضرت ابراہیم اور
 حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ
 عَلَیْہِمُ السَّلَام کو حکم دیا تھا کہ اس
 دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ
 نہ ڈالنا۔"

"تم میں سے ہر ایک کے لیے
 ہم نے خاص شریعت اور خاص
 طریقت تجویز کی تھی۔"

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین آمین یا رَبِّ الْعَالَمِین ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا أَشَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
 وَمَنْ تَبِعَتْهُمْ وَبِحَبْلِ نَبِيِّكَ وَمِنَادِ ظَلَمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَبْرُكٌ الْغَدَاءُ

ہمارے سردار بابرکت غذا والے درود سلام بھیجیے اللہ آپ کی

حضرت عرباض بن ساریہ
 رَوَى ابْنُ مَجْزٍ عَنْهُ رَوَايَتٌ هِيَ - كَمَا
 مَجَّحَى حَضْرًا قَدَسَ ﷺ فِي
 رَمَضَانَ فِي سَحْرِى كَمَا كَانَتْ كِي
 دَعْوَتِ دِي - فَرَمَايَا أَوْ مُبَارَكِ كَمَا
 تَنَاوَلُ كَرُو -

حضرت مقدم بن معدى كرب
 رَوَى ابْنُ مَجْزٍ عَنْهُ رَوَايَتٌ هِيَ - كَمَا
 حَضْرًا قَدَسَ ﷺ فِي
 سَحْرِى كَمَا كَانَتْ كِي
 كِيُونَكْرُوهُ بَابِرَكْتِ كَمَا كَانَتْ هِيَ -

عن عرباض بن
 سارية رَوَى ابْنُ مَجْزٍ عَنْهُ رَوَايَتٌ هِيَ - كَمَا
 دَعَا فِي رَسُولِ اللَّهِ
 ﷺ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ
 إِلَى هَذَا الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ -
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۱۳۶)

عن مقدم بن
 معدى كرب رَوَى ابْنُ مَجْزٍ عَنْهُ رَوَايَتٌ هِيَ - كَمَا
 النَّبِيُّ ﷺ قَالَ عَلَيْكُمْ
 بِغَدَاءِ السَّحْرِ فَإِنَّهُ هُوَ
 الْغَدَاءُ الْمُبَارَكُ -
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۱۳۶)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مَا أَتَى اللَّهُ لَكَ مِنَ الْآيَاتِ وَلَقَدْ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَتَحْرِمَ الشُّعْرُ الْأَقْبِي وَتَقْبَلَ الْبِرَّ وَأَقْرَبَهُ وَحَمَّرَ مَعْدُنَ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ
 تَعْبُدَ وَتَحْتَمِلَ وَجْهَ نَبِيِّكَ وَتَسْتَرْشِدَ وَتَعَادَ كَمَا لَكَ اسْتَوْفَى اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْأَعْلَمُ وَأَسْمَى الْبُرْسِيِّ

مَبْرِئُ الْقَدْرِ

سَيِّدِك يَا مَبْرِئُ الْقَدْرِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ

ہمارے سردار بابرکت قبر والے
 درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

قال ابوسفیان
 ابن الحارث بن عبدالمطلب
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْكِي رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

" افاطم از جنعت فذاك عذر
 ولذو عجز عي ذاك السبيل

فتبرايك سيد كل قبر
 وفيه سيد الناس الرسول "

(الروض الانف ج ۳ - ص ۲۵۵)

قالت هند بنت الحارث
 ابن عبدالمطلب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 تَرَفَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

حضرت ابوسفیان بن حارث
 بن عبدالمطلب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نے حضور
 اقدس ﷺ پر یوں آہ و بکاہ کی۔

" اے فاطمہ اگر تو بے عیبی
 کا اظہار کرے تو تیرا عذر معقول
 ہے۔ اور اگر تو صبر سے کام لے
 تو اصل طریقہ تو یہی ہے۔ تیرے
 ابا جان کی قبر تو قبروں کی سردار
 ہے۔ اور اس (قبر میں تمام
 جہانوں کے سردار پیغمبر آرام فرما ہیں"
 حضرت ہند بنت حارث بن
 عبدالمطلب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نے حضور
 اقدس ﷺ کا مٹھیوں پر رکھا۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

”ان المبارك والميمون في جدت
قد الحقوه تراب الارض والحدبا“
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۳۱۰)
قال حسان بن
ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْكِي رَسُولَ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

”اطالت وقوفاً تذرف لعينيهما
على طلل القبر الذي فيه احمد

فعدت يا قبر الرسول وبوركت
بلاد ثوى فيها الرشيد المسد

تهيل عليه التراب ايد واعين
عليه ، وقد غارت بذلك اسعد

(تاريخ ابن كثير ج ۵ - ص ۲۸۰)

”با برکت اور بلند مرتبہ والے قبر
میں چلے گئے اور لوگوں نے آپ
کو مٹی اور کنکر میں چھپا دیا۔“
حضرت حسان بن ثابت
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے حضور اقدس صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
پر یوں نوحہ گری کی۔

”دیر تک کھڑے ہو کر آنکھیں
آنسو بہاتی رہیں۔ اس اونچی قبر پر
جس میں احمد صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشریف فرما
ہیں۔ اے رسول کی قبر تجھ پر
برکتیں نازل ہوں۔ اور ان مقامات
پر برکتیں نازل ہوں۔ جن میں تیرا
رشد والے پیغمبر نے قیام فرمایا تھا۔
ہاتھ آپ کی قبر پر مٹی ڈالتے ہیں
اور آنکھیں اس پر آنسو بہاتی ہیں۔
اور ایسی نیک نصیب آنکھوں کا
پانی خشک ہو گیا ہے۔“



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتَهُمْ بِعَدْوٍ مِنْ تَعْلَمُ أَنْ
 قَدَّمَهُ وَعَلَيْكَ وَجْهِ نَسْتَعِينُكَ وَمَعَاذُكَ مِنْ عَمَلِكَ اسْتَغْنَى اللَّهُ الْيَوْمَ لَكَ الْإِسْمَاءُ الْكَلِيمَةُ وَأَسْمَاءُ الْيَوْمِ

مَبْرُكٌ مَبْرُكٌ مَبْرُكٌ

ہمارے سزا بابرکت کتاب والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
 ”اور یہ بھی ایسی ہی کتاب ہے
 جس کو ہم نے نازل کیا ہے بڑی
 برکت والی ہے۔ اپنے سے پہلی
 کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔“
 ”اور یہ ایک کتاب ہے جس
 کو ہم نے بڑی خیر و برکت والی
 نازل کیا ہے۔ سوا ب تم اس کا
 اتباع کرو۔ اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔“
 ”یہ بابرکت کتاب ہے جس کو
 ہم نے آپ پر اس واسطے نازل کیا
 ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں
 غور کریں۔ اور تاکہ اہل فہم نصیحت
 حاصل کریں۔“

إشارة الى قوله ،
 ” وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ
 مُبْرَكٌ مُصَدِّقٌ لَّذِي
 بَيْنَ يَدَيْهِ “
 (سورة الانعام ۹۳)
 ” وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ
 مُبْرَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ “
 (سورة الانعام ۱۵۵)
 ” كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ
 مُبْرَكٌ لِيَدَّبَّرُوا
 آيَاتِهِ وَ لِيَتَذَكَّرَ
 أُولُوا الْأَلْبَابِ “
 (سورة ص ۲۹)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتَهُمْ بِمَدُونِ كُلِّ مَسْئَلَةٍ أَلَيْكَ
رَبِّهِمْ وَخَلْقِكَ وَوَجْهِكَ وَبِقُدْرَتِكَ وَمَا أَدْرَاكَ اسْتَعِزُّوا بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَتَىٰ الْوَيْلَ

سَيِّدِنَا مَبْرُكُ الْمَاءِ

ہمارے سردار بابرکت پانی والے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن عبد الله رضي الله عنه
قال كنا نعد الآيات بركة
وانتم تعدونها تخويفاً كنا
مع رسول الله ﷺ في سفر
فقل الماء فقال اطلبوا
فضلة من ماء فجاءوا باناء
فيه ماء قليل فادخل يده في
الإناء ثم قال حتى على الطهور
المبارك والبركة من الله
فلقد رأيت الماء ينبع من
بين اصابع رسول الله
ﷺ ولقد كنا نسمع
تسبيح الطعام وهو يؤكل
(صحيح البخاري ج ۱ - ص ۵۰)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
نے (ایک مرتبہ) فرمایا کہ ہم تو معجزات کو
باعث برکت تصور کرتے تھے لیکن تم
لوگ انکو باعث خوف سمجھتے ہو ہم حضور
آقدس ﷺ کیساتھ ایک سفر میں
تھے۔ پانی کی کمی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھوڑا
ساجپا ہو پانی تلاش کر لاؤ۔ لوگ ایک
برتن میں تھوڑا سا پانی لیکر حاضر خدمت ہوئے۔
آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا پھر آپ نے
فرمایا مبارک پانی کے پاس اور اللہ کی
برکت کے پاس آؤ۔ پس بیشک میں نے دیکھا
کہ حضور آقدس کی انگلیوں کے درمیان پانی
جوش مار رہا تھا اور ہم کھانا کھاتے تھے اور
اسکے قدموں سے سبحان اللہ سبحان اللہ کی آواز سنتے

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَصْرِتْ بِمَنْدُوكِ وَسَلِّمْ لَكَ
رَحْمَةً وَعِلْفِيَّتَ رَوْحِيَّةً وَمَا كَلَّمَكَ اللهُ مِنْ قَوْلِهِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَبِئَاتِ الْمَعْرَجِ

ہمارے سردار بابرکت معراج والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اور آپ نے آسمانوں میں) بیت معمور
اور حضرت ابراہیم خلیل کو دیکھا جو زمین
کے کعبے کے بانی ہیں جو آسمان کے کعبہ
(بیت معمور) کیسا تھ پیٹھ لگائے بیٹھے تھے۔
اس (بیت معمور) میں روزانہ ستر ہزار
فرشتے عبادت کیلئے داخل ہوتے ہیں۔
جن کی قیامت تک دوبارہ باری نہ آئے
گی۔ اور آپ نے وہاں جنت اور دوزخ
بھی دیکھی اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ
آپ پر چھاس نمازیں فرض کیں۔ پھر
آسانی فرمادی اور ان کو پانچ مقرر فرما
دیا۔ یہ اس کی خاص رحمت اور اپنے
بندوں پر خاص الخاص مہربانی تھی۔

ورای البیت المعمور
وابراہیم الخلیل علیہ السلام
بانی الکعبۃ الأرضیۃ مسند
ظہرہ الیہ لانہ الکعبۃ
السماویۃ یدخل کل یوم
سبعون الفامن الملائکۃ
یتعبدون فیہ ثم لا یعودون
الیہ الی یوم الیقمة ورأی
الجنة والنار وفرض
الله علیہ هنالك الصلوات
خمسين ثم خففها الی خمس
رحمة منه ولطفا بعباده۔
(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِینَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَخْتَلِمَ الشَّيْءُ الْأَعْيُنَ وَظَلَّ الْبَصِيرَ وَأَصْحَابَهُ وَعَجَزَ رَمْدٌ عَلَى مَنْ مَلَأَهُ اللَّهُ
 وَبَعْدُ وَحَلَّتْ رَوْحُ فَطْرِكَ وَبَشَّرَتْ بِكَ وَمَا دَعَاكَ إِلَّا أَنْ تَسْتَفْرغَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْقَيُّْومُ وَأَمَّا الْيَوْمُ فَالْيَوْمُ

سَيِّدِكَ مَبَارَكٌ الْمَنْزِلُ

ہمارے سردار بابرکت منزل والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت انس رضي الله عنه
 سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ کہ اے اللہ مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ سے دو گنی برکت عطا فرما۔

وہ منزل بڑی مبارک ہے کہ جس گھر میں آپ جیسا منظر چاند موجود ہو۔ وہ ملک (بھی) کس قدر بابرکت ہے کہ جس پر سید اکونین جیسے بادشاہ کی حکمرانی ہو۔

عن أنس رضي الله عنه
 عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم
 اللهم اجعل بالمدينة
 ضعفي ما جعلت بمكة
 من البركة۔

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۵۲)
 شعر :
 "مبارک منزله کا خانہ راس ہے جنس باشد
 ہمایول کشورے کا عرصہ راس ہے جنس باشد"
 (مدارج النبوة ج ۲ ص ۹۱)

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِمَّا آتَاكَ آتَتْ السَّمْعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَدَّتْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُطَهَّرَةِ
 وَبَعْدَهُ وَخَلْفَتِهِ وَأُمَّةٍ طَيِّبَةٍ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَدَّتْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُطَهَّرَةِ

مَبْرَأَاتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار بابرکت نبوت والے دُرودِ سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن العرباض
 ابن سارية رضي الله عنه قال
 قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم اني عند الله
 لخاتم النبيين وان
 آدم عليه السلام لمنجدل في
 طينته وسانبكم باؤل
 ذلك دعوة ابراهيم عليه السلام
 وبشارة عيسى عليه السلام
 بي ورؤيا امي التي
 رأت وكذلك امهات
 النبيين يرين -

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۸۳)

حضرت عرباض بن ساریہ
رضي الله عنه سے روایت ہے کہ
 حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمایا۔
 میں اللہ کے ہاں اس وقت سے
 خاتم النبیین ہوں جب حضرت آدم
عليه السلام کا خمیر مٹی میں گوندھا جا رہا
 تھا۔ اور عنقریب میں اپنی ابتداء
 سے آگاہ کروں گا میں حضرت ابراہیم
عليه السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ
عليه السلام کی بشارت ہوں اور اپنی
 والدہ کا خواب (بشارت) ہوں۔
 پیغمبروں کی مائیں اسی طرح خواب
 دیکھتی رہی ہیں۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین آمین یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَفْرِتِهِمْ بِمَدَدِ كُلِّ مُتَّقِمٍ لَكَ
 وَبِهِمْ وَخَلْقِكَ وَبِحَبْلِ نَسْتِكَ وَبِنُورِ شِعْرَتِكَ وَبِمَدَدِ كُلِّ مُتَّقِمٍ لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْإِسْلَامَ الْبَارِعَ وَالْإِيمَانَ الْبَارِعَ وَالْهُدَىٰ الْبَارِعَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَبْلَغُ النُّبُوَّةِ

ہمارے سردار بابرکت روشنی والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
 ”سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں
 اور انکی حمایت کرتے ہیں اور ان کی
 مدد کرتے ہیں اور اُس نور کا اتباع
 کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا
 ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانویں گے“
 ”بیشک تمہارے پاس اللہ کی
 طرف سے ایک روشن چیز آئی
 ہے۔ اور ایک کتاب وضع۔“
 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرثیہ یوں پڑھتے ہیں
 ”نور جو تمام جہان پر روشن ہوا۔ جو
 نور مبارک سے ہدایت طلب کئے
 وہ ہدایت پائے گا۔“

اشارہ الی قولہ،
 ”فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
 وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا
 النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ كَمَا
 أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“
 (سورة الاعراف ۱۵۷)
 ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ
 نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“
 (سورة المائدة ۱۵)
 قال حسان بن ثابت
رضی اللہ عنہ يرفي النبي صلی اللہ علیہ وسلم،
 ”نوراً اضاء على البرية كلها
 من يهد للنور المبارك يهد“
 (الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۱۱۲)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَعَفِّرْ عَنَّا وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ وَأَنَّ
رَبَّنَا دَخَلْنَاكَ وَرَحْمَتُكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَمَا دَخَلْنَاكَ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا مُنِيبُ الْيَوْمِ

سَيِّدِنَا مَلِيَّتُكَ

ہمارے سردار مباہلہ کرنے والے درودِ سلام بھیجیے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”آپ فرمادیجئے کہ آجاؤ ہم
راور تم (اور تم) بلا لیں اپنے بیٹوں کو اور
تمہارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو
اور تمہاری عورتوں کو اور خود اپنی
جانوں کو اور تمہاری جانوں کو پھر ہم
(سب مل کر) خوب دل سے
دعا کریں“

حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
اگر تم میرے رسول ہونے کا انکار
کرتے ہو تو آؤ میں تمہارے ساتھ
مباہلہ کرتا ہوں۔

اشارۃ الی قولہ:

”فَقُلْ تَعَالَوْا
نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَابْنَاءَكُمْ
وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ
وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ
ثُمَّ نَبْتَهِلْ“

(سورۃ آل عمران ۶۰)

قال رسول الله
ﷺ انكروا ما اقول لكم
اباھلكم۔

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۲۵۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا قَاتِلَةَ الْأَجَلِ أَيَّامِنَا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْزِلَتِ مِنْكَ رُوحُ الْقُدُسِ
 وَوَدَّوْكَ حَتَّىٰ رَوَىٰ عَنْكَ وَنَسَبَكَ وَمَا كُنَّا نَسْتَعِينُكَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِنَا الْمُبَرَّاءُ

ہمارے سردار گناہوں سے پاک درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

بری عادات سے محفوظ اور
 دور رکھے گئے۔

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
 ”آپ کہہ دیجئے کہ بس وہ تو
 ایک ہی معبود ہے اور بیشک
 میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔“

”کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں
 دست بردار ہوتے ہیں ان مشرکین
 کو امن دینے سے۔“

المزہ المبعد عن
 كل وصف ذميم۔

(سبل الہدیٰ ج ۱ ص ۶۱۳)

اشارہ الی قولہ:
 ”قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ
 وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ
 مِمَّا تُشْرِكُونَ“

(سورة الانعام ۱۹)

”أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 وَرَسُولُهُ“ (سورة التوبة ۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَقْرَبِهِ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ
وَمَدِينَةِ مَدِينَةِ نَبِيِّكَ وَرَبِّكَ وَمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ الَّتِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَافِرُ الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ الْيَقِينُ

سَيِّدِنَا الْمُبَشِّرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار بشارت دیے گئے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اشارہ الی قولہ:

”وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ
ابْنُ مَرْيَمَ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا
بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ
التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا
بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ
بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ“

(سورة الصف ۱۶)

والنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الذي هو خاتم المرسلين
الذي بشر به الانبياء
كلهم والتوراة وغيرها

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”اور جب حضرت عیسیٰ بن مریم
عَلَيْهِ السَّلَام نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل
میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا
ہوں۔ کہ مجھ سے جو پہلے توراہ (راہِ چکی)
ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا
ہوں اور میرے بعد جو ایک رسول
آئے والے ہیں۔ جن کا نام (مبارک)
احمد ہوگا۔ میں اُن کی بشارت دینے
والا ہوں۔“

اور آخری نبی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جو نبیوں
کے ختم کرنے والے ہیں۔ جن کی
بابت تمام نبیوں نے بشارت دی
ہے۔ اور آسمانی کتابوں تورات

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

من الكتب السماوية -
 (تفسیر المظہری ج ۹ ص ۲۴۱)
 وانا مبشر
 بمن بعدی وهو
 الرسول النبی الاخی
 العربی المکی احمد
 فعیسیٰ علیہ السلام وهو
 خاتم انبیاء بنی
 اسرائیل وقد اقام
 فی ملاء بنی اسرائیل
 مبشرا بمحمد وهو
 احمد خاتم الانبیاء
 والمرسلین لا رسالة
 بعد ولا نبوة -

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۵۹)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
 قال قدم الجارود بن
 عبد اللہ فاسلم وقال
 والذي بعثك بالحو لقد
 وجدت وصفك في الانجيل
 ولقد بشريك ابن البتول -
 (الخصائص الكبرى ج ۱ ص ۱۲)

اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں
 نے بھی بشارت دی ہے۔
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے
 ہیں۔ میں اپنے پیچھے آنے والے
 جو رسول۔ نبی۔ اخی۔ عربی۔ مکی۔ احمد
 ہیں۔ کی بشارت دینے آیا ہوں۔
 تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل
 کے انبیاء کو ختم کرنے والے تھے۔
 اور انہوں نے بنی اسرائیل میں
 علی الاعلان فرمایا کہ میں حضرت محمد
 ﷺ جو احمد ﷺ بھی ہیں،
 کی بشارت دینے والا آیا ہوں۔
 جو کل نبیوں اور رسولوں کو ختم کرنے
 والے ہیں۔ نہ ان کے بعد رسالت
 ہے اور نہ ہی نبوت۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ جاروت بن عبد اللہ
 حاضر خدمت ہوا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر
 اس نے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی
 جس نے آپ کو سچا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے آپ کی
 تعریف انجیل میں پائی ہے۔ اور بیشک آپ کی
 بشارتیں (حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَنْتُمْ بِعَدُوِّكُمْ وَسَلِّمْ وَأَنَّ
وَمَعَهُ خَلْقَكَ وَمَعَهُ قُدْرَتَكَ وَمَعَهُ كَلِمَاتُكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ أَعْلَى الْأَعْلَى وَالْحَقُّ أَكْبَرُ الْحَقِّ وَالْحَقُّ أَكْبَرُ الْحَقِّ

سَيِّدِنَا الْمُبَشِّرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار بشارت دینے والے دُودِ سَلامِ بَیِّنِ اللہِ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
دو ایسے نبی ہم نے بیشک آپ سے
کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے
کہ آپ گواہ ہوں گے۔ اور آپ
(مومنین کے) بشارت دینے والے
ہیں اور (کفار کے) ڈرانے والے
ہیں۔“

”سو ہم نے اس قرآن کو آپ
کی زبان (عربی) میں اس لیے آسان
کیا ہے۔ کہ آپ اس سے متقیوں
کو خوشخبری سنادیں اور (نیز) اس
سے جھگڑالو آدمیوں کو خوف دلا
دیں۔“

اشارۃ الی قوله :

” يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا “

(سورة الاحزاب ۳۵)

” فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ
بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ
الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ
قَوْمًا لُدًّا “

(سورة مريم ۹۷)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلِّ تَسْلِيمًا
 وَرَحْمَةً وَخَيْرَاتٍ وَأَعِزِّ لِحُجَّتِكَ وَأَعِزِّ لِحُجَّتِكَ وَأَعِزِّ لِحُجَّتِكَ وَأَعِزِّ لِحُجَّتِكَ وَأَعِزِّ لِحُجَّتِكَ

سَيِّدِكَ مَبِثَّةً

ہمارے سردار اپنی امت کو بشارت دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن ابی ذرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قال خرجت ليلة من
 الليالي فاذا رسول الله
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمشي وحده
 ليس معه انسان قال
 فظننت انه يكره ان
 يمشي معه احد فجلت
 امشي في ظل القمر
 فلتفت فراني فقال من
 هذا قلت ابو ذرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 جعلني الله فداك قال
 يا ابا ذرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تكالده
 فمشيت معه ساعة
 فقال ان المكثرين هم

حضرت ابو ذر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے بیان
 کیا کہ ایک دفعہ میں رات کو نکلا دیکھا
 کہ حضور اقدس ﷺ تنہا جا
 رہے ہیں میں نے خیال کیا کہ آپ نے
 اپنے ساتھ کسی کو لینا مناسب سمجھا
 ہوگا۔ اس لیے میں پاس نہ گیا اور
 چاندنی رات تھی۔ اندھیرے (اندھیرے)
 میں میں چلتا رہا۔ آپ نے مجھے دیکھ
 ہی لیا اور فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے
 عرض کیا۔ ابو ذر ہوں۔ اللہ تعالیٰ
 مجھے آپ پر فدا کرے۔ فرمایا اے
 ابو ذر! یہاں آ۔ میں ساتھ ہو گیا بھڑکی
 دیر کے بعد فرمایا قیامت میں (بڑے
 بڑے امیر) لوگ (بھی اعمال کے لحاظ سے)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین آمین یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ ط

المقلون يوم القيمة الا
من اعطاه الله خيراً
ففتح فيه يمينه وشماله
وبين يديه ووراءه
وعمل فيه خيراً قال
فشيت معه ساعة
فقال لي اجلس ههنا
قال فاجلسني في
قاع حوله حجارة فقال
لي اجلس ههنا حتى
ارجع اليك قال
فانطلق في الحرة حتى
لا اراه فلبث عني
فاطال اللبث ثم اني
سمعت وهو مقبل
وهو يقول وان
سرق وان زنى قال
فلما جاء لم اصبر
حتى قلت يا نبى الله
جعلنى الله فداك
من تكلم في جانب الحرة
ما سمعت احدا يرجع

غریب ہوں گے۔ لیکن وہ امیر
جن کو اللہ نے خیر کی توفیق دی اور
انہوں نے خوب خیرات کی اور نیک
کام کئے۔ (وہ مالدار رہیں گے)
پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اس جگہ
بیٹھ جا اور مجھے وہاں ایک نیچی جگہ
میں بس کے چاروں طرف پتھر تھے
بٹھا دیا اور فرمایا جب تک میں
لوٹ کر نہ آؤں یہیں بیٹھے رہنا اور
آپ پتھر لی زمین کی طرف تشریف
لے گئے۔ حتیٰ کہ میری نظر سے غائب
ہو گئے۔ بہت دیر کے بعد لوٹ
کر آئے۔ میں نے سنا کہ آپ یہ
فرماتے آ رہے تھے۔ اگرچہ چوری
اور زنا کیا ہو۔ پھر جب میرے پاس
تشریف لے آئے تو مجھ سے صبر نہ
ہوسکا اور میں نے پوچھ ہی لیا کہ
اے اللہ کے نبی ﷺ اللہ مجھے
آپ کا شیدا بنا لے۔ آپ اس
سنگریزہ میں کس سے باتیں کرتے آ
ہے تھے۔ میں نے دوسرے شخص
کی آواز نہیں سنی جو آپ سے باتیں

اليك شيئاً قال ذلك
 جبرئيل ﷺ عرض لي
 في جانب الحرة قال
 بشر امتك من مات لا
 يشرك بالله شيئاً دخل
 الجنة قلت يا جبرئيل
 ﷺ ان سرق وان
 زنى قال نعم قلت وان
 سرت وان زنى قال
 نعم قلت وان سرت
 وان زنى قال نعم
 وان شرب الخمر قال
 ابو عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هذا
 اذا تاب وقال
 لا اله الا الله عند الموت.
 (مصحيح البخاري ج ۲ ص ۹۵۳)
 مذهب اهل السنة
 باجمعهم ان اهل الذنوب
 في مشيئة وان من مات
 موقفاً بالشهادتين يدخل
 الجنة - (فتح الباري ج ۱۱ ص ۲۲۵)

کرتا تھا۔ فرمایا یہ حضرت جبرئیل
 ﷺ تھے۔ وہ پتھر لی زمین پہ
 میرے سامنے آئے۔ کہہ رہے تھے
 کہ آپ اپنی امت کو بشارت دے
 دیجئے کہ جو شخص شرک سے پاک مر گیا
 وہ ضرور جنتی ہے۔ میں نے کہا
 اے جبرئیل ﷺ اگرچہ اس
 نے چوری اور زنا کیا ہو تب بھی
 انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے پھر دوبارہ
 کہا انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے
 سہ بارہ کہا انہوں نے کہا ہاں اگرچہ
 شراب بھی کیوں نہ پی ہو۔ امام
 ابو عبد اللہ بخاری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کہتے
 ہیں کہ یہ اس وقت ہے کہ توبہ و
 تلافی کر لی ہو اور مرتے وقت یہ
 کہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
 تمام اہل سنت کا مذہب ہے۔
 کہ گناہگار خدا تعالیٰ کی مشیت میں
 ہے۔ اور جو کلمہ شہادت پر یقین رکھتا
 ہو اور مر گیا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ كُلِّ مَسْلُومٍ وَأَلِّمْهُمُ الْجَنَّةَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَبْدِئُ نَبِيَّاتٍ

ہمارے سرکارِ انبیاءِ علیہم السلام کو بشارت دینے والے درودِ سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک
لمبی حدیث میں روایت ہے۔
قیامت کے دن لوگ حضرت آدم
علیہ السلام کے پاس (شفاعت کیلئے)
آئیں گے۔ وہ فرمائیں گے میں اس کا اہل
ہیں تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس
جاؤ۔ وہ بھی ایسے ہی فرمائیں گے
اور ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے پاس بھیجیں گے۔ وہ ان کو حضرت
موسے علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے
وہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی طرف بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ
علیہ السلام ان کو حضور اقدس حضرت
محمد مصطفیٰ ﷺ کی طرف بھیجیں

عن جابر رضی اللہ عنہ
فی حدیث طویل
فیقول آدم علیہ السلام
لست بصاحب ذاکم
اذہبوا الی نوح
علیہ السلام فیقول لہم
کذلک ویرشدہم الی
ابراہیم علیہ السلام
فیرشدہم الی موسیٰ
علیہ السلام ویرشدہم
موسیٰ علیہ السلام الی
عیسیٰ علیہ السلام فیرشدہم
عیسیٰ علیہ السلام الی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیقول

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا ط

انا لها انا لها۔

(نہایت البدیۃ لابن کثیر ج ۱ ص ۲۱۹)

عن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قال حدثني نبي الله ﷺ

قال اني لقاتم انتظر

امتي تعبر الصراط اذ

جاءني عيسى عليه السلام فقال

هذه الانبياء قد جاءتك

يا محمد ﷺ يسألونك

او قال يجتمعون اليك۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۵۶)

و بشارت دہندہ ام مردم را

بہ شفاعت و رحمت وقتے کہ

نومید شوند و از انبیا شفاعت

طلبند و ایشان اقدام بر آن

نہ توانند و عذر آرد۔

(اشعۃ القعات ج ۲ - ص ۴۷۷)

گے۔ آپ ﷺ فرمائیں گے۔

ہاں میں ہاں میں اس کام کو

کروں گا۔

حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت

ہے کہ مجھے اللہ کے نبی ﷺ نے

بیان فرمایا کہ میں اپنی امت کا کھڑا

ہو کر انتظار کروں گا کہ وہ پل صراط کو عبور

کرنے۔ اچانک ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام

آئیں گے اور کہیں گے۔ یہ تمام نبی آپ

کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔

آپ سے سوال کرتے ہیں یا وہ

تمام آپ کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں

اور میں لوگوں کو شفاعت اور

رحمت کی اس وقت بشارت دوں

گا۔ جب وہ نا امید ہو جائیں گے۔

اور وہ نبیوں سے شفاعت طلب

کریں گے۔ وہ نبی وہاں اس کی

جرات نہ کریں گے۔ اور عذر

کریں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَدٍ
 وَبِهِدْ وَخَلْقَتْ وَبِحَيْ قَلْبِكَ وَنَسْتَعِزُّكَ وَمَدَدَ ظِلْمَتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَبْدَأُ كَسْبِ رَبِّكَ

ہمارے سرکارِ نامیوں کو بشارت دینے والے درودِ سلام بھیجے اللہ آپ پر

اشارہ الی قولہ :

" فَالْهَكْمُ الرَّؤُفِ
 وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْمَآءُ
 وَكَبِيرُ الْمُحِبِّتَيْنِ "

(سورۃ الحج ۳۳)

" وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
 بِأَنَّ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا
 كَثِيرًا " (سورۃ الاحزاب ۴۷)
 " وَ أَنَا بُوَا إِلَى اللَّهِ
 لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ
 عِبَادِ " (سورۃ الزمر ۱۰)

عن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

اشارہ ہے اس قول کی طرف :

" تمہارا معبودِ حقیقی ایک ہی
 خدایے تو تم ہمہ تن اسی کے ہو کر
 رہو۔ اور اسے محمد ﷺ آپ
 (ایسے احکام الہیہ کے سامنے)
 گردن جھکا دینے والوں کو جنت
 کی خوشخبری سنا دیجئے۔ "

" اور مومنین کو بشارت دیجئے
 کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل
 ہونے والا ہے۔ "

" اور ہمہ تن اللہ کی طرف
 متوجہ ہوتے ہیں وہ مستحقِ خوشخبری
 سنانے کے ہیں۔ "

حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے

قال قال رسول الله
ﷺ انا اولهم
خروجاً و انا قاندهم
اذا وفدوا و انا
خطيبهم اذا انصتوا
و انا مشفعهم اذا
حسبوا انا مبشرهم
اذا ائیسوا۔

(الحديث)

(سنن الدارمی ج ۱ ص ۳)

عن علی رضی اللہ عنہ

ان رسول الله ﷺ
قال لا شفيع لامتي حتى
ينادي بي ربي ارضيت
يا محمد ﷺ فاقول اي
رب رضيت۔ (الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۱۲۳)

عن انس رضی اللہ عنہ

قال قال رسول الله ﷺ
سألت ربي اللاهين من
ذرية البشر ان لا يعذبهم
فلعطائهم۔

(الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۲۲۳)

روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا میں سب سے
پہلے قبر سے نکلوں گا۔ اور جب وفد
خدا کے ہاں جائے گا تو میں ان کا
قائد ہوں گا۔ اور جب وہ خاموش
ہوں گے تو میں ان کی طرف سے
خطیب ہوں گا۔ اور جب روکے
جائیں گے تو میں ان کی سفارش
کروں گا۔ اور جب وہ ناامید ہوں
گے تو میں ان کو بشارت دوں گا۔
حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے
روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے
فرمایا میں اپنی امت کی سفارش کروں گا۔
حتیٰ کہ میرا رب مجھے آواز دے گا۔ اے محمد
ﷺ کیا آپ راضی ہو گے میں عرض
کروں گا کہ اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا میں نے
اپنے رب سے کھیل کود کے دوران فوت ہو
جانے والے بچوں کے واسطے سوال
کیا کہ وہ انہیں عذاب نہ کرے تو اللہ تعالیٰ
نے ان کے بارے میں میرے سوال کو قبول فرمایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً قَدِ اتَّخَذَتْهُ دِينًا إِنَّ اللَّهَ عَاطِلٌ عَنِ الضَّلَالَةِ • اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ بَعْدَهُمْ عَلَىٰ مَثَلِهِمْ أَلَّا يَكُونَ لَهُمْ مُدْرِكُونَ وَمَنْ تَلَا هَذِهِ آيَاتِكَ اسْتَغْفَرَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَكِيمُ وَأَمَّنَ الْإِسْلَامَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِينَةِ الْحَبَشَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار حضرت حسن کو بشارت دینے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا۔ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔

عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال "الحسن سيد شباب اهل الجنة" (رواه البزار- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۹ ص ۱۶۸)

عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في الحسن بن علي رضی اللہ عنہما ان ابني هذا سيد وليصلحن الله بهما بين فئتين من المسلمين عظيمتين۔

(رواه الطبرانی في الاوسط والكبير مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۹ ص ۱۶۸)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدُونِ كُلِّ مُسْلِمٍ لَكَ
 حُجْرَةٌ وَسَعْدَةٌ وَوَجْهٌ مُطَهَّرٌ وَرُحْمَةٌ مُبَارَكَةٌ وَرَأْسٌ مُسَدَّدٌ لَكَ اللَّهُمَّ لَوْلَا إِكْرَامُكَ الْعَرَبِيَّةَ وَأَنْزَالُكَ إِلَيْهَا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَبْنِيَّاتُ الْحَيَاتِ

ہمارے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بشارت دینے والے دُودُؤُا مَبْحِجِ اللہ آپ کے

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم نے حضور اقدس ﷺ کے چہرہ اقدس پر خوشی کے آثار دیکھے۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ آج تو ہم آپ کے چہرہ اقدس پر سرور دیکھ رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں خوش کیوں نہ ہوں۔ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی ہے کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں جوان جنتیوں کے سردار ہوں گے اور ان کے والد محترم ان دونوں سے افضل ہیں۔

عن حذيفة رضي الله عنه قال رأيت في وجه رسول الله ﷺ السرور يوما من الايام فقلنا يا رسول الله ﷺ لقد رأيت في وجهك تابشير السرور فقال كيف لا أسرو وقد أتاني جبريل عليه السلام فبشرني ان الحسن والحسين رضي الله عنهما سيلا شباب اهل الجنة وابوهما افضل منهما.

(رواه الطبراني) (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۹ ص ۱۸۳)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَسْبُنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأَمِينُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعِزَّتِهِمْ مَعَهُ كُلِّ مَلَكٍ أُنْكَبِ
 وَمَعَهُ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَحَنُّنِكَ وَمَنَادُكَ كَمَا بَلَغْتَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ الْغَنِيُّ وَأَسْأَلُكَ

سَيِّدِكَ مَدِينَةُ الْفُقَرَاءِ

ہمارے سردار فقیروں کو جنت کی بشارت دینے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ میں نے
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے
 تھے۔ قیامت کے دن مسلمان فقیر
 اس حال میں آئیں گے کہ ان کو کہا
 جائے گا۔ کہ حساب کے لیے ٹھہ جاؤ
 وہ جواب میں کہیں گے تم نے ہمیں
 کیا دیا ہے جس کا حساب ہم سے
 مانگتے ہو؟ وہ اور لوگوں سے
 چالیس سال پہلے بہشت میں داخل
 ہو جائیں گے۔

عن سعید بن عامر
رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم يقول تجئني
 فقراء المسلمين يوم القيمة
 على كورهم فيقال لهم
 قفوا للحساب فيقولون
 ما اعطينا شيئا نحاسبنا
 عليه فيدخلون الجنة
 قبل الناس باربعين
 سنة۔ (رواه الطبرانی)
 (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۱۰ ص ۲۶۱)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدَتِي وَرَبِّي وَأَجْزَلِ النَّبِيِّ الْأَمْوِيِّ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجِّزْ بَعْدَهُ عَلَىٰ سَلَامٍ لَكَ
وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَوَجْهَ نَسَبِكَ وَرَمَادَ عِلْمِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدَتِي مَدِينَتِي

ہمارے سردار پرہیزگاروں کو بشارت دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف،
”سو ہم نے اس قرآن کو آپ
کی زبان (عربی) میں اس لیے آسان
کیا ہے کہ آپ اس سے متقیوں کو
خوشخبری سنادیں اور (نیز) اس سے
جھگڑالو آدمیوں کو خوف دلا دیں۔“
”اللہ کے اصل دوست تو
متقی ہی ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ تقویٰ یہ ہے
کہ تو اپنے آپ کو کسی سے بہتر
خیال نہ کرے۔

إشارة إلى قوله:
” فَإِنَّمَا يَسْتَرْئِيهِ
بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ
بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ
بِهِ قَوْمًا لُدًّا “

(سورة مريم ۹۰)
” إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا
الْمُتَّقُونَ “ (سورة انفال ۳۲)

قال ابن عمر
رضي الله عنهما التقوى ان
لا تری نفسك خيرا من
احد - (مظہری ج ۱ ص ۱۷۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِكَ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجَزْتَ بِعَدُوِّكَ مِنْ تَقْلِيمِ أُمَّةٍ
وَمَنْ دَخَلَكَ رَوْحٌ نَشِطٌ وَرَيْحٌ نَشِيطٌ وَمَا دَخَلَكَ اسْتَفْهَامٌ لَمْ يَلِدْ إِلَّا الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُبَشِّرِ الْمُبَشِّرِينَ

ہمارے سردار نبی کریم والوں کو بشارت دینے والے درود سلام بھیجیے اللہ آپ پر

اشارہ ہے اس قول کی طرف :-
”تا کہ تم راہ اللہ کی راہ میں اُن کو
قربانی کر کے اس بات پر اللہ کی
بڑائی بیان کرو کہ اس نے تم کو
اس طرح قربانی کرنے کی توفیق
دی اور (اے محمد ﷺ) خلاص
والوں کو خوشخبری سنا دیجئے :-
”اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں
اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں
اور نبی کرو بیشک اللہ دوست رکھتا
ہے نبی کرنے والوں کو“

اشارہ الی قوله ،
” لَتُكَبِّرُوا اللَّهَ
عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ
وَكَثِيرٍ الْمُحْسِنِينَ ۝
(سورة الحج ۳۷)

” وَأَنْفِقُوا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّمَلُّكِتِ
وَاحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۝ (سورة البقرة ۱۹۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَوَعْدِهِمْ وَعَلَى مَنْ مَلَكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَرَبِّكَ وَوَعْدِكَ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَوَعْدِهِمْ وَعَلَى مَنْ مَلَكَ مِنْ مَلَائِكَتِكَ وَرَبِّكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلِكِنَا مُحَمَّدٍ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سردار فرمانبرداروں کو بشارت دینے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
 تمہارا معبود حقیقی ایک ہی
 اللہ تعالیٰ ہے تو تم ہمہ تن اسی کے ہو
 کر رہو اور اے محمد ﷺ آپ
 ایسے احکام الہیہ کے سامنے گردن
 جھکا دینے والوں کو جنت کی
 خوشخبری سنا دیجئے۔

جو ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ
 کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے
 ہیں۔ جو ان مصیبتوں جو ان پر پڑتی ہیں
 صبر کرتے ہیں اور نماز کی پابندی
 رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو
 دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔

إشارة إلى قوله :
 " فَالَهُكُمْ إِلَهُ
 وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا
 وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ
 الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ
 اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ
 وَالصَّابِرِينَ عَلَى
 مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي
 الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 يُنْفِقُونَ "

(سورۃ الحج ۳۳-۳۵)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِذِكْرِ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِ وَعَدِّدْ عَلَيْنَا مَلَكُوتَكَ
وَمِنَّةَ دُخْلِكَ وَجَنَّاتِكَ وَرِزْقَكَ وَمَنَاءَ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَكِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِكَ مَبَشِّرًا بِبَرَكَاتِهِ

ہمارے سردار مومنوں کو بشارت دینے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
” اور جو ایمان لے آئے ان کو یہ
خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب
کے پاس پہنچ کر ان کو پورا مرتبہ
ملے گا۔“
” اور مومنین کو بشارت دیجئے کہ
ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل
ہونے والا ہے۔“
” اللہ کی طرف سے مدد اور جلدی
فتح یابی اور اے محمد ﷺ
آپ مومنین کو بشارت دے دیجئے۔“

اشارہ الی قوله :
” وَكَبِّرِ الَّذِينَ
آمَنُوا إِنَّ لَهُمْ
قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ط (سورة يونس - ۲)
” وَكَبِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا
كَبِيرًا “ (سورة الاحزاب - ۳۷)
” نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَ
فَتْحٌ قَرِيبٌ ط وَكَبِّرِ الْمُؤْمِنِينَ “
(سورة الصف - ۱۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِین ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيَأْتِيَ بِالْحَقِّ الْآبَاءَ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأُمَّةٍ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَكُنْ يَلْمُهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ

سَيِّدِنَا الْمُرْتَبِعُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار بھیجے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

إشارة إلى قوله
 "هُوَ الَّذِي
 بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
 رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا
 عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ
 وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
 وَ الْحِكْمَةَ وَ إِنْ
 كَانُوا مِنْ قَبْلُ
 لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝"

(سورة الجمعة ۱۲)
 "لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
 رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ
 آيَاتِهِ" (سورة العنكبوت ۱۷۳)

اشارے سے اس قول کی طرف
 "وہی ہے جس نے عرب کے
 ناخواندہ لوگوں میں ان ہی (کی قوم)
 میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ
 کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنتے ہیں۔ اور
 ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمیرہ سے
 پاک کرتے ہیں۔ اور ان کو کتاب اور
 دانشمندی کی باتیں سکھاتے ہیں اور
 یہ لوگ (آپ کی بعثت سے) پہلے
 کھلی گمراہی میں تھے۔"
 "حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر
 احسان کیا جبکہ ان ہی کی جنس سے ایک ایسے
 پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ
 کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنتے ہیں۔"

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين يا رب العالمين ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا حَقَّ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْبَتِهِمْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ
وَمَدِينَةِ مَدْيَنَةَ وَحَقِّقْ وَرَبِّكَ وَمَا كَلَّمَكَ اللَّهُ الْفِي لَيْلَةِ الْاِحْتِمَالِ الْفَقِيمِ وَالْمَرْبِ الْبَرِّ

سَيِّدِنَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

ہمارے سردار امیوں کی طرف بھیجے گئے درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت ابی ریحان اللہ عیسیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ حضرت جبریل علیہ السلام کو احجار المرانی کے پاس ملے۔ تو حضور اقدس ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ میں امی امت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ جن میں بوڑھے گنہگار اور معمر عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آپ انہیں حکم دیں کہ وہ قرآن سات قرأتوں پر پڑھیں۔

عن ابی ریحان اللہ عیسیٰ قال لقی رسول اللہ ﷺ جبریل علیہ السلام عند احجار المرای فقال رسول اللہ ﷺ لجبریل علیہ السلام انی بعثت الی امة امیین فیہم الشیخ العاصی والنجوزة الکبیرة والعلام قال فرہم فلیتروا القران علی سبعة احرف۔ (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۳۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِي يَا مَوْلَانَا وَجَنَّتِي مَحَلَّ الشَّيْءِ الْأَمْرِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ سَلَامًا مَقَامًا
وَمَعْدًا مَحَلَّتْ وَجْهِي فَسَلِّمْ وَارْحَمْ لِي وَمَعْدًا مَحَلَّتْ فَسَلِّمْ وَارْحَمْ لِي وَمَعْدًا مَحَلَّتْ فَسَلِّمْ وَارْحَمْ لِي وَمَعْدًا مَحَلَّتْ فَسَلِّمْ وَارْحَمْ لِي

سَيِّدِي يَا مَوْلَانَا الْمَبْعُوثُ

ہمارے سردار تبلیغ کے لیے بھیجے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قولہ:

الَّذِينَ يَبْلُغُونَ
رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَحْشُونَ
وَلَا يَحْشُونَ أَحَدًا
إِلَّا اللَّهَ ط

(سورة الاحزاب ۳۹)

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ إِنَّمَا بَعَثَنِي
اللَّهُ مَبْلَغًا وَلَمْ يَبْعَثَنِي
مَعْنَةً.

(جامع الترمذی ج ۱ - ص ۱۶۶)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”یہ سب پرغمبران گذشتہ ایسے
تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے
اور اس باب میں اللہ ہی سے
ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا کسی سے
نہ ڈرتے تھے۔“

حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے
روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے
صرف تبلیغ کرنے کے لیے مبعوث
فرمایا ہے۔ اور اس نے مجھے
مشکلات پیدا کرنے کے لیے
نہیں بھیجا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتَهُمْ بِعَدْوَىٰ مَنْ سَلَّمَ لَكَ
 قَوْمًا وَخَلَقْتَ وَجْهِي فَضَّلْتَ وَرَبَّنَا فَضَّلْتَ وَرَبَّنَا فَضَّلْتَ وَرَبَّنَا فَضَّلْتَ وَرَبَّنَا فَضَّلْتَ وَرَبَّنَا فَضَّلْتَ وَرَبَّنَا فَضَّلْتَ

سَيِّدِكَ الْمُرَبِّعِ الْمُبِجِجِ

ہمارے سردار سچے رسول درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
 ”ہم ہی نے آپ کو (دین) حق دے
 کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا
 بنا کر بھیجا ہے۔“
 ”اے تمام لوگو تمہارے پاس یہ رسول
 سچی بات لے کر تمہارے پروردگار
 کی طرف سے تشریف لائے ہیں۔“
 ”یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ جو
 صحیح صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سنتے
 ہیں۔“
 پھر ان (حضرت نوح علیہ السلام)
 کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی
 قوموں کی طرف بھیجا۔ سو وہ ان کے
 پاس معجزات لے کر آئے۔“

اشارہ الی قوله
 " اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ
 بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ ط
 (سورة فاطر ۲۳)
 " يَا أَيُّهَا النَّاسُ
 قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ
 مِنْ رَبِّكُمْ۔ (سورة النساء ۱۰۰)
 " تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ
 نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ۔
 (سورة العنكبوت ۱۰۰)
 " ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ
 رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ
 بِالْبَيِّنَاتِ۔
 (سورة يونس ۷۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَصَفِّحْ بِمَدَدِ قُدْرَتِكَ كُلِّ مَسْأَلَةٍ
رَبِّهِمْ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ

سَيِّدِنَا مُرَبِّعُونَ الْإِسْلَامَ

ہمارے سردار رحمت کے ساتھ بھیجے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قوله:

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“

(سورة الانبياء ۱۰۷)

عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال قال رسول الله ﷺ
ان الله تعالى بعثني رحمة.
(الفتح الكبير ج ۱ ص ۲۲۸)

عن ابى هريرة
رضي الله عنه قال قال رسول الله
ﷺ انما بعثت رحمة
ولم ابعث عذابا.

(الفتح الكبير ج ۱ ص ۲۳۷)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”اور ہم نے آپ کو اور کسی بات
کے لیے نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے
لیے رحمت بنا کر“

حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما
سے روایت ہے۔ کہ فرمایا حضور
اقدس ﷺ نے اللہ تعالیٰ نے
مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے
روایت ہے۔ کہ فرمایا حضور اقدس
ﷺ نے میں تو صرف رحمت بنا
کر بھیجا گیا ہوں۔ اور میں عذاب
دے کر نہیں بھیجا گیا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِّصْهُ مِنَ النَّارِ وَالْأَحْزَابِ وَصَفِّرْ مَعْدِنَهُ عَلَى مَلَكُوتِ الْمَلِكِ
وَمَدِّ وَجْهَكَ وَرَحْمَتَكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَمِنَادُ عَلِيٍّ أَلَمَّا اسْتَفْضَلَهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِكَ الْمُبْتَلِغِ

ہمارے سردار تبلیغ کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اے رسول جو جو کچھ آپ کے
رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا
گیا ہے۔ آپ سب پہنچا دیجئے۔“
”یہ سب ریغمبران گذشتہ ایسے
تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے
تھے۔ اور اس باب میں اللہ
ہی سے ڈرتے تھے۔“

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے
خطبے میں ارشاد فرمایا تم سے میری
بابت قیامت کے دن سوال ہو
گا۔ تم کیا کہو گے؟ ان سب نے

اشارہ الی قوله
”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا
أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ“
(سورة المائدة: ۶۷)
”الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ
رِسَالَاتِ اللَّهِ وَ
يَحْشَوْنَ“
(سورة الاحزاب ۳۹)

عن جابر بن
عبد الله رضی اللہ عنہما في
خطبة حجة الوداع
قال و انتم تسألون
عني فما انتم
قائلون قالوا نشهد

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

انک قد بلغت
وادیت و نصحت فقال
باصبعه السبابة یرفها
الی السماء وینکتها
الی الناس اللهم
اشهد اللهم اشهد
ثلث مرات.

(اصح مسلم ج ۱ ص ۲۹۷)

قال محمد بن کعب القرظی
لما انھی رسول الله ﷺ
الطائف عمد الی نفر من
ثقیف هم یومئذ سادۃ ثقیف
واشرافهم وهم اخوة ثلاثة
عبداللیل بمثناة تحتیة بعدها
الف ثم لام مکسورة ثم مثناة
تحتیة ساکنه ثم لام و مسعود حبیب
بنو عمرو بن عمیر کذا فی المنتقی.

و فی المواهب اللدنیة
غیر هذا و عند احد هم
امراة من قریش من
بنی جمح فجلس
الیهم فدعاهم الی

بیک زبان کہا۔ کہ ہم گواہی دیتے
ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا اور ادا کر
دیا اور آپ نے خیر خواہی کی۔ اس
پر آپ نے انگشت شہادت کو
آسمان کی طرف اٹھایا۔ اور پھر اسے
لوگوں کی طرف نیچا کر کے فرمایا۔ اے
اللہ تو گواہ رہ۔ اے اللہ تو گواہ رہ
تین مرتبہ فرمایا۔

حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ جب طائف تشریف لے
گئے تو قبیلہ ثقیف کے تین سرداروں
کی طرف تبلیغ کرنے پہنچے وہ تین بھائی
تھے۔ ایک عبدیلیل ی اس کے بعد
الف پھر لام مکسورہ پھری ساکن پھر
لام۔ دوسرا مسعود۔ تیسرا حبیب۔
عمرو بن عمیر کے بیٹے جیسے کہ انتقی میں ہے۔
اور المواہب اللدنیہ میں دوسری
طرح بیان ہے۔ ایک کے گھر قریش
میں سے بنو جمح کی عورت تھی۔ آپ
ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان
کو خدا تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور

آپ نے ان سے گفتگو کی اور ان سے فرمایا کہ وہ اسلام کی نصرت میں آپ کا ساتھ دیں۔ اور آپ کے ساتھ مل کر مخالفوں کا سدباب کریں۔ تو ان میں سے ایک بولا اور اس نے غلاف کعبہ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ اچھا۔ تو آپ کو اللہ نے بھیجا۔ ہے؟ دوسرا بولا آپ کے سوا اللہ کو اور کوئی نہیں ملا۔ جس کو وہ پیغمبر بنا کر بھیجتا۔ تیسرا بولا اللہ کی قسم میں تجھ سے کبھی کلام نہ کروں گا۔ اگر واقعی آپ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے۔ پھر تو بہت ہی خطرناک ہیں۔ میں آپ سے کس طرح ہم کلام ہوں۔ اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ سے ہم کلام ہونا میرے لائق ہی نہیں۔

حضور اقدس ﷺ ان کے پاس سے ناامید ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور فرمایا جو کچھ تم نے کیا سو کیا۔ لیکن آپ میری گفتگو کو پوشیدہ رکھیں۔ اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس گفتگو کو

اللہ عزوجل وکلمہم بما جاءہم من نصرتہ علی الاسلام والقیام معہ علی من خالفہ من قومہ فقال احدہم ہو میرط ثیاب الکعبۃ ان کان اللہ ارسلک وقال الآخر اما وجد اللہ احدایرسلہ غیرک وقال الثالث واللہ لا اکلمک کلمۃ ابدائن کنت رسولا من اللہ کما تقول لانت اعظم خطرا من ان اردد علیک الکلام وان کنت تکذب ما ینبغی لی ان اکلمک۔

فقام رسول اللہ ﷺ من عندہم وقد نیس من حنیر ثقیف فقال لهم اذ فعلتم ما فعلتم

فاکتوا علی و کره
رسول الله ﷺ ان
یبلغ قومه ذلك فلم
یفعلوا واغروا به سفاءهم
وعبیدهم یسونه ویصیون
به حتی اجتمع الناس علیه
فجعلوا یرمونه بالحجارة
حتى ان رجلیه لتدمیان -

قال موسى بن
عقبة رضی اللہ عنہ رجوا عراقیہ
بالحجارة حتى اختصبت
نعلاه بالدماء و زاد
غیره و كان اذا ذلقتہ
الحجارة قعد الى الارض
فیاخذونه بعصديه یقیمونه
فاذا مشى رجوه وهم
یضحكون وزید بن حارثہ
رضی اللہ عنہ یقیه بنفسه
حتى لقد شج فی
رأسه شجاجا -

(تاریخ خمیس ج ۱ - ص ۳۰۲-۳۰۳)

اہل مکہ تک نہ پہنچائیں۔ لیکن ان
بدبختوں نے آپ کی بات نہ مانی۔
بلکہ اٹا اپنے بیوقوفوں اور غلاموں کو
گالیوں پر ابھارا اور آپ کے پاس
چلائے۔ حتیٰ کہ کافی لوگ آپ کے
ارد گرد جمع ہو گئے۔ آپ کو پتھر مارنے
شروع کئے حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک
لوہمان ہو گئے۔

حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ
نے کہا کہ انہوں نے آپ کی اڑیوں
پر پتھر مارے حتیٰ کہ آپ کی نعل مبارک
خون سے رنگین ہو گئی۔ ان کے علاوہ
دوسروں کا بیان ہے کہ جب آپ
پر پتھروں کی بارش ہوتی تو زمین پر
بیٹھ جاتے۔ تو وہ آپ کو بازوؤں سے
پکڑ کر کھڑا کرتے۔ پھر جب آپ چلتے
تو پھر پتھر مارتے اور ساتھ ہی ہنستے
اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ
آپ کو اپنے جسم سے بچاتے حتیٰ کہ
ان کا سر انہوں نے پتھر
مار مار کر شدید زخمی کر دیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَخَلِّفْ فِيهِمْ
وَمَنْ وَجَّهْتَ وَجْهَكَ وَتَجَرَّعْتَ وَغَدَّكَ مَا لَكَ إِلَّا الْاِكْرَامُ وَالْاِحْقَامُ وَالْاِحْقَامُ وَالْاِحْقَامُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سرار رسالت کی تبلیغ کرنیوالے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کی طرف سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اے رسول جو کچھ آپ کے رب
کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے۔
آپ سب پہنچا دیجئے۔ اور اگر آپ
ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اپنے
اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا اور
اللہ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔“
حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں۔
کہ حضور اقدس ﷺ خدا کے
مامور بندے تھے۔ آپ نے وہ
سب کچھ لوگوں تک پہنچا دیا جو
آپ کے پاس اللہ کی طرف سے
بھیجا گیا تھا۔

اشارہ الی قوله:
”يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ
بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ
مِنْ رَبِّكَ ط وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَ اللَّهُ يُعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط
(سورة المائدہ ۶۷)
عن ابن عباس
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ
عَبْدًا مَامورًا بَلِّغْ
مَا أَرْسَلْ بِهِ - (الحديث)
(سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۱۱۱)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَصَفِّحْ لَنَا فِي كُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ وَمِنْ جَمَلِ قَوْلِكَ وَبِحَبْلِ عِمَّتِكَ وَأَمْرِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَبِّحْهُ مِنْ مَسْجِدِ

ہمارے سردار مباح کرنے والے دُور و سلام بھیجے اللہ آپ سے

حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام اپنی کتاب میں نازل فرمائے اور اپنے نبی اقدس صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے لیے ان کو سنت ٹھہرایا اور لوگوں کے لیے ان کو مباح قرار دیا۔

حضرت جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نے جنتی میت پر دُعا مانگنے کے بارے میں اباحت فرمائی ہے۔ اتنی کسی اور چیز پر اباحت نہیں فرمائی مقصد یہ کہ دُعاؤں کے بارے میں کوئی تعین نہیں جو دُعا چاہے پڑھ سکتا ہے۔

عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَهُ فِيْ كِتَابِهِ وَسَنَّهُ لِنَسَبِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبَا حَلَةَ النَّاسِ -

(مجمع البخاری ج ۱ - ص ۲۱۳)

عن جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا اَبَاحَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ شَيْءٍ مَا اَبَاحُوا فِي الصَّلَاةِ عَلٰى الْمَيِّتِ يَعْنِيْ لَمْ يُوَقِّتْ -

(ابن ماجہ ص ۱۰۸)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَقْرَبِهِ وَسَلِّمْ عَلَى سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ
وَمَدِّ يَدِيكَ وَرَحْمَتَكَ لِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُرْسَلِينَ

ہمارے سردار شریعت کو بیان کرنے والے دُور و دُور پہنچانے والے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”تمہارے پاس یہ رسول آئے
ہیں۔ کتاب میں سے جن امور پر تم
انخفا کرتے ہو۔ ان میں سے بہت سی
باتوں کو تمہارے سامنے صاف صاف
کھول دیتے ہیں۔“

”تمہارے پاس ہمارے یہ رسول آ
پہنچے جو کہ تم کو صاف صاف بتاتے ہیں۔
ایسے وقت میں کہ رسولوں کا سلسلہ
موقوف تھا۔“

”اور ہم نے تم (پہلے) پیغمبروں کو
رہی) ان کی قوم کی زبان میں پیغمبر بنا
کر بھیجا ہے تاکہ ان سے احکام
الہیہ کو بیان کریں۔“

اشارہ إلى قوله،
” قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا
مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ
مِنَ الْكِتَابِ “

(سورة المائدة ۱۵)
” قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا
يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فِتْرَةٍ
مِّنَ الرَّسُولِ “

(سورة المائدة ۱۹)
” وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ
إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ
لِيُبَيِّنَ لَهُمْ “

(سورة ابراهيم ۴)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

« وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ
مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

(سورة النحل ۳۳)

« وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ
لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
فِيهِ ۗ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً
لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝

(سورة النحل ۶۴)

فكان رسول الله
ﷺ يعرض نفسه
في المواسم اذا كانت
على قبائل العرب
يدعوهم الى الله ويخبرهم
انهم نبي مرسل
ويسألهم ان يصدقوه
ويمنعوه حتى يبين
عن الله ما بعثه
بها - (الروض الافق ج ۲ ص ۱۴۳)

” اور آپ پر بھی یہ قرآن اتارا
ہے تاکہ جو مضامین لوگوں کے
پاس بھیجے گئے۔ ان کو آپ ان
پر ظاہر کر دیں اور تاکہ وہ ان
میں فکر کیا کریں۔“

” اور ہم نے آپ پر یہ کتاب
صرف اس واسطے نازل کی ہے
کہ جن امور دین میں لوگ اختلاف
کر رہے ہیں۔ آپ (عام) لوگوں پر
اس کو ظاہر فرمادیں اور ایمان والوں
کی ہدایت (خاصہ) اور رحمت کی
غرض سے۔“

پھر حضور اقدس ﷺ عرب
قبائل کے کفار کے میلوں میں بنفس
نفس حاضر ہوتے۔ ان لوگوں کو اللہ
(کے دین) کی دعوت دیتے اور ان
کو خبر دیتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے
بھیجے ہوئے نبی مرسل ہیں، اور فرماتے
کہ میری ربوت کی تصدیق کرو اور
کفار کو روکو حتیٰ کہ میں ان کو اللہ کے
وہ احکام جو اللہ نے مجھے دے کر
بھیجا ہے بیان کروں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَكْفُلْ اللَّهُ لَهُ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَكْفُلْ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَكْفُلْ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَكْفُلْ اللَّهُ لَهُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُبِينِ

ہمارے سردار ظاہری شریعت والے دُرد و سلام بھیجیے اللہ آپ سے

إشارة الى قوله:
" قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا
أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ " (سورة الحج ۲۹)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
" آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں
تو صرف تمہارے لیے ایک آشکارا
ڈرانے والا ہوں۔"

عن أنس رضي الله عنه
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم
حتى أحضوه بالمسألة
فصعد النبي صلى الله عليه وسلم
ذات يوم المنبر فقال
لا تسألوني عن شيء
الابنيت لكم . (الحدیث)
(صحیح البخاری ج ۲ - ص ۱۰۵ ط)

حضرت انس رضي الله عنه سے
روایت ہے کہ صحابہ کرام نے
حضور اقدس ﷺ سے بہت
سوال کئے۔ حتیٰ کہ سوالوں سے
حضور اقدس ﷺ کو تنگ کر دیا
تو آپ ﷺ ایک دن منبر
پر تشریف لائے اور فرمایا جو پوچھو
گے میں اس کو بیان کر دوں گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَنَّتْنَا بِحَبْلِكَ الْبَيْتِ الْأَقْبَى وَظَلَمْنَا بِرَأْسِكَ وَحَفَّتْ بِمَدُونِكَ مَشَارِقُ الْأَرْضِ
وَمَشَارِقُ الْعَالَمِ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَالْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

سُنِّيكَ الْمُبِينِ حِكْمِ اللَّهِ

ہمارے سرکارِ احکامِ خداوندی کو بیان فرمانے والے دُرودِ سلام بھیجیے اللہ آپ کے

إشارة الى قوله
”وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ
الْمُبِينُ“

(سورة الحجر ۸۹)
”أَنِّي لَهُمُ الذَّكْرَى
وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ
مُّبِينٌ“ (سورة الدخان ۱۳)

عن الجرموسى
رَوَى اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ خَطْبَانَا وَ
بَيْنَ لَنَا سُنَّتَنَا
وَعَلِمْنَا صَلَوَاتَنَا.

(الحديث)
(ابن ماجه ص ۶۳)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اور کہہ دیجئے کہ میں کھلم کھلا
رحم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے
والا ہوں۔“

”اُن کو (اس سے) کب نصیحت
ہوتی ہے۔ حالانکہ (اس سے قبل)
ان کے پاس ظاہر شان کا پیغمبر آیا۔“
حضرت ابو موسیٰ رَوَى اللَّهُ بَيْنَهُمَا
روایت ہے۔ کہ ہمیں حضور اقدس
ﷺ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور
ہماری سنتیں بیان فرمائیں اور ہمیں
آپ ﷺ نے ہماری نماز
تعلیم دی۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينُ أَمِينُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا سَأَلَ اللَّهُ لِأَخِيهِ إِلَّا اللَّهُ • اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْنَا بِمَحَلِّ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَمِّرْتَهُمْ بِعَدَدِ كُلِّ مَلَكٍ مَلَائِكَةٍ وَبِعَدَدِ خَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبِعَدَدِ كَلِمَاتِكَ أَسْتَعِينُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَلِيمُ الْحَقِيقُ وَأَنْتَ الْبَارِئُ

سَبَّحَ اسْمُكَ اللَّهُمَّ

ہمارے سردار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف: "اور سب سے قطع کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔" اللہ کی عبادت میں خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے یہ اسم فاعل کا قبل (فعل) سے صیغہ ہے جس کا معنی اخلاص اور الی اللہ انقطاع ہے۔ اور اسی سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بتول (یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والی خاتون) کہا جاتا ہے۔

اور تَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً کے معنی ہیں اسی کی طرف عبادت میں

اشارہ الی قوله: "وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً" (سورة المزمل ۸) المخلص المنقطع الی اللہ تعالیٰ بعبادته اسم فاعل من التبتل وهو الاخلاص والانقطاع الی اللہ تعالیٰ ومنه قيل لمريم سلام اللہ علیہا البتول۔

(سبل الہدی ص ۶۲۳) وَ تَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً اِیْ انْقَطَعَ

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

الیہ انقطاعاً بالاستتغال
عبادتہ را تبتل
الانقطاع يقال بتلت
الشیء ای قطعته
ومیزتہ من غیرہ
و صدقہ بتلہ ای
منقطعة من مال
صاحبها ویقال للراہب
متبتل لانقطاعه عن
الناس و منه قول
الشاعر :

"تضی الظلام بالعشاء کأنها
منارة مسمی راہب متبتل"

رفع القدير للشوكافي ج ۵ - ص ۳۰۸

قال ابن عباس ومجاهد و

ابوصالح وعطية والضحاك و

السدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتَلًا

ای اخلص له العيادة وقال

الحسن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اجتهد وابتل

اليه نفسك وقال ابن جرير

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُقَالُ لِلْعَابِدِ مَتَبْتَلٌ

تفسير ابن كثير ج ۳ - ص ۲۳۷

مکمل رجوع کرنا اور تبتل انقطاع
کو کہتے ہیں۔ عربی کا محاورہ ہے
بتلت الشیء یعنی اس کو
کاٹ دیا اور غیر سے اس کو علیحدہ
کر دیا اور صدقہ بتلہ
کا معنی یہ ہے کہ وہ صدقہ صاحب
مال کے مال سے علیحدہ ہو جائے۔
عیسائیوں کے راہب کو بھی تبتل
کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوگوں سے علیحدہ
ہو جاتا ہے۔ اسی ضمن میں شاعر کا
قول ہے۔ "رات کو اندھیرے روشن
ہو جاتے ہیں۔ جیسے راہب (دنیا
سے علیحدہ) کا منار رات کو روشن
رہتا ہے۔"

حضرت ابن عباس، مجاہد، ابوصالح، عطیہ،

ضحاك اور سدي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ نے اس

آیت اور سے قطع کر کے اللہ کی طرف رجوع

کرو کے بارے میں فرمایا اسکے معنی ہیں کہ اللہ

کی خالص ننگی کریں حضرت حسن بصری اس بارے

میں فرماتے ہیں۔ اسکی عبادت میں کوشش کریں اور

اپنے نفس کو اسکی طرف رغبت کریں اور ابن جریر

فرماتے ہیں کہ عربی میں عابد کو متبتل کہتے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجِّزْ مَعَهُ عَلَى تَقْلِيمِ أُمَّةٍ
رَبِّهِمْ وَخَلْقِ رُوحِهِمْ فَتُحْيِيَهُمْ وَيُنْفِخُ مِنْهُمْ وَمَا دَخَلَتْ أَسْتَفْذِلُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْحَكِيمُ وَأَمَّا الْبَشَرُ

سَيِّدِنَا الْمُبْتَسِمِ

ہمارے سردار بمبتسم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
انها سئلت كيف كان
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اذا حنلا في بيته
قالت كان الين الناس
واكرم الناس وكان
رجلا من رجالكم الا
انه كان ضحاكا بساما -
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۳۶)

حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے
پوچھا گیا کہ جب حضور اقدس ﷺ
گھر میں علیحدہ ہوتے تو آپ کی
حالت کیسی ہوتی وہ فرماتی ہیں۔
کہ آپ نرم اور بزرگ ترین لوگوں
میں سے تھے اور آپ دوسرے
لوگوں کی طرح ایک انسان تھے
مگر آپ ہنس مکھ اور بہت مسکرانے
والے تھے۔

عن سماك بن
حرب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قلت
لجابر بن سمره رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اکت
تجالس رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال نعم

حضرت سماک بن حرب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بیان کرتے ہیں۔ کہ میں نے حضرت
جابر بن سمرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے عرض کیا
کہ کیا آپ حضور اقدس ﷺ کے
پاس بیٹھا کرتے تھے۔ انہوں نے

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ آمِينَ رَبِّمِن يَارَبِّ الْعَالَمِينَ ط

فكان طویل الضمت
وكان اصحابه يتناشدون
الاشعار و يذكرون اشياء
من امر الجاهلية فيضحكون
ويتبسم رسول الله
ﷺ -

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۲۴۲)

عن جرير بن
عبد الله الجعفی قال
ما جئني رسول الله
ﷺ منذ اسلمت
ولا راني الا تبسم
في وجهي ولقد شكوت
اليه اني لا اثبت
على الخيل فضرب
بيده في صدري فقال
اللهم ثبته واجعله
هاديا مهديا -

(سنن ابن ماجه ص ۱۵)

فرمایا کہ ہاں آپ ﷺ زیادہ
سکوت رکھتے اور آپ کے صحابہ کرام
شعر پڑھا کرتے تھے اور کفر کے
زمانے کی رسموں کا ذکر کیا کرتے
تھے۔ پھر وہ ہنستے تھے۔ اور حضور
اقدم ﷺ مسکراتے تھے۔

حضرت جریر بن عبد اللہ جعفی

رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب
سے میں مسلمان ہوا ہوں مجھ سے حضور
اقدم ﷺ نے کبھی پردہ نہیں
فرمایا اور جب بھی آپ میری طرف
دیکھتے، مسکراتے اور میں نے آپ
کی خدمت میں شکایت کی کہ میں
گھوڑے پر چم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ
نے اپنا دست مبارک میرے سینے
پر مارا اور دعا مانگی کہ اے اللہ اسے
ثابت رکھ اور اس کو ہدایت دینے
والا ہدایت یافتہ کر دے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِّصْهُ مِنَ النَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ وَالنَّارِ
وَبَعْدُ خَلِّقْ وَجْهِي نَسْكَ وَرِزْقِي حَيْثُ شِئْتَ وَمَنَادُ كَلِمَاتِكَ اسْتَعِظُ بِاللَّهِ الْعَلِيمِ الْكَرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيمِ الْكَرِيمِ

سَيِّدِنَا الْمَسِيحُ

صَلَّى عَلَيْكَ يَا مَلِكُ

ہمارے سردار حکام خداوندی کی پیروی کرنیوالے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قوله،

” وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إِنِّي مَلَكٌ ۚ إِنِ اتَّبَعُ
إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ط“

(سورة الانعام ۵۰)

” قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا
يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي ۚ“

(سورة الاعراف ۲۰۳)

” قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ
أَبْدِلَهُ مِنْ تَلْقَائِي نَفْسِي ۚ
إِنِ اتَّبَعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ
إِلَيَّ ۚ“

(سورة يونس ۱۵)

اشارہ ہے اس قول کی طرف،
” اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ
میں فرشتہ ہوں میں تو صرف جو کچھ
میرے پاس وحی آتی ہے اس کا
اتباع کر لیتا ہوں۔“

” آپ فرمادیجئے کہ میں اسی کا
اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب
کی طرف سے حکم بھیجا گیا ہے۔“

” آپ یوں کہہ دیجئے کہ مجھ سے
یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی طرف سے
اس میں ترمیم کر دوں۔ بس میں تو اسی
کا اتباع کروں گا جو میرے پاس
وحی کے ذریعہ پہنچا ہے۔“

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَكْفُلُ اللَّهُ رَوْحَهُمْ وَسُلْطَانَهُمْ وَالْجَنَّةَ بَابًا وَسُورَةً وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

سَيِّدِكَ الْمَلِكِ الْمُتَّبِعِ

ہمارے سردار پیروی کرانے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف،
 ”اے نبی آپ کے لیے اللہ
 کافی ہے اور جن مومنین نے آپ
 کا اتباع کیا ہے وہ کافی ہیں۔“
 ”اور ان لوگوں کے ساتھ (شفقاً)
 فروتنی سے پیش آئے جو مسلمانوں میں
 داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں۔“
 ”جو لوگ ایسے رسول نبی اُمّیؐ
 کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ
 اپنے پاس توریت و انجیل میں
 لکھا ہوا پاتے ہیں۔“

اشارہ الی قوله
 ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ
 وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“
 (سورة الانفال ۶۳)
 ”وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ
 لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“
 (سورة الشعراء ۲۱۵)
 ”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ
 النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُوثُهُ
 مَكُونُوا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْحِيدِ
 وَالْإِنْجِيلِ“ (سورة الاعراف ۱۵۷)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَخْرِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَنْتُمْ بَعْدَهُمْ عَلَى مَنَظَرِ مَنْ
وَبَعْدَ حَلَّتْ رَوْحُ نَبِيِّكَ وَتَشْرَبَتْ شِمْلُهُ وَمَدَّ كَلِمَاتُكَ اسْتِغْفَارًا لِلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْحَقُّ وَالْحَقُّ الْحَقُّ

المتربصين

ہمارے سردار

منتظر

درد و سلام بھیجے الہی

ای انتظار و موتی
او ہلاکی فانی معکم من
المتربصین لموتکم او ہلاکم
(فتح القدیر للشوکانی ج ۵ ص ۹۶)
اخرج ابن اسحاق
و ابن جریر رضی اللہ عنہما
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
ان قریشا لما اجتمعوا
الی دارالندوة فی
امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
قائل منهم احبسوه
فی وثاق و تربصوا به
المنون حتی یهلك کما
هلك من قبله الشعراء

یعنی تم میری موت اور ہلاکت
کا انتظار کرو۔ میں تمہارے ساتھ
تمہاری موت اور ہلاکت کا انتظار
کرتا ہوں۔
ابن اسحاق صاحب مغازی اور
ابن جریر للشوکانی نے حضرت عبداللہ
بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت
کی ہے۔ جب قریشی دارالندوة
میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ
میں جمع ہوئے۔ ان میں سے ایک
بولا کہ آپ کو جکڑ کر قید کر دو۔ پھر ان
کی موت کا انتظار کرو حتیٰ کہ وہ
خود بخود اگلے شاعروں زہیر اور نابغہ
کی طرح مرجائیں گے۔ کیونکہ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

زھیر والنابعة انما هو
كاحدهم فانزل الله تعالى
في ذلك " اَمْ يَقُولُونَ
شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ
الْمُنُونِ ۝ قُلْ تَرَبَّصُوا
فَاِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ
الْمُتَرَبِّصِينَ ۝ (سورة الطور ۳۱-۳۲)

فتح القدير للشوكاني ج ۱ ص ۹۱

عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

ان قريشا لما اجتمعوا في

دار الندوة في امر النبي

ﷺ قال قائل

منهم احتبسوه في وثاق

وتربصوا به ريب المنون

حتى يهلك كما هلك

من كان قبله من الشعراء

زھیر والنابعة انما هو

كاحدهم فانزل الله تعالى

ذلك من قولهم اَمْ

يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ

بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ ؟

(تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۲۴۲)

وہ انہی میں سے ایک ہیں۔ تو
اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
نازل فرمائی۔ یعنی ہاں کیا یہ لوگ
یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں۔ ہم
ان کے بارے میں حادثہ موت کا
انتظار کر رہے ہیں۔ آپ فرمادیجئے
کہ تم منتظر رہو سو میں بھی تمہارے
ساتھ منتظر ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عباس

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ

قریش حضور اقدس ﷺ کے

بارے میں کوئی مشترکہ لائحہ عمل طے

کرنے کے لیے دارالندوہ میں جمع ہوئے

ان میں سے ایک بولا کہ آپ کو قید

میں جکڑ دو اور آپ کی موت کا انتظار

کرو حتیٰ کہ وہ اگلے شاعروں زہیر اور

نابعة کی طرح مرجائیں کیونکہ یہ بھی انہیں

کی مانند ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے

یہ آیت نازل فرمائی۔ کیا وہ کہتے ہیں

کہ یہ شاعر ہے۔ ہم اس کی موت کا

انتظار کر رہے ہیں ؟

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْبَيْتَ الْمَقَامِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَخِيِّ وَقَلِي الْعَبْدِ الْوَحِيدِ وَعَنْتَ بِمَدَدِ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ
رَبِّهِ وَخَلْقِكَ وَجَمِيعِ عَمَلِكَ وَبِنِعْمَتِكَ وَمِنَادِ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْسَلِ

صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

ہمارے شہزادہ بہت سارے کرنے والے دُور و دُور پہنچے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”راے لوگو! تمہارے پاس ایک
ایسے پیغمبر تشریف لائے جو تمہاری
جنس (بشر) سے ہیں جن کو تمہاری
مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی
ہے جو تمہاری منفعت کے بہت
خواہش مند ہوتے ہیں۔ یہ بات تو
سب کے ساتھ ہے بالخصوص ایمانداروں
کے ساتھ بڑے ہی شفیق راور مہربان ہیں“
”اور ہم نے آپ کو اور کسی بات
کے واسطے نہیں بھیجا مگر تمام جہاں کے
لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے بھیجا۔“
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس

إشارة إلى قوله:
”لَقَدْ جَاءَكُمْ
رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ
رَحِيمٌ“

(سورة التوبة ۱۲۸)

”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“

(سورة الانبياء ۱۰۷)

عن اسامة بن
زيد رضي الله عنهما قال

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

كان رسول الله ﷺ
ياخذني فيقعدني على
فخذة ويقعد الحسن
رضي الله عنه على فخذة الاخرى
ثم يضمهما ثم يقول
اللهم ارحمهما فاني
ارحمهما.

(صحیح البخاری ج ۲ - ص ۴۸۸)

عن عمرو بن
عوف رضي الله عنه قال قال
رسول الله ﷺ
رحم الله الانصار
و ابناء الانصار و
و ابناء ابناء الانصار
(سنن ابن ماجه ص ۱۵)

عن البراء رضي الله عنه
يقول رايته النبي
ﷺ والحسن رضي الله عنه
على عاتقه وهو يقول
اللهم اني احبه
فاحبه.

(الأدب المفرد ص ۱۶)

ﷺ مجھے پکڑ کر اپنی دائیں ران
پر بٹھاتے اور دوسری ران پر حضرت
حسن رضي الله عنه کو بٹھاتے۔ پھر ہم
دونوں کو بھینچ لیتے اور دعا فرماتے
اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ
میں بھی ان دونوں سے پیارا
کرتا ہوں۔

حضرت عمرو بن
عوف سے روایت ہے کہ نہر مایا
حضور اقدس ﷺ نے اللہ
انصار پر رحم فرمائے۔ انصار کے
بیٹوں پر رحم فرمائے۔ انصار کے
پوتوں پر رحم فرمائے۔

حضرت براء بن عازب رضي الله عنه
سے روایت ہے بیان کرتے ہیں
کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو
اس حالت میں دیکھا کہ حضرت حسن آپ
کے کندھے مبارک پر تھے اور آپ یہ دعا
فرما رہے تھے کہ اے اللہ میں اس سے
پیارا کرتا ہوں تو بھی اس سے پیارا کر۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 وَبَعْدُ خَلِّصْ وَجْهِي مِنْ شَرِّكَ وَبِعْدُ خَلِّصْ وَجْهِي مِنْ شَرِّكَ وَبِعْدُ خَلِّصْ وَجْهِي مِنْ شَرِّكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْتَحِمِينَ

ہمارے سرورِ رحم کیے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

قال الزيلعي رَحِمَهُ اللهُ بِكَلِمَةٍ
 الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ
 لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
 الشُّوْقِ النَّاسِ إِلَى
 رَحْمَةِ رَبِّهِ -
 (نسيم الرياض - ص ۲۲۲)
 ففي شرح الهداية نقلا
 عن الفقيه أبي جعفر
 رَحِمَهُ اللهُ بِكَلِمَةٍ أَمَا أَنَا فَاقُولُ
 وَأَرْحَمُ مُحَمَّدًا وَأُلَّ مُحَمَّدٍ
 (رَحِمَهُ اللهُ بِكَلِمَةٍ) وَاعْتِمَادِي عَلَى
 التَّوَرَاتِ الذِّي وَجِدْتَهُ
 فِي بَلَدِي وَبَلَدَانِ الْمُسْلِمِينَ
 وَمِثْلَهُ عَنِ السَّخْسِيِّ رَحِمَهُ اللهُ بِكَلِمَةٍ

علامہ زبلی نے رَحِمَهُ اللهُ بِكَلِمَةٍ فرماتے ہیں
 کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ لفظ حضور
 اقدس ﷺ کے بارے میں
 مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ
 ﷺ تو رب کی رحمت کا
 زیادہ شوق رکھنے والے تھے۔
 ہدایہ کی شرح میں فقیہ ابو جعفر
 رَحِمَهُ اللهُ بِكَلِمَةٍ سے منقول ہے کہ میں
 تو یہ درود پڑھتا ہوں کہ اے اللہ
 محمد ﷺ اور آپ کی آل پر
 رحم فرما اور میرا اعتماد اس عمل پر
 ہے جس کو میں نے اپنے شہر اور
 مسلمانوں کے تمام شہروں میں
 پایا ہے۔ اور علامہ سخسی رَحِمَهُ اللهُ بِكَلِمَةٍ

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

فی مبسوطہ لابس بہ
لان الاثر ورد بہ من
طریق ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما۔
القول البدیع ص ۷
عن عائشہ رضی اللہ عنہا
عن النبى صلی اللہ علیہ وسلم
قال سدوا و
قاربوا و البشروا
فانہ لا یدخل
احداً الجنة عملہ
قالوا و لا انت
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال و لا انا الا
ان یتغمدنى اللہ
بمغفرة و رحمة۔

(صحیح البخاری ج ۲ - ص ۹۵۷)

عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

ان النبى صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا
نزل بہم او غم قال یا حی
یا قیوم برحمتک استغیث۔

(رواہ المحاکم فی المستدرک تحفة الذاکرین ص ۲۲)

اپنی کتاب مبسوطہ میں فرماتے
ہیں۔ کوئی ڈر نہیں کیونکہ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کی روایت میں
یہ الفاظ آئے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت ہے۔ وہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں
کہ آپ نے فرمایا سیدھے سیدھے
رہو۔ اور خدا کا قرب تلاش کرو اور
لوگوں کو بشارت دو۔ حقیقت یہ
ہے۔ کسی آدمی کو اس کا عمل بہشت
میں نہیں داخل کروا سکتا۔ صحابہ
نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول
آپ کو بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا مجھے بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ
ہی اپنی بخشش اور رحمت سے
مجھے ڈھانپ لے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما

سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
پر جب کوئی مصیبت یا غم آتا تو یہ دعا
فرماتے۔ اے زندہ اے قائم تیری
رحمت کے ساتھ فریاد کرتا ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَعَنْ يَدِ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ يَعْزِزْهُ فَلَيْسَ مَكْرُومًا

سَيِّدُ الْمَبِيتِ

ہمارے سردار گڑ گڑاٹے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اپنے جی میں گڑ گڑا کر اور
ڈر کر اپنے رب کو یاد کر۔“

إشارة إلى قوله:
”وَأذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
تَضَرُّعًا وَخِيفَةً“

(سورة الاعراف ۲۰۵)

حضرت عبد اللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
حضور اقدس ﷺ بارش طلب
کرنے پھٹے پرانے کپڑوں میں انکساری
اور گڑ گڑاٹے ہوئے نکلے۔ حتیٰ کہ
عید گاہ میں تشریف لائے۔ تمہارے
جیسا لبا خطبہ نہیں دیا بلکہ دعا کرتے،
گڑ گڑاٹے اور تکبیریں پڑھتے رہے
اور دو رکعت نماز پڑھی جیسے عید
کی نماز پڑھا کرتے تھے۔

عن عبد الله بن عباس
رضي الله عنهما ان رسول الله
ﷺ خرج متبذلا
متواضعا متضرعا حتى
اتي المصلي فلم يخطب
خطبتكم هذه ولكن لم
يزل في الدعاء والتضرع
والتكبير وصلی ركعتين
كما كان يصلی في العيد.
(شرح السنة للبقوي ج ۲ - ص ۲۰۵)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَجَعَلَ الشَّيْءَ الْاَمْرَ وَعَلَى الْاَمْرِ الْاَمْرَ وَجَعَلَ مَعْدُوْمًا مَعْلُوْمًا
 وَمَعْدُوْمًا مَعْلُوْمًا وَجَعَلَ لِسَانَ نَبِيِّكَ وَرَسُولِكَ وَمَوْلَاكَ اَسْمًا لِّلْاِسْمِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْاَكْبَرُ الْاَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لَكَ اَبَدًا

سَيِّدِنَا الْمُرْتَقِي

صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سردار پر ہیزگار درود و سلام بھیجیے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
 ”اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے۔
 اور کافروں اور منافقوں کا کہا
 مت مانیے۔“
 ”سو صبر کیجیے یقیناً نیک انجامی
 متقیوں ہی کے لیے ہے۔“
 ”وہ بھلائیہ تو بتلاؤ اگر وہ بندہ ہمت
 پر ہو یا لوگوں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا
 ہو۔“

”در اللہ کے دوست وہ ہیں جو
 ایمان لائے اور (معاصی سے)
 پرہیز رکھتے ہیں۔“

اس آیت کی تفسیر میں علامہ
 شوکانی اپنی تفسیر میں یوں فرماتے

اشارہ إلى قوله:
 ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ
 وَلَا تَطْعَمِ الْكٰفِرِينَ وَالْمُنٰفِقِينَ“
 (سورة الاحزاب ۱)
 ”فَاصْبِرْؕ اِنَّ الْعٰقِبَةَ
 لِلْمُتَّقِيْنَ“ (سورة هود ۴۹)
 ”اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى
 الْهُدٰى اَوْ اَمَرَ بِالْقَوٰى“

(سورة العلق ۱۲)
 ”الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ“

(سورة يونس ۶۳)
 قال الشوكاني رَحِمَهُ اللّٰهُ بَعِيْدًا فِي
 تفسيره تحت هذه

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ
 اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

الآية:

” یعنی العبد المنہق
اذا صلی وهو محمّد
ﷺ - (فتح القدیر ج ۵ - ص ۲۵۶)
عن ابن عباس
رضی اللہ عنہما قال قال
رجل یا رسول اللہ
ﷺ من اولیاء اللہ؟
قال الذین اذا
رووا ذکر اللہ -

(رواہ البزار)

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۲)

عن عقبہ بن
عامر رضی اللہ عنہما انه قال
اھدی الی رسول اللہ
ﷺ فزوج یعنی
قبا حریر فلبسہ ثم
صلی فیہ ثم انصرف
فنزعه نزعا شديدا
كالكاره له ثم قال
لا ينبغي هذا للمتقين -

(الطبقات الکبری لابن سعد ج ۱ ص ۲۵۶)

ہیں۔

جس بندے کو نماز پڑھنے سے روکا
گیا تھا اس سے مراد حضور اقدس
ﷺ ہیں۔

حضرت ابن عباس
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ ایک آدمی نے عرض کیا
یا رسول اللہ ﷺ اللہ کے
دوست کون ہیں؟ آپ نے فرمایا
وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان
کی زیارت کی جائے تو اللہ
یاد آجائے۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ کی خدمت اقدس میں
یشمی قباحتہ پیش کیا گیا۔ آپ نے
اسے پہن کر نماز پڑھی۔ نماز سے
فارغ ہونے کے بعد آپ نے
سختی سے اُتار دیا۔ جیسے آپ
اس کو بہت بُرا سمجھتے تھے۔ پھر
آپ نے فرمایا یہ لباس پرہیزگاروں
کو لائق نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ اللَّهُ لَأَهْلَةِ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِي يَا مَوْجِبَ الْخَيْرِ يَا مُجِيبَ الْغَمِّ يَا مُجِيبَ الْكَلْبِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

سَيِّدِكَ الْمَلِكِ مَكِّي

ہمارے سردار معزز ہستی درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اور ہم نے آدمؑ کی اولاد کو
عزت دی اور ہم نے ان کو خشکی
اور دریا میں سوار کیا۔“

حضرت حسان بن ثابت
رضی اللہ عنہ نے کہا:

اللہ کی قسم ہم اس معزز ہستی کو کبھی نہ
چھوڑیں گے۔ تمام جہان سے پاک بڑی عزت
والے معزز ہستی۔ رب اعلیٰ کی طرف دعوت
دینے والے۔ پورے خیر خواہ اور نچے خاندان
والے چاند سے بابرکت یحیم متحمل مزاج
پاک ذات۔ اگر تم انکو چھوڑ دو گے تو میرا
رب قدرت لکھا ہے۔ کہ تم کو اپنے فضل و
کرم سے انکی امت میں بیشمار اضافہ فرما دیگا۔

اشارہ الی قوله،

”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ
وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ“
السُّورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (۷۰)

قال حسان بن

ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :

”والله انا لا تفارق ماجدا
عن الخليفة ماجد الامجاد
متكر ما يدعو الى رب العلى
بذل النصيحة رافع الاعمال
مثل الهلال مبارك اذ رحمة
مع الخليفة طيب الاعواد
ان تتركوه فان ربي قادر
امسى يعود بفضله العواد“
(ديوان حسان ص ۲۲)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيَأْتِيَ بِاللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ
وَبَدْوَهُمْ وَكَلَّمَكَ وَجْهِي فَطَلَمْتُكَ وَرَبِّي فَطَلَمْتُكَ وَرَبِّي فَطَلَمْتُكَ وَرَبِّي فَطَلَمْتُكَ وَرَبِّي فَطَلَمْتُكَ

سَيِّدِنَا الْمَلِكُ عَلَيْهِ

ہمارے سردار تلاوت کرائے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح
طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔“

”یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح
طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔“
اس سے ثابت ہے کہ آپ بلاشبہ
پیغمبروں میں سے ہیں۔“

”یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو صحیح صحیح
طور پر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔“

کیونکہ جبریل علیہ السلام آپ پر
قرآن کریم پڑھتے تھے۔ اور آپس
میں دُور کرتے تھے۔

اشارہ الی قوله :

”تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط“

(سورة آل عمران ۱۰۸)

”تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط وَ إِنَّكَ
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝“

(سورة البقرة ۲۵۲)

”تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ط“

(سورة الحاشیة ۶)

لان جبریل علیہ السلام کان
یتلو علیہ القرآن و
یدارسہ - (سبل الہدی ج ۱ ص ۶۲۵)

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَخَلِّصْنَا مِنْ جَمِيعِ الْبَلَاءِ وَالْغَمِّ وَالْحُزْنِ وَالْحَمْلِ وَالْأَسْرِ وَالْمَلِكِ وَالْمَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْأَذَى وَالْأَسْرَافِ وَالْأَسْرَابِ وَالْأَسْرَابِ وَالْأَسْرَابِ وَالْأَسْرَابِ

اُمِّتُكُمْ

سَيِّدُكُمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

ہمارے سردار غلبہ پانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

اشارہ إلى قوله

وَعَدَ اللَّهُ
الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي
الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ
لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
مِنْ أَمْنٍ خَوْفِهِمْ
أَمْنًا ط

(سورة النور ۵۵)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اے مجھ سے امت (تم میں جو لوگ
ایمان لاویں اور نیک عمل کریں ان
سے اللہ وعدہ فرماتا ہے۔ کہ ان کو
اس اتباع کی برکت سے) زمین
میں حکومت عطا فرمائے گا۔ جیسا
ان سے پہلے راہل ہدایت (لوگوں
کو حکومت دی تھی۔ اور جس دین کو
اللہ نے) ان کے لیے پسند کیا ہے۔
یعنی اسلام) اس کو ان کے نفع آخرت
کے لیے قوت دے گا اور ان کے
اس خوف کے بعد اس کو تبدیل بہ امن
کر دے گا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَسْبُنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأَمِينُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَصْرَتِهِ بِعَدْوَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ
يَمُوتَ وَمَدَى كُلِّكَ وَرَوْحِي كُلِّكَ وَبَشَرَتِي كُلِّكَ وَمَدَى كُلِّكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَا مُنِيبُ يَا مُنِيبُ

سَيِّدِنَا الْمُرْتَمِرِ

ہمارے سردار پہلور انعام دیے گئے درودِ سلام بھیجیے اللہ آپ پر

اشارہ ہے اس قول کی طرف: "بیشک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پھیل بھول چوک معاف فرمائے اور آپ پر اپنے احسانات کی تکمیل کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر لے چلے۔"

"آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا اور میں نے تم پر اپنا انعام تام کر دیا اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔"

إشارة إلى قوله: "إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ يَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝"

(سورة الفتح ۱-۲)
"الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ط"
(سورة المائدة ۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعِزَّتِهِ بِعَدْوِّ عَدُوِّكَ عَلَىٰ مَلَأَمِكِ
 وَعَدُوِّكَ عَلَىٰ نَسَبِكَ وَبَشَرَتِكَ وَمَا كَرِهْتَ لَكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَعُوذُ بِكَ

سَيِّدُ الْمُرْتَبِطِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعِزَّتِهِ بِعَدْوِّ عَدُوِّكَ عَلَىٰ مَلَأَمِكِ

ہمارے سردار میانہ روی اختیار کرنے والے دُور و مسافت پہنچانے والے

اشارہ الی قولہ

”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ
 أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا
 شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ“

(سورة البقرة ۱۴۳)

و الوسط ہونا
 الحیار و الاجود کما
 یقال قریش اوسط
 العرب نسبا و دارا ای
 خیرھا و کان رسول اللہ
 ﷺ علیہ السلام وسطا فی
 قومہ ای اشرافہم
 نسبا۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۱۹۰)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
 ”اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت
 بنا دیا ہے جو (بہر پہلو سے) نہایت
 اعتدال پر ہے تاکہ تم (مخالف لوگوں
 کے مقابلہ میں گواہ ہو جاؤ۔“

اور اس آیت میں وسط سے
 مراد پسندیدہ اور عمدہ ہے جیسے کہا
 جاتا ہے۔ قریش نسب اور گھر کے
 لحاظ سے عرب کے وسط میں یعنی
 عرب میں بہترین ہیں۔ اور حضور
 اقدس ﷺ اپنی قوم کے وسط
 تھے۔ یعنی اپنی قوم میں حسب و
 نسب کے لحاظ سے شرفا میں
 شمار ہوتے تھے۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین آمین یا رَبَّ الْعَالَمِینَ ط

المتروك في الشفاعة بين
الله تعالى وبين الامة.

(سبل الهدى ج ۱ ص ۲۵)

عن جابر بن

عبد الله رضي الله عنه في واقعة

المعراج قال صلوات الله عليه

ثم فرضت على الصلوات

خمسين صلوة كل يوم

فرجعت فمرت على

موسى عليه السلام فقال بما

امرت قال امرت

بخمسين صلوة كل

يوم قال اني

امتك لا تستطيع خمسين

صلوة كل يوم و اني

والله قد جرّبت الناس

قبلك و عاجت بنى

اسرائيل اشد المعالجة.

(الحديث، صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۲۹)

باربار الله تعالى کے اور اپنی
امت کے درمیان واسطہ بننے
والے۔

حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه

سے واقعہ معراج میں روایت ہے

کہ حضور اقدس صلوات الله عليه نے فرمایا مجھ

پر روزانہ پچاس نمازیں فرض کی

گئیں۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو

حضرت موسیٰ عليه السلام راستے

میں ملے۔ انہوں نے مجھ سے دریافت

کیا۔ کہ آپ کو کیا حکم ملا۔ میں نے

کہا روزانہ پچاس نمازیں بھرت

موسیٰ عليه السلام بولے۔ آپ کی

امت روزانہ پچاس نمازیں پڑھنے

کی طاقت نہ رکھے گی۔ خدا کی قسم

میں اس سے پہلے لوگوں کا تجربہ کر

چکا ہوں۔ اور بنی اسرائیل کے

ساتھ سخت تکلیف اٹھا چکا ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لَكُمُ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أُمَّةٍ
رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ فِي حَقِّكَ وَبَشَرِيَّتِكَ وَمَا دَعَاكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

اَللّٰهُمَّ اِنْتَوَكَّلُ عَلَيْكَ

ہمارے سزاوار اللہ پر بھروسہ کرنے والے دُور و سلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”پھر جب آپ راتے پختہ کر لیں
تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجئے۔ بے شک
اللہ تعالیٰ ایسے متوکلین سے محبت
فرماتے ہیں“

”اور اگر وہ رکفار صلح کی طرف
جھکیں تو آپ بھی اس طرف جھکتے
اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔“

”سو آپ انکی طرف التفات نہ
کیجئے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیجئے اور
اللہ تعالیٰ کافی کار ساز ہیں۔“

”اور اس حسی لایموت پر توکل
رکھیے اور اطمینان کے ساتھ اس
کی تسلیح و تحمید میں لگے رہیے۔“

اِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ :

”فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ط اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِيْنَ ۝“

(سورة آل عمران ۱۵۹)

”وَ اِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْوِ
فَاَجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ط“

(سورة الانفال ۶۱)

”فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ ط وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝“

(سورة النساء ۸۱)

”وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ
الَّذِي لَا يَمُوتُ وَ سَتَجِدُ
بِحِمْلِهِ ط“ (سورة الفرقان ۵۸)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَنْتِهِ بِمَدُونِ مَنْ تَلُوهُمُ أَتَى
وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَرَوْحِ نَفْسِكَ وَتَشْرِيفِكَ وَرِمَادِ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْمُؤْتَمِرُ وَالْمُؤْتَمِرُ

سَيِّدِنَا الْمُرْتَجِبِ

ہمارے سردار تہجد پڑھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”اور کسی قدررات کے حصہ میں
بھی سو اس میں تہجد پڑھا کیجئے جو کہ
آپ کے لیے زائد چیز ہے امید ہے
کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود
میں جگہ دے گا۔“

”اے کپڑوں میں پٹنے والے رات
کو (نماز میں) کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی
سی رات یعنی نصف رات رک اس
میں قیام نہ کرو بلکہ آرام کرو یا اس
سے نصف سے کسی قدر کم کر دو یا
نصف سے کچھ بڑھا دو۔“

حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

اشارہ إلى قوله :

” وَ مِنْ أَيْلٍ فَهَجَدَ
بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى
أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَعْتَمًا مَحْمُودًا “

(سورة بنی اسرائیل ۷۹)

” آيَاتُهَا الْمُزْمَلُ ۝
وَسِ الْمَلِ إِلَّا
قَلِيلًا ۝ نِصْفَةَ أَوْ
انْقُصْ مِنْهُ
قَلِيلًا ۝ “

(سورة المزمل ۳۱)

عن ابی سلمة بن
عبد الرحمن رضی اللہ عنہما انه اخبره

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

انه سال عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ
 كَانَ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ
 فِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ يَزِيدُ
 فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ
 عَلَى أَحَدِي عَشْرَةَ رَكْعَةً.
 (الحديث) (سائل الترمذی ص ۱۹)
 عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي عِيْنَةَ
 قَالَ سَمِعْتُ الْمَغِيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 يَقُولُ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ
 ﷺ لِيَصِلَ حَتَّى تَرْمَ قَدَمًا
 أَوْ سَاقًا قِيلَ لَهُ
 أَفَلَا كُنْ عَبْدًا شَكُورًا.
 (صحيح البخارى ج ۱ - ص ۱۵۲)

میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 سے حضور اقدس ﷺ کے
 رمضان کے نوافل کے متعلق پوچھا
 تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان ہویا
 غیر رمضان حضور اقدس ﷺ
 گیارہ رکعت سے زائد نفل پڑھا
 کرتے تھے۔
 حضرت زیاد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روا
 ہے کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے سنا وہ فرماتے تھے
 کہ حضور اقدس ﷺ کھڑے ہو
 کر نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں
 مبارک یا پنڈلیاں متورم ہو گئی تھیں۔
 جب آپ سے عرض کیا گیا۔ تو
 آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار
 بندہ نہ ہوں۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِمَا نَسْتَعِينُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مُثَبِّبٌ

ہمارے سردار (مؤمنین کو) ثابت قدم رکھنے والے دُور و سلا بھیجے اللہ آپ پر

اعاء بکسر الباء مبني
للفاعل المثبت لمن
اتبعه على دينه المجاب
(سبل الهدى ج ۱ ص ۲۲۶)
عن عبد الله بن عمرو
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ان رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَمْنُوا
لقاء العدو و اسألوا
الله العافية فاذا قيمتموهم
فاثبتوا واكثروا ذكر الله
فان اجلبوا و ضجوا
فعلیکم بالصمت -

(سنن الدارمی ج ۲ ص ۲۱۶)

علامہ عزنی رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ فرماتے ہیں۔
ب کے کسرہ کے ساتھ فاعل
کے وزن پر اپنے سچے دین پیروکاروں
کو ثابت رکھنے والے۔

حضرت عبد اللہ بن عمرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ دشمن سے ملاقات
کی تمنا مت کرو۔ اور اللہ سے معافی
طلب کرو پھر جب دشمن سے ملاقات
ہو جائے تو ثابت قدم رہو اور اللہ
کو کثرت سے یاد کرو۔ پس اگر وہ
تم پر حملہ آور ہوں اور چیخ و پکار کریں
تو خاموشی کو لازم پکڑو۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَشْرَتِهِ مَعْدُومِكُمْ سَلَامٌ إِنَّكَ
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَشْرَتِهِ مَعْدُومِكُمْ سَلَامٌ إِنَّكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مُثَبِّتٌ

ہمارے سردار ثابِتِ قَدَمِ دُرُودِ سَلَامِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اشارہ الی قولہ :

”كَذَلِكَ لِنُثَبِّتُ
بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ
تَرْتِيلًا ۝“

(سورة الفرقان ۲۲)

”وَكَلَّا نَقْضُ
عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ
الرُّسُلِ مَا نُنْثَبِتُ بِهِ
فُؤَادَكَ ۝“

(سورة هود ۱۲۰)

”وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ
لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا
قَلِيلًا ۝“ (سورة بنی اسرائیل ۷۴)

اشارہ ہے اس قول کی طرف :

”یہ (قرآن ہم نے) اس لیے رتھوڑا
تھوڑا نازل کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے
اپکے دل کو قوی رکھیں۔ اور (اسے)
ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا
کرا مارا ہے۔“

”اور پیغمبروں کے قصوں میں سے
ہم یہ سارے (مذکورہ) قصے آپ
سے بیان کرتے ہیں جن کے ذریعہ
سے ہم آپ کے دل کو تقویت
دیتے ہیں۔“

”اور اگر ہم نے آپ کو ثابتِ قَدَمِ
نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف
کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔“

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

عن البراء بن عازب
 ﷺ وسأله رجل
 من قيس فقال افرتم
 عن رسول الله ﷺ
 يوم حنين فقال البراء
 ﷺ ولكن رسول الله
 ﷺ لم يفر -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۸۱)

و ثبت رسول الله
 ﷺ وهو راكب يومئذ
 بقلته الشهباء يسوقها
 الى نحو العدو والعباس
 ﷺ عمه اخذ بركابها
 الايمن و ابوسفیان
 بن الحارث بن عبدالمطلب
 ﷺ اخذ بركابها الايسر
 يتقلانها لئلا تسرع السير
 وهو ينوه باسمه ﷺ
 ويدعو المسلمين الى الرجعة
 ويقول الى يا عباد الله
 الى انا رسول الله -

(تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۲۲۳)

حضرت برار بن عازب رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے۔ اور ان سے
 قیس قبیلہ کے آدمی نے پوچھا تھا
 کیا تم حنین کی جنگ میں حضور اقدس
 ﷺ کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے
 تھے حضرت برار رضی اللہ عنہما نے کہا
 لیکن حضور اقدس ﷺ ثابت
 قدم ہے آپ نہ بھاگے تھے۔

اور حضور اقدس ﷺ اپنے
 خیر شہداء پر سوار ہو کر حنین کے دن ثابت قدم
 رہے۔ اس کو آپ دشمن کی طرف بھاگتے تھے
 اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما آپ کی دہنی
 رکاب کھتے ہوئے تھے۔ اور حضرت
 ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب
 آپ کے چپازاد بھائی، بائیں رکاب کھتے
 ہوئے تھے۔ اور یہ دونوں صحیحے کی طرف بڑھ
 ڈال رہے تھے تاکہ آپ کی سواری آپ کو بیکر
 آگے نہ بڑھے اور آپ اعلان اپنے ام مبارک کا
 اظہار فرما رہے تھے۔ آپ پر اللہ کا درود و سلام
 ہو۔ اور آپ مسلمانوں کو واپس لوٹنے کی دعوت دیتے تھے۔
 اور فرما رہے تھے اے اللہ کے بندو! میری طرف
 آؤ میں اللہ کا رسول ہوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مَنْ مَعَهُ
وَمَعَهُ خَلْقِكَ وَجَمِيعِ عَالَمِيكَ وَبِعَدْلِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَأَمَّا بَعْدُ

مَدِينَتِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

ہمارے سردار پاؤں پر حجے رہنے والے دُور و سلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اور تمہارے دلوں کو مضبوط
کر دے اور تمہارے پاؤں جما
دے۔“

”اے ہمارے پروردگار ہمارے
گناہوں کو اور ہمارے کاموں
میں ہمارے حد سے نکل جانے
کو بخش دیجئے۔ اور ہم کو ثابت قدم
رکھئے اور ہم کو کافر لوگوں پر
غالب کیجئے۔“

اشارہ الی قوله،

”وَلِيَرْبِطَ عَلَيَّ قُلُوبِكُمْ
وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ۝“

(سورة الانفال ۱۱)

”رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا
ذُنُوبَنَا وَاسْرَافَنَا
فِيْ مَا أَمَرْنَا وَشَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝“

(سورة عمران ۱۳۶)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَطَلْحِ الْبِرِّ وَأَخِيهِ وَصَفِيٍّ وَعَدُوِّ كُلِّ مُشْرِكٍ وَأَنَّ
وَمَدَّ يَدَيْكَ وَأَمْسَكَ قَلْبَكَ وَتَمَرَّتْ لِسَانُكَ وَتَمَّ كَلِمَاتُكَ اسْتَفْرَأَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْكَافِرُ الْفَاسِقُ وَالْمُؤْمِنُ الْبَرُّ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُجَابِبِ

ہمارے سردار مقبول دعا۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ
" وَإِذَا سَأَلَكَ
عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ ۙ أُجِيبُ
دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ "

(سورة البقرة ۱۸۶)
عن جابر بن عبد الله
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِكُلِّ نَبِيٍّ
دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بِهَا فِي
أُمَّتِهِ وَخَبَأَتْ دَعْوَتَهُ
شَفَاعَةً لِأُمَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۳۸۳)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
" اور جب آپ سے میرے بند
میرے متعلق دریافت کریں تو آپ
میری طرف سے فرما دیجئے میں قریب
ہی ہوں اور منظور کر لیتا ہوں رہا عرض
درخواست کرنے والے کی جبکہ وہ میرے
حضور میں درخواست کرے۔"

حضرت جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرماتے
تھے۔ ہر نبی کو خدا کی طرف سے ایک دعوت
ہوتی تھی۔ انہوں نے وہ دعا اپنی امت
کے حق میں استعمال کر لی اور میں نے اس دعا
کو چھپایا۔ قیامت کے دن وہ دعا میں
اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَعِنْدَ اللَّهِ مَعْدَنُ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَرَحْمَتِكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِحَبْلِكَ الْوَلَدُ عَلَى الْوَالِدِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ الْغُيُوبِ

سَيِّدِنَا الْمَجَابِبِ

ہمارے سردار دعا قبول کئے گئے درود سلام بھیجیے اللہ آپ پر

اشارہ ہے اس قول کی طرف :-
”اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سُن لی کہ میں تم کو ایک ہزار فرشتوں سے مدد دوں گا۔ جو سلسلہ وار چلے آئیں گے۔“
”سو منظور کر لیا انکی درخواست کو ان کے رب نے اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کوئی کرنے والا ہو۔ اکارت نہیں کرتا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔“

اشارہ الی قوله ،
” اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَنِّي مُبِدِّكُمْ بِالْفِئْتِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝“

(سورۃ الانفال ۱۹)

” فَاَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنِّي لَا اُضْيِعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج -“

(سورۃ آل عمران ۱۹۵)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِیْنِ اٰمِیْنِ اٰمِیْنِ یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَنَّا لَكَ
وَمَنْ تَخَلَّقَ رُوحَ قَلْبِكَ وَبَشَرَتَهُ وَمَا كُنَّا لَكَ أَسْتَعِينُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِكَ الْمَجْلِبِكِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار کفار سے جھگڑا کرنے والے دُرد و سُلا بھیجے اللہ آپ سے

اِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ:

”ادْعُ إِلَى سَبِيلِ
رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنْ رَأَيْتَكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ“
(سورة النحل ۱۲۵)

عن مجاهد رَوَى اللَّهُ عَنْهُ
فِي قَوْلِهِ وَجَادِلْهُمُ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
قَالَ اعْرَضَ عَنْ
إِذَا هُمْ آيَاكَ -

رفع القدير للشوكاني ج ۱ ص ۱۹۷

اشارہ ہے اس قول کی طرف :-
”آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم
کی باتوں اور اچھی نصیحتوں کے ذریعہ
سے بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ
سے بحث کیجئے۔ آپ کا رب خوب جانتا
ہے اس شخص کو بھی جو اس کے راستے
گم ہو اور وہی راہ پر چلنے والوں کو
بھی خوب جانتا ہے۔“

حضرت مجاہد رَوَى اللَّهُ عَنْهُ
اس فرمان کو مخالفین کے ساتھ حسن
طریقہ سے جھگڑا کرو کی تفسیر میں فرماتے ہیں
کہ ان کی طرف سے اگر آپ پر تکلیف آئے
تو اس سے اعراض کرو یعنی خندہ پیشانی
سے برداشت کرو۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سُبْحَانَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اللَّهُ صَبْرٌ وَكَرَمٌ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَسَدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَشْرَتِهِ بِعَدْوَى كُلِّ مَسْلُومٍ وَأَنَّ
وَعَدَّ خَلْقَكَ وَجِيءَ لِقَائِكَ وَمَا دَعَاكَ إِلَّا أَنْ تَسْتَعِزَّ بِكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَتَى الْإِلَهَ

سَيِّدِنَا جَاهِدْ

اللَّهُ أَكْبَرُ
صَبْرٌ وَكَرَمٌ

ہمارے سرور جہاد کرنے والے دُودُوسُلا بھیجے اللہ آپ کے

اِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ :

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ“
(سورة التوبة - ٤٢)

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”اے نبی کفار اور منافقوں
کے ساتھ جہاد کیجئے اور ان پر
سختی بھی کیجئے۔“

”اے نبی ﷺ کفار سے اور
منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر
سختی کیجئے۔ اور (آخرت میں) ان
کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بُری
جگہ ہے۔“

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ
وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَهُمْ
جَهَنَّمُ وَمَا أُمِرُوا
بِالسِّبْغِ الْمَصِيرِ“
(سورة التحريم - ١٩)

اللہ تعالیٰ اپنے رسول ﷺ
کو کافروں اور منافقوں کے ساتھ جہاد
کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ ان کفار کے
ساتھ ہتھیاروں کے ساتھ جنگ
کرنے سے اور ان (منافقوں کے ساتھ)

يقول تعالى امرًا رسوله
ﷺ بجهاد الكفار والمنافقين
هوؤلاء بالسلاح والقتال
وهؤلاء باقامة الحدود
عليهم۔

رَبَّنَا نَقْتُلْ مَنْ آتَاكَ أَنْتَ التَّوْبَةُ الْعَلِيمُ
امِينِ امِينِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

(تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۳)
ای جاہد الکفار
بالسيف والمنافقين
بالاحتجاج او باقامة الحدود
او بافتاء اسرارهم۔

(سبل الہدی ج ۱ ص ۶۲)

عن أنس بن
مالك رَوَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ
الْكُفَّ عَنْ مَنْ
قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَا تَكْفُرْ بِذَنْبٍ وَلَا
تُخْرِجْهُ مِنَ الْإِسْلَامِ
بِعَمَلٍ وَالْجِهَادِ مَاضٍ
مِنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى
أَنْ يُقَاتَلَ الْخَيْرُ
هَذِهِ أُمَّتِي الدَّجَالُ
لَا يَبْطُلُهُ جُورٌ حَائِرٌ وَلَا
عَدْلٌ عَادِلٌ وَالْإِيمَانُ
بِالْقَدَارِ۔

(سنن ابی داؤد - ج ۱ - ص ۳۳۳)

پر حدود کے جاری کرنے سے۔
یعنی آپ کفار کے ساتھ تلوار
کے ساتھ جہاد کیجئے۔ اور منافقوں
کے ساتھ دلیل سے یا ان پر شرعی
حدود قائم کیجئے یا ان کے اندرونی
بھید ظاہر فرمائیے۔

حضرت انس بن مالک رَوَى اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا تین چیزیں ایمان
کی جڑ ہیں (۱) لا الہ الا اللہ
کہنے والے سے ہاتھ روک لینا اور
اس کو کسی گناہ کے سبب کافر
نہ کہنا۔ اور کسی عمل کے سبب
اس کو اسلام سے خارج نہ کرنا۔
(۲) اور جہاد اس وقت سے جاری
ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے
مجھے (نبی بنا کر) بھیجا جب تک میری
اُمت کا آخری فرد دجال سے نہ لڑے
اور اس جہاد کو نہ کسی ظالم بادشاہ کا
ظلم روک سکتا ہے۔ اور نہ ہی کسی
عادل بادشاہ کا عدل روک سکتا ہے۔
(۳) اور تقدیر کے ساتھ ایمان لانا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَقْرَبِهِ مَدِينَةٍ مَدِينَةٍ
وَمَدِينَةٍ مَدِينَةٍ وَوَجْهِ نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَعِيذُكَ وَنَسْتَعِيذُكَ بِكَ اللَّهُمَّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَافِرُ الْكَافِرُ وَالْمُؤْمِنُ الْآمِنُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَجَابِلُ الْمَلِكِ الْمَلِكِ

ہمارے سردار قرآن کے ذریعہ جہاد کرنیوالے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”سو آپ کافروں کی خوشی کا گمان نہ
کیجئے اور قرآن سے ان کا زور شور
سے مقابلہ کیجئے۔“
”اور اس (قرآن) کے ساتھ
ان سے زور شور سے جہاد کیجئے۔“
کیونکہ دلائل کے ساتھ بیوقوفوں
سے جہاد کرنا تلوار کے ساتھ دشمنوں
سے جہاد کرنے سے بڑا جہاد
ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
نے اس آیت کے تحت کہ ”اور
کافروں کے ساتھ زور شور سے
اس (قرآن) کے ساتھ جہاد کیجئے۔“

اشارہ الی قوله:
”فَلَا تُطِيعُ الْكَافِرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا
كَبِيرًا“ (سورة الفرقان ۵۲)
”و جاهدہم بہ جہاد ا
کبیرا۔“
لان مجاہدة السفهاء
بالحج اکبر من مجاہدة
الاعداء بالسيف۔
(بیضاوی ج ۳ - ص ۱۱۱)
” و جاهدہم بہ
جہاداً کبیراً۔“
قال ابن عباس
رضی اللہ عنہما بالقرآن۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۱۱)
 یا ایها الرجل المرید نجانه
 اسمع مقالة ناصح معوان
 کن فی امورک کلها متمسکا
 بالوحي لا بزخارف الهدیان
 وانصر کتاب الله والسنن التي
 جاءت عن المبعوث بالعرفان
 واضرب بسيف الوحي كل معطل
 ضرب المجاهد فوق كل بنان
 واحمل بعزم الصدق حملة مخلص
 متجرد لله عن رجايات
 واثبت بصبرك تحت الوية الهدى
 فاذا اصبت ففي رضا الرحمن
 واجعل كتاب الله والسنن التي
 ثبتت سلاحك ثم صح بجان
 (قصيده نونيه لابن القيم ص ۱۸/۱۹)

فرمایا "اس" سے مراد قرآن ہے۔
 اسے نجات کے طالب انسان
 کسی ناصح کا کلام سن۔
 ہر کام میں وحی کی پیروی کر
 پاگلوں کی باتوں کو چھوڑ۔ اللہ کی
 کتاب اور اس کی سنت کی امداد
 کر جو عرفان کے ساتھ مبعوث کی
 گئی ہے۔ اور سچے عزم کے ساتھ
 مخلص ہو کر صرف اللہ کے لیے
 ان پر حملہ آور ہو اور ڈر مت۔
 اور ہدایت کے جھنڈے کے
 نیچے ثابت قدم رہ اگر کوئی مصیبت
 آئے تو اللہ کی رضا میں آئے۔
 اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت
 کو اپنا ہتھیار بنا اور پھر دل گڑے
 کو مضبوط بنا۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا نَسَى اللَّهُ لِقَوْمِهِ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَنْتِهِم بِعَدْوٍ عَلَىٰ مُسْلِمٍ أَنْ
قَدَمَهُ وَخَلَقَتْ وَجْهِي نَفْسِكَ وَرَبِّتْ عَشْرَتِكَ وَمَعَادَ كَلِمَاتِكَ اسْتَشْفِئُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ وَأَسْأَلُكَ

سَيِّدِنَا لِمُجَاهِدِ السَّبَا

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَ بَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ
وَآصْحَابِهِ

ہمارے سردار زبان کیسے جہاد کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ سے

إشارة إلى قوله

” فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ
وَجَاهِدْهُمْ بِجِهَادٍ كَبِيرًا “
(سورة الفرقان ۵۲)
” والجهاد بالجملة
واللسان مقدم على الجهاد
بالسيف والسنان ولهذا
امر به تعالى في السور
المكية حيث لا جهاد
باليد انداراً و تعذيراً
فقال تعالى ” فَلَا تَطْعِ
الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ
جِهَادًا كَبِيرًا “

(الكافية والشافية لابن القيم ص ۵)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”مرے نبی آپ کافروں کی خوشی
کے کام نہ کیجئے اور قرآن سے ان کا
زور شور سے مقابلہ کیجئے۔“
اور ویل اور زبان سے جہاد کرنا تلوار
اور نیزے کے جہاد سے افضل ہے۔
اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکی سورتوں
میں جہاد کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ وہاں
ہاتھ کے ساتھ جہاد نہ تھا۔ زبان سے
ان کو ڈرایا اور بے عذر کرنے کے
لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ
کو حکم دیا کہ کافروں کا کمانہ مانئے اور
قرآن کے ساتھ ان سے بڑا جہاد
کیجئے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَاتَلَهُ لِأَهْلِ الْإِيمَانِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِهِ وَعَشْرَتِهِ مَعْدُودَةٍ وَسَلِّمْ أَلَيْكَ
وَرَمَّةً وَكَلِمَاتٍ وَجَمِيعِ شَيْئِكَ وَتَسْلِيمًا وَمَا ذَكَرْنَاكَ أَسْتَعِظُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَعُوذُ بِكَ

لِمَا جَاءَكَ بِمَلِكٍ

سَيِّدِكَ
الْحَبِيبِ الْكَرِيمِ

ہمارے سردار مال سے جہاد کرنے والے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اِشَارَةٌ إِلَى رَسُولِهِ
"لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ
آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيكَ لَهُمْ
الْخَيْرَاتُ وَأَوْلِيكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ"
"أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ" (سورة التوبة ۸۸/۸۹)
عن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
الْبَنِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَ
أَنْفُسِكُمْ وَالسُّنْتُمْ - (سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۳۳)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
"لیکن رسول نے اور وہ لوگ جو
آپ پر ایمان لائے۔ انہوں نے اپنے
مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا
اور ساری بھلائیاں انہیں کے لیے
ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔"
"اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے
باغات تیار کئے ہیں۔ جن کے نیچے
نہرین بہتی ہیں۔ وہ ان میں ہمیشہ رہیں
گے یہ بڑی کامیابی ہے۔"
حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روا
ہے۔ کہ فرمایا حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں اور
زبانوں کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کرو۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَخَاتَمِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَىٰ مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أُمَّةٍ
وَعَدَدَ حَبْلِكَ وَتَبِعَكَ وَتَتَّبِعُكَ وَمَعَادِ ظِلْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْحَقُّ الْقَائِمُ وَالْحَقُّ الْمُبِينُ

سَيِّدِنَا إِمَّا بِنَفْسِنَا بِجَهْدِنَا

ہمارے سردار جان کے ساتھ جہاد کرنیوالے دُور و سلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”پس آپ اللہ کی راہ میں قتال
کیجئے آپ کو بجز آپ کے ذاتی فعل
کے کوئی حکم نہیں۔ اور مسلمانوں کو
ترغیب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے
امید ہے کہ کافروں کے زور جنگ
کو روک دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ
زور جنگ میں زیادہ شدید ہیں اور
سخت سزا دیتے ہیں۔“

علامہ زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کو جہاد کا حکم دیا ہے خواہ آپ کو
تنہا ہی لڑنا پڑے کیونکہ اُس نے
آپ سے نصرت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے۔

اشارۃ الی قولہ:
” فَمَاتِلْ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ لَا تَكُفُّ إِلَّا
نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ
عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ
بِأَسَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا
وَأَشَدُّ تَنكِيلًا “

(سورۃ النساء ۸۴)
قال الزجاج رحمۃ اللہ علیہ
امرا للہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم
بالجہاد وان قاتل وحدہ
لانہ قد ضمن لہ النصر۔
(فتح القدیر ج ۱ - ص ۲۵۵)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبَّ الْعَالَمِین ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَصْرَتِهِ مَعَهُ كُلِّ مَلَكٍ لَكَ
رُحْمَةً وَتَحَنُّنًا وَرِضًا طَيِّبًا وَرِشْقًا حَسَنًا وَمَنَادًا كَلِمَاتِكَ اسْتَشْفَاءُ لَكَ اللَّهُ الْبَرَاءَةَ الْكَلِمَةَ الْكَلِمَةَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَبِيلُكَ الْمَجِيدُ الْمُبِينُ

ہمارے سرکار اللہ کے راستے میں جہاد کرنیوالے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”نکل پڑو (خواہ) تھوٹے سامان
سے ہو اور (خواہ) زیادہ سامان سے
(ہو) اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور
جان سے جہاد کرو۔ یہ تمہارے لیے
بہتر ہے اگر یقین رکھتے ہو تو دیر
مت کرو۔“

”پس (اے نبیؐ) آپ اللہ کی
راہ میں لڑیں۔ آپ اپنی ذات کچھ سوا
کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہیں۔“
”بے شک جن لوگوں نے ایمان
قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ
میں اپنے مال اور جان سے جہاد
بھی کیا۔“

اِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ
” اِنْفِرُوا خِفَافًا
وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ
وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝“

(سورة التوبة ۴۱)

” فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا تُكَلِّفُ الْإِنْفُسَ ۝“

(سورة النساء ۷۵)

” إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ
هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝“

(سورة الانفال ۷۲)

رَبَّنَا نَقِئْ مِنَّا أَلْأَنفُسَ الْعَالِمِينَ
أَمِينِ أَمِينِ يَا رَبَّنَا الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدَا وَمَوْلَانَا وَجَنَّتَنَا مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ
وَعَدُوَّ خَلْقِكَ وَجِيءَ نَفْسِكَ وَبَنِي نَفْسِكَ وَمَا كُنَّا لَكَ اسْتَعْلَى اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدَا مُحَمَّدِي الْمُحَمَّدِيُّ

ہمارے سردار پسند فرمائے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”لیکن ہاں جس کو خود چاہیں اور
وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں انکو منتخب
فرمالتے ہیں۔“
”اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ
لیتا ہے۔ اور جو شخص (اللہ کی طرف)
رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی
دے دیتا ہے۔“
”اور حضرت ابراہیم اور حضرت
یعقوب عليهما السلام کی نسل سے
اور ان لوگوں میں سے ہیں جن کو
ہم نے ہدایت فرمائی۔“
امام مالک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے
چاہتے ہیں اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں۔

اشارہ الی قولہ ۱
”وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي
مَنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ“
(سورة العنكبوت ۱۷۹)
”اللَّهُ يُجْتَبِي إِلَيْهِ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ“
(سورة الشورى ۱۳)
”وَمِنْ ذُرِّيَةِ
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ
هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا“
(سورة مريم ۵۸)
عن مالك رضي الله عنه قال
يستخلص - رفع القدير ج اصوات ۳

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَنْتُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 وَمَا كُنَّا نَعْبُدُكَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا كَالْغُلَامِ الضَّالِّينَ يَلْتَمِسُونَ السَّبِيلَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ الْمَجْتَهِدُ

ہمارے سردار دین میں پوری کوشش کرنیوالے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

کسی خاص مقصد کی طلب میں
 پوری کوشش فرج کر دینے کو اجتہاد
 کہتے ہیں۔

حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس
 ﷺ رمضان کے آخری عشرے
 میں اتنی کوشش سے اللہ کی بندگی
 کرتے جو کسی اور دنوں میں نہ کرتے
 تھے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا
 کہ رمضان کے آخری عشرے میں
 زیادہ عبادت کرنی مستحب ہے۔
 اور اس کی راتوں کو جاگ کر عبادت
 کرنا بھی مستحب ہے۔

الاجتہاد هو بذل
 الوسع في طلب امر يقصد.
 (سبل الهدى ج ۱ ص ۲۴)
 عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يجتهد في العشر
 الاواخر ما لا يجتهد
 في غيره

(الصحيح لمسلم ج ۱ ص ۲۴)
 ففي هذا الحديث انما
 يستحب ان يزداد من العبادات
 في العشر الاواخر من رمضان
 واستحباب احياء ليا ليله بالعبادات.
 (نوى شرح صحيح مسلم ج ۱ ص ۲۴)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخْذَ الْآيَاتِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَارُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا فَحَسْبُ النَّبِيُّ الْأَمْرُ وَعَلَى آلِهِ وَأَحْبَابِهِ وَعَشْرَتِهِ مَعْدُ كُلِّ نَسْلٍ مِنْكَ
وَبَعْدُ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرِزْقِكَ وَمَا كُنَّا لَكَ أَسْتَعِزُّونَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَمَّا الْبُرُودُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَبِيبِ

ہمارے سردار قبول فرمانے والے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت انس بن مالک رضي الله عنه
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت
فاطمہ الزہراء رضي الله عنها نے پیر مشیم
پڑھا۔ اے اباجان میں حضرت
جبرئیل عليه السلام کو آپ کے وصال
کی خبر دیتی ہوں۔ اے اباجان
آپ اپنے رب کے کتنے نزدیک
ہو گئے۔ اے اباجان آپ کا ٹھکانہ
جنت الفردوس ہو گیا۔ اے
اباجان آپ نے اپنے رب کی
دعوت کو قبول فرمایا۔

حضرت ابو ہریرہ رضي الله عنه سے
روایت ہے کہ حضور اقدس

عن انس رضي الله عنه
إن فاطمة رضي الله عنها
قالت حين قبض
النبي صلی اللہ علیہ وسلم :
” وابتاه إلى جبريل عليه السلام انفاه
وابتاه مزرباه ما ادناه
وابتاه جنة الفردوس ملواه
وابتاه اجاب ربا دعاه“

(سنن ابن ماجه ص ۱۱)

عن أبي هريرة رضي الله عنه
عن النبي

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

قال لو دعیت الی
ذراع او کراع
لاجبت ولو اهدی
الی ذراعاً او کراعاً
لقبلت -

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۲۹)

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ
قال کان رسول اللہ
ﷺ یعود المریض و
یشهد الجنائز و یرکب
الحمار و یجیب دعوة العبد
و کان یوم بنی قریظہ
علی حمار مخطوم
یحبل من لیف علیہ
اکاف من لیف -

شمائل الترمذی ص ۲۳

عن انس بن مالک
رضی اللہ عنہ قال لو اهدی
الی کراع لقبلت -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۹)

ﷺ نے فرمایا اگر مجھے ایک
بازو یا پائے (کے گوشت) کی
دعوت دی جائے تو میں اس
دعوت کو قبول کر لوں گا۔ اور اگر
میری طرف بازو یا پایہ تحفہ بھیجا
جائے تب بھی میں قبول کر لوں گا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ مرض کی عیادت کو جاتے
جنازہ میں شامل ہوتے۔ گدھے
کی سواری کرتے۔ اور غلاموں کی
دعوت قبول فرمالتے تھے۔ آپ
بنو قریظہ کی لڑائی کے دن ایک
گدھے پر سوار تھے جس کی گام کھجور
کی رستی کی تھی اور کاٹھی بھی اسی کی
تھی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا اگر مجھے بکری کا
ایک کھر بھی ہدیہ دیا جائے تو میں
قبول کر لوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَهْلَهُ الْآبَاءُ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتِهِمْ بِعَدَدِ كُلِّ مَسْلُومٍ لَكَ
رَهْمَةٌ وَخَلْقِكَ وَمِنْ تَشْكِيقِ وَبِحَبْرَتِكَ وَمِعَادِ كَلِمَاتِكَ اسْتَعِزُّ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْقَدِيمُ وَالْحَقُّ الْمُبِينُ

سَيِّدُكَ الْمَجِيدُ

ہمارے سرور بزرگ مستی دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

الْمَجِيدُ (مجم) کا فتحہ اور
”جیم“ کا کسرہ اونچی شان والے
اونچی بابرکت مستی یا بزرگ شریف
کام کرنے والے فضیل فاعل کے
معنی میں مجد کے مادہ سے شرافت
کو پانے والے۔
مجید کا معنی بزرگی والے اور
تمام رسولوں پر شرف رکھنے والے
جیسے قرآن مجید کو مجید کہا گیا ہے۔
کیونکہ وہ بزرگ کتاب ہے۔ اور
دوسری کتابوں پر اس کو شرف
حاصل ہے۔

المجید بفتح المیم و
کسر الجیم الرفیع القدر
العالی البرکة اوالکرم
الشریف الفعال فعیل
بمعنی فاعل من المجد و نیل
الشرف - (سبل الہدی ج ۱ ص ۱۲۷)
المجید ای ذوالمجد
والشرف علی سائر الرسل
کما القرآن المجید ای
ذوالمجد والشرف علی
سائر الکتب -
(مظہری ج ۹ ص ۶۰)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِینَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَصَفِّحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَصَفِّحْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَنَا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَصَفِّحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ وَصَفِّحْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَنَا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِحَبِيبِ

ہمارے سردار پناہ دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
 ”اور اگر کوئی شخص مشرکوں میں
 سے آپ سے پناہ طلب کرے
 تو آپ اُسے پناہ دیجئے۔“
 اور اس آیت کا معنی یہ ہے
 کہ اگر کوئی مُشرک جس کے قتل کرنے
 کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ آپ سے
 پناہ طلب کرے تو آپ اُسے
 پناہ دے دیں۔ یعنی آپ اس
 کی جان کے امین اور حمایتی بن
 جائیں۔

اشارہ الی قوله:
 ”وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔“
 (سورة التوبة ۶)
 والمعنى و ان
 استجارك احد من
 المشركين الذين
 امرت بقتالهم فاجره
 اي كن حاراً
 مؤمناً محامياً۔
 (فتح القدیر ج ۲ - ص ۲۱۷)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا سَأَلْتُ اللَّهَ لِقَاءَ أَحَدٍ مِنَ النَّبِيِّينَ وَلَا لِقَاءَ أَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا لِقَاءَ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ إِلَّا وَجَدْتُهُ مُعَلِّمًا يَلْقَاكَ مِنْ رَبِّكَ وَيُخَوِّطُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ رَبِّكَ مَا تَشَاءُ وَيُخَوِّطُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ رَبِّكَ مَا تَشَاءُ وَيُخَوِّطُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ رَبِّكَ مَا تَشَاءُ

سُبْحَانَكَ يَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدٌ عَلَى الصَّلَاةِ

ہمارے سردار نمازوں کی حفاظت کے لیے درود و سلام بھیجے اللہ کے لیے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”سب نمازوں کی حفاظت کرو اور (خاص کر) درمیان والی نماز (عصر) کی اور اللہ کے سامنے عاجز بنے ہوئے کھڑے ہو کر و۔“
”اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔“
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت فرماتی ہیں اُس اللہ کی قسم جو حضور اقدس ﷺ کو اپنے پاس لے گیا۔ اس وقت آپ فوت نہیں ہوئے جب تک آپ کی اکثر نماز بیٹھ کر نہ ہوتی تھی اور سب سے پیارے عمل آپ کے نزدیک وہ تھے جس پر انسان ہمیشگی کرے۔ اور اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔

إشارة الى قوله :
”حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ“
(سورة البقرہ ۲۳۸)
”وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ“ (سورة المؤمنون ۹)
عن ام سلمة رضي الله عنها قالت والذى ذهب بنفسه ﷺ مامات حتى كان اكثر صلواته وهو جالس وكان احب الاعمال اليه العمل الصالح الذى يدوم عليه العبد وان كان يسيرا۔ (ابن ماجه ص ۵)

رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِحُبِّهِ الْآبَاءَ وَالْوَالِدِينَ
الَّذِينَ صَلُّوا عَلَيْهِمْ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَهُوَ الَّذِي
قَدَّمَ وَخَلَقَ وَجَدَّكَ وَبَنَى لَكَ وَمَا كُنَّا نَسْتَعِينُكَ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ اللَّهُ أَنَّكَ
تَعْلَمُ

سَبِّكَ يَا رَبِّ لِحُبِّكَ

ہمارے سردار سب کے پیارے دُور و سلا بھیجے اللہ آپ سے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم سے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک ہومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے باپ اور اولاد سے پیارا نہ ہوں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک ہومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہوں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قال والذی نفسی بیدہ
لا یؤمن احدکم حتی
اکون احب الیہ من
والدہ وولدہ -

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۱)

عن انس رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا یؤمن احدکم حتی
اکون احب الیہ من
والدہ وولدہ والناس
اجمعین -

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى مَنْ تَلَّحِقَهُمْ مِنْ تَتْلُوهُمْ أَلَمِ
وَمَعَهُمْ وَخَلَقَتْ مِنْهُمْ لِيُحْيُوا دِينَكَ وَتُشْرِكَ بِرَبِّكَ وَمَا دَعَاكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلْحَبِ

ہمارے سردار پیار کرنے والے دُودُوسلایچے اللہ آپ

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں
کہ ایک رات میں کسی ضرورت سے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو
جناب سؤل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لیے ہوئے
باہر تشریف لائے۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا
کیا چیز ہے جب مجھے اپنی ضرورت سے
فراغت ہوئی تو میں نے عرض کیا یہ
کیا چیز ہے؟ جسے آپ پیٹے ہوئے
ہیں۔ آپ نے اُسے کھول دیا کیا
دیکھتا ہوں حضرت امام حسن اور حسین
رضی اللہ عنہما آپ کی رانوں پر ہیں۔
آپ نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے
ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔

عن اسامة بن
زيد رضي الله عنه قال طرقت
النبي صلی اللہ علیہ وسلم ذات ليلة
في بعض الحاجة
فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم
وهو مشتمل على شيء
لا ادري ماهو فلما
فرغت من حاجتي
قلت ما هذا
التذي انت مشتمل
عليه فكشفه فاذا
حسن وحسين رضي الله عنهما
على وركيه فقال
هذان ابناي

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امين امين امين يا ربه العليين ط

و ابنا ابنتی اللہم
انۃ اجمہما فاجہما
واحب من یحبہما۔

(جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۱۵)

عن کعب بن مالک

رَوَى اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ

يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرَجَ يَوْمَ

الْخَمِيسِ۔ (صحيح البخاری ج ۱ ص ۲۱۴)

عن معاوية بن يزيد العبي

رَوَى اللَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ يُحِبُّ مِنَ الْفَاكِهَةِ الْعَنْبَ

وَالْبَطِيخَ۔ (جامع تفسیر لیسوی ج ۲ ص ۲۱۴)

عن ابی طالوت

رَوَى اللَّهُ قَالَ دَخَلْتُ

عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ

رَوَى اللَّهُ وَهُوَ يَأْكُلُ الْقُرْعَ

وَهُوَ يَقُولُ يَا لَكَ شَجْرَةَ

مَا أَحْبَبْتُكَ إِلَى لِحْبِ رَسُولِ

اللَّهِ مَثَلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَسَيِّئُ أَيَّاكَ۔

(جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۱۴)

اے اللہ میں ان دونوں سے محبت
رکھتا ہوں۔ تو بھی ان سے محبت رکھ
اور جو ان سے محبت رکھے ان سے
بھی محبت رکھ۔

حضرت کعب بن مالک رَوَى اللَّهُ عَنِ

سے روایت ہے کہ حضور اقدس

ﷺ غزوة تبوک کے لیے جمعرات

کو روانہ ہوئے۔ اور جمعرات کے

دن سفر پر نکلنے کو محبوب رکھتے تھے۔

حضرت معاویہ بن عیسی رَوَى اللَّهُ عَنِ

سے روایت ہے کہ حضور اقدس

ﷺ میوہ جات میں سے انگور

اور زبوز کو محبوب رکھتے تھے۔

حضرت ابوطالوت رَوَى اللَّهُ عَنِ

روایت ہے کہ میں حضرت انس بن

مالک رَوَى اللَّهُ کی خدمت میں حاضر

ہوا تو آپ کدو کا سالن کھا رہے

تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے۔ اے

درخت تیرا کیا کہنا ہے میں تجھ سے

اس لیے پیار کرتا ہوں کیونکہ تجھ سے

حضور اقدس ﷺ پیار فرماتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآبَانَ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ وَعَنْهُمْ وَعَنْ مَن تَبِعَهُمْ
وَمَنْ تَبِعَ تَبِعَهُمْ وَوَجَّهِي مُسْلِمًا وَمَوْلَاكَ وَمَوْلَاكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْقَائِمُ وَالْحَقُّ الْبَاقِي

سَبِّكَ وَحُبِّكَ

ہمارے سزاوار حضرت حسنؑ سے پیار کرنے والے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن البراء بن عازب
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ
ﷺ وَاصْطَفَى أَحْسَنَ بَنِي عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهُوَ يَقُولُ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَاحْبِبْهُ -
(جامع الترمذی ج ۲ - ص ۲۱۹)

حضرت براء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت کیا کہ میں نے حضور اقدس
ﷺ کو دیکھا کہ حضرت حسن بن علی
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کو اپنے کندھے پر اٹھا ہوئے
فرمایا ہے تھے۔ اے اللہ میں اسے محبوب
رکھتا ہوں تو بھی اسے محبوب رکھ۔

عن أنس بن مالك
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ إِنِّي أَهْلُ بَيْتِكَ
أَحِبُّ إِلَيْكَ قَالَ أَحْسَنُ
وَأَحْسَنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَكَانَ
يَقُولُ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ادْعِي
لِي ابْنِي فَيُشْمِمُهُمَا وَيُضْمِمُهُمَا إِلَيْهِ -
(جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۱۸)

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت کیا کہ حضور اقدس ﷺ
سے پوچھا گیا آپ کو اہل بیت میں کون
سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے
فرمایا حضرت حسن اور حسین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
آپ حضرت فاطمہ الزہراءؑ سے فرمایا کرتے
تھے میرے پاس میرے دونوں بیٹوں کو لاؤ
آپ دونوں کو سونگھتے اور سینے سے لگاتے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لِحُكْمَةِ الْأَنْبِيَاءِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الْأَمْثَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَوَعْدِ مَنْ وَعَدَ عَلَى مَنْ مَلَئَمَ الْكَرِيمِ
 وَوَعْدِ مَنْ وَعَدَ عَلَى مَنْ مَلَئَمَ الْكَرِيمِ وَوَعْدِ مَنْ وَعَدَ عَلَى مَنْ مَلَئَمَ الْكَرِيمِ وَوَعْدِ مَنْ وَعَدَ عَلَى مَنْ مَلَئَمَ الْكَرِيمِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ حَبِيبُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ الْحَسِينُ

ہمارے سردار حضرت حسینؑ سے محبت کرنا والے دودھ و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت برار بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت حسن اور حسین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کو دیکھا تو فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ

حضرت یعلیٰ بن مرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا حضرت حسین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے ہے اور میں حضرت حسین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے جو حضرت حسین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے محبت رکھے حضرت حسین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے محبت رکھنے میں سے ایک فرزند ہیں۔

عن البراء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ان رسول الله ﷺ ابصر حسنا وحسينا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فقال اللهم اني فاجتهدما فاحبهما۔
 (جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۱۹)

عن يعلى بن مرّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال قال رسول الله ﷺ صلوات الله عليه وسلم حسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مني وانا من حسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ احب الله من احب حسينا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حسين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سبط من الاسباط۔
 (جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۱۹)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ إِلَّا يَذْكُرُوا اللَّهَ الَّذِي هُوَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ آلِي وَصَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرَّسُولِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَبِعَدْوِ خَلْقِكَ وَبِحَبْلِ نَسْتِكَ وَبِحَبْلِ عَمَلِكَ وَبِحَبْلِ عَمَلِكَ وَبِحَبْلِ عَمَلِكَ وَبِحَبْلِ عَمَلِكَ

سَيِّدِكَ مَحَبَّتِكَ

ہمارے سردار حضرت علیؑ سے محبت کرنے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت انس بن مالک رضي الله عنه
سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنا ہوا پرندہ
تھا آپ نے دعا فرمائی اے اللہ
میرے پاس وہ آدمی بھیج جو میرے
ساتھ مل کر یہ پرندہ تناول فرمائے۔
جو مخلوق میں سے تجھے زیادہ پیارا ہو
اس کے بعد حضرت علی رضي الله عنه آئے
انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر
گوشت تناول فرمایا۔

حضرت بریدہ رضي الله عنه سے روایت
ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں
چار آدمیوں سے محبت کروں اور

عن أنس بن
مالك رضي الله عنه قال
كان عند النبي
صلی اللہ علیہ وسلم طير فقال
اللهم ائتني باحب
خلقك اليك يا كل
معي هذا الطير
فجاء علي رضي الله عنه
فاكل معه.
(جامع الترمذی ج ۲ - ص ۲۱۳)

عن بريدة رضي الله عنه
قال قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم ان الله
امرني بحب أربعة

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

و اخبرني انه يحبهم
 قيل يا رسول الله
 (ﷺ) سمهم لنا
 قال علي (رضي الله عنه)
 منهم يقول ذلك
 ثلاثاً و ابوذر و
 المقداد و سلمان
 (رضي الله عنهم) و امرئ
 بختهم و اخبرني
 انه يحبهم -

(جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۱۳)

عن عمران بن
 حصين قال قال
 رسول الله ﷺ
 لاعطين الراية رجلا
 يحب الله و رسوله ﷺ
 ويحبه الله و رسوله ﷺ
 فاعطاها علياً

(رواه الطبرانی)

جمع الزوائد و منبع الفوائد ج ۱ ص ۱۲۲

مجھے یہ خبر بھی دی ہے کہ وہ بھی
 ان چاروں سے محبت کرتا ہے۔
 پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول ﷺ
 ہمیں ان کے نام بتا دیجئے۔ آپ
 نے تین مرتبہ فرمایا علیؑ ان میں ہے۔
 علیؑ ان میں ہے۔ علیؑ ان میں ہے۔
 اور ابوذر اور مقداد اور سلمان ہیں۔
 (رضی اللہ عنہم) حضرت بریدہ (رضی اللہ عنہ)
 کا بیان ہے کہ آپ نے مجھے ان
 چاروں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم
 دیا اور فرمایا میں بھی ان چاروں سے
 محبت کرتا ہوں۔

حضرت عمران بن حصین (رضی اللہ عنہ)
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 نے زخیرا کے دن فرمایا کہ میں ایسے
 آدمی کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس
 کے رسول ﷺ کے ساتھ محبت
 کرتا ہے اور اسے اللہ اور اس کے
 رسول ﷺ محبت کرنے میں
 پھر آپ نے حضرت علیؑ کو
 (جھنڈا) عطا فرمایا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدَتِي وَسَيِّدَتِي وَسَيِّدَتِي وَسَيِّدَتِي وَسَيِّدَتِي وَسَيِّدَتِي
وَمَنْ دَخَلَ بَيْتِي وَرَأَى نِسَاءً مِنْ بَنَاتِي فَسَلِّمْ عَلَيْهِنَّ وَأَعِزَّنِي بِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي

مَحَبَّةُ فَاطِمَةَ

سَيِّدَتِنَا

ہمارے سردار حضرت فاطمہؑ سے محبت کرنے والے دو دو سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت جمیع بن عمیرؓ سے روایت ہے کہ میں اپنی چھوٹی
کے ساتھ حضرت عائشہؓ کے گھر گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں
میں سے حضور اقدس ﷺ کو
سب سے زیادہ کون محبوب تھے؟ تو
انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہؓ
سے پوچھا گیا کہ آدمیوں میں سے
کون؟ تو انہوں نے فرمایا ان کا خاوند
جہاں تک مجھے علم ہے۔ وہ بڑے روز
رکھنے والے تہجد گزار تھے۔

حضرت مسور بن مخرمہؓ سے
روایت ہے۔ کہ فرمایا حضور اقدس
ﷺ نے فاطمہؓ میں جگر کا ٹکڑا ہے

عن جمیع بن
عمیر التیمیؓ قال
دخلت مع عمتی علی
عائشہؓ فسئلت
ای الناس کان احب
الی رسول اللہ ﷺ
قالت فاطمہؓ فقيل
من الرجال قالت زوجها
ان کان ما علمت صواماً
قواماً۔

(جامع الترمذی ج ۲ - ص ۲۲۴)

عن المسور بن مخرمہؓ
رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ ﷺ
قال فاطمہؓ رضی اللہ عنہا بضعة منی

فمن اغضبها فقد اغضبني -

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۵۳۲)

عن زید بن ارقم

رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم لعلی وفاطمة

والحسن والحسين

رضی اللہ عنہما انا سلو لمن

سالمتم و حرب لمن

حاربتم - (سنن ابن ماجہ ص ۱۲)

عن بريدة رضی اللہ عنہ

قال كان احب النساء

الى رسول الله ﷺ

فاطمة رضی اللہ عنہا ومن

الرجال على رضی اللہ عنہ قال

ابراهيم رضی اللہ عنہ یعنی

من اهل بيته -

(جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۲۴)

جس نے اُسے ناراض کیا اُس
نے مجھے ناراض کیا۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ اور حسن

اور حسین رضی اللہ عنہما کو فرمایا جن سے

تمہاری صلح ان سے میری صلح

جن سے تمہاری جنگ ان سے

میری جنگ۔

حضرت بريدة رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ حضور اقدس

صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے

زیادہ محبوب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا

تھیں۔ اور مردوں میں سب سے

زیادہ محبوب حضرت علی کرم اللہ وجہہ

تھے۔ راوی ابراہیم رضی اللہ عنہ

کہتے ہیں یعنی اپنے اہل بیت سے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْأُمَّةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ كُلِّ مُتَّقٍ
 وَبِعَدَدِ كُلِّ نَفْسٍ وَبِحُسْنِ عَمَلِكُمْ وَمَا كُنَّا لِنَسْتَغْفِرَ لَكَ إِلَّا بِإِذْنِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُرْتَبِ الْمُرْتَبِ

ہمارے سردار پیارے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میرے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ہے میں زندگی بھر ان کو نہ چھوڑوں گا۔ ہر ماہ میں رات بھر (بعض کے) تین روزے رکھنا۔ نماز چاشت کا پڑھنا اور یہ کہ نہ سوؤں جب تک تر نہ پڑھ لوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ مبارک میں بیان کرتے ہیں۔ جو آپ کو اچانک دیکھا وہ مرعوب ہو جاتا اور جو آپ کے ساتھ گھل مل جاتا وہ آپ سے محبت کرتا۔ آپ کی صفت بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے اور آپ کے بعد آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا۔

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث لن ادعھن ماعشت بصیام ثلاثة ایام من کل شهر وصلوة الضحیٰ و بان لا افام حتی اوتر۔
 (اصح مسلح ج ۱ ص ۱۵)

عن علی رضی اللہ عنہ فی صفة النبی صلی اللہ علیہ وسلم من راہ بدیہۃ ہابہ ومن خالطہ معرفۃ احبہ یقول ناعته لم ارقبلہ ولا بعدہ مثله صلی اللہ علیہ وسلم۔
 (جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۰۵)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِغَيْرِ مُسْلِمٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآخِيهِمْ وَعَنْزِلِمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْكَ
قُدْرَةً وَحِلْمَةً وَجِلْدَةً وَكَلِمَةً وَتَسْوِيقًا وَمَا كُنْتَ تَسْتَعِزُّ بِهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلْمُتَّقِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ

سُبْحَانَكَ يَا كَرِيمٌ مَحْبُورِ الْقُلُوبِ

ہمارے سردار، دلوں کے محبوب، دُور و سلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف،
”نبی! مومنوں کی جانوں سے
زیادہ پیارے ہیں۔ اور آپ کی
بیویاں ان کی مائیں ہیں۔“
حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حضور اقدس ﷺ
کا مرثیہ یوں پڑھتی ہیں۔
آپ حقیقت میں تمام جہان
سے بڑے ہیں۔ آپ لوگوں کے
سردار ہیں جن کی محبت دلوں
میں ہے۔

اشارہ الی قولہ،
”الَّتِي أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ
مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
أُمَّهَاتُهُمْ“ (سورة الاحزاب ۶)
قالت صفية بنت
عبد المطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَرْتِي
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
”اعظم الناس في البرية حقاً
سيد الناس حبه في القلوب“
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۳۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَذَّ الْأَبَاءُ لِلْبَنِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجِبْرِتِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَعَشْرَتِهِ بَعْدَهُ عَلَى مَثَلِهِ لَنْ
وَعَدَدِ خَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَتِكَ وَمَنَادِ كَلِمَاتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْمُتَعَلِّمُ الْغَنِيُّ

سَيِّدِنَا الْمَلِكُ الْمَجِيدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار سیدھا راستہ درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف ۔
” اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر
بیٹھتے تھے۔ اس وقت آپ کی خدمت
میں حاضر ہو جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ جس شخص
طلب کرتے اور رسول بھی ان کے لیے
اللہ تعالیٰ جس شخص مانگتے تو ضرور اللہ کو توبہ
کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے۔“
الحجۃ کا معنی سیدھا راستہ ہے۔ لفظ
حج سے مفعلتہ کے وزن پر جس کا معنی قصد
کرنا ہے۔ اس میں مسم زائد ہے جس کی جمع
محتاج ہے۔ اور یہ اسم مبارک حضور اقدس
ﷺ کا اس لیے رکھا گیا کہ تمام
لوگ آپ کی طرف قصد کرتے ہیں۔

اشارہ: اِلٰی قَوْلِهِ
” وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ
ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ
الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ
تَوَّابًا رَّحِيمًا “
(سورة النّار ص ۶۲)
جادة الطريق مفعلة
من الحج وهو القصد
والميم زائدة وجمعه المحاج
وسمي بذلك ﷺ لان
الناس تقصده -
(سبل الهدى ج ۱ ص ۱۲۴)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْأُمَّةَ إِلَّا اللَّهُ
الَّذِي هُوَ الْمُرْسَلُ وَسُلْطَانُكُمْ عَلَى سُنَّةٍ نَزَّلْنَا نَحْنُ وَمَنْ تَحْتَهُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لِرَبِّهِمْ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْأُمَّةَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي هُوَ الْمُرْسَلُ وَسُلْطَانُكُمْ عَلَى سُنَّةٍ نَزَّلْنَا نَحْنُ وَمَنْ تَحْتَهُ مِنْكُمْ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ لِرَبِّهِمْ

سَبِّكَ لِلْحَرْصِ

ہمارے سزاوار رغبت دینے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”اے نبی! آپ مومنین کو جہاد
کی ترغیب دیجئے۔“

پس آپ اللہ کے راستے میں قتال
کیجئے۔ آپ کو بجز آپ کے ذاتی فعل کے
کوئی حکم نہیں اور مومنین کو ترغیب دے
دیجئے۔“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں
ایک صبح یا ایک شام چلنا دنیا و مافیہا
سے بہتر ہے۔

اشارہ الی قوله .

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ط“

(سورة الانفال ۶۵)

”فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ
وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ط“

(سورة النساء ۸۳)

عن انس بن مالك
رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم
قال لعدوة في سبيل الله
اوروحة خير من الدنيا
وما فيها. (صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۹۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِّنْ اللَّهِ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَصَحْبِهِ مَعَهُ وَعَلَىٰ مَن تَلَاهُ مِنْ أُمَّةٍ
وَمَدَّ وَخَلَقَتْ وَوَهَبَتْ لِقَوْمِكَ وَرَبِّهِمْ شَيْئًا وَسَاءَ مَا كَذَّبْتَ بِأَهْلِ الْكَلْبِ وَالنَّجْدِ وَالْحِمْيَرِ وَالْحِمْيَرِ وَالْحِمْيَرِ

سَيِّدِكَ مُحَمَّدٌ

ہمارے سردار حرام کرنے والے دُور و دُور سے بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قولہ: "وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ" (سورة الاعراف ۱۵۷)
عن ابی ثعلبة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَحْمَ الْحُمْرِ الْاَهْلِيَّةِ. (صحيح البخارى ج ۲ ص ۸۳)
عن المقدام بن معدى كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ اشْيَاءَ يَوْمَ خَيْبَرِ الْحَمَارِ وَغَيْرِهِ - (الحديث)
(سنن دارمى شريف ج ۱ ص ۱۲۲)

اشارہ ہے اُس قول کی طرف: "اور (وہ نبی) ان پر پلید چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔"
حضرت ابو ثعلبہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کیا۔
حضرت مقدم بن معدی کرب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے خیبر کے دن گدھے وغیرہ کے گوشت کو حرام کیا۔

رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امين امين امين يا رب العالمين ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَفْرِتِهِمْ سُدَّوْكَى مَسْئَلِمُكَ
رَبِّهِمْ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَبِأَنَّكَ اسْتَعْمَرْتَ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لَأَنَّكَ الْكَمَلُ الْكَمَلُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَعْلَمُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار ظلم کو حرام کرنے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
خطب الناس يوم المخرفتال
يا ايها الناس اي يوم هذا
قالوا يوم حرام فقال
فاتي بلد هذا قالوا بلد
حرام قال فاي شهر هذا
قالوا شهر حرام قال فان
دماكم و اموالكم واعراضكم
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا
في بلدكم هذا في شهركم هذا
فاعادها مرارا ثم رفع
رأسه فقال اللهم هل
بلغت اللهم هل بلغت

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۳۲)

حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے
روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے
قربانی کے دن رمنی میں لوگوں کو خطبہ
ارشاد فرمایا فرمایا لوگو یہ کونسا دن ہے؟ انہوں
نے عرض کیا یہ حرمت کا دن ہے۔ آپ نے فرمایا
یہ کونسا شہر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ حرمت
والا شہر رکمہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کونسا مہینہ
ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ حرمت کا مہینہ ہے۔
فرمایا تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے خون
تمہارے مال تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی
طرح حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن کی حرمت تمہارے
اس شہر میں تمہارے اس مہینہ میں کئی مرتبہ یہ
الفاظ دہرائے پھر آپ نے مبارک اٹھایا اور فرمایا
اے اللہ میں نے پہنچا دیا۔ اے اللہ میں نے پہنچا دیا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِحَقِّهِ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجْزَتِهِ مَعْدُ كُلِّ مَسْئُومٍ الَّذِي
رَبَّمَهُ وَخَلَقَهُ وَجَعَلَ قَلْبَكَ وَيَسِّرَ شَيْئَكَ وَمَا دَعَاكَ لَكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ عَلَى الْعَرْشِ وَالْحَقُّ عَلَى الْعَرْشِ وَالْحَقُّ عَلَى الْعَرْشِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَحْرَمٌ مَكَّةَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار مدینہ منورہ کو حرم قرار دینے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن زيد بن عاصم
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
أَبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَرَمٌ
مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا
وَإِنِّي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ
كَمَا حَرَّمَ أَبْرَاهِيمُ
عَلَيْهِ السَّلَامُ مَكَّةَ وَإِنِّي
دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا
وَمَدَّهَا بِمِثْلِ مَا
دَعَا بِهِ أَبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
لِأَهْلِ مَكَّةَ.

(اصحح لمسلم ج ۱ - ص ۲۲)

عن ابى هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت زید بن عاصم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا حضرت ابراہیم
عَلَيْهِ السَّلَامُ نے مکہ کو حرمت والا قرار
دیا۔ اور اس کے رہنے والوں
کے حق میں دُعا فرمائی۔ اور میں مدینہ
منورہ کو حرمت والا قرار دیتا ہوں
جس طرح حضرت ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ
نے مکہ کو حرمت والا قرار دیا
اور میں مدینہ کے صلح اور مدینہ کو
کیلئے دُعا کرتا ہوں۔ جس طرح حضرت
ابراہیم عَلَيْهِ السَّلَامُ نے مکہ والوں کے
لیے دُعا کی تھی۔

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے

رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

ان النبى ﷺ
قال حرم ما بين
لابتى المدينة على
لسان قال واتى
النبي ﷺ بنى
حارثة فقال اراكم
يا بنى حارثة قد خرجتم
من الحرم ثم التفت
فقال بل انتم فيه -

(صحيح البخارى ج ۱ ص ۲۵۱)

عن انس بن مالك

رضي الله عنه عن النبي ﷺ

قال المدينة حرم من كذا
الى كذا لا يقطع شجرها
ولا يحدث فيها حدث
من احدث فيها حدثا
فعلية لعنة الله والملائكة
والناس اجمعين -

(صحيح البخارى ج ۱ ص ۲۵۱)

روایت ہے کہ فرمایا حضور اقدس
ﷺ نے مدینہ منورہ کے دونوں
کناروں کی حرمت میری زبان پر
ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا
بیان ہے۔ پھر حضور اقدس ﷺ
قبیلہ بنو حارثہ کے ہاں تشریف لے
گئے۔ فرمایا میرا خیال ہے کہ تم حرم
سے نکل گئے ہو۔ پھر آپ نے
ادھر ادھر دیکھا اور فرمایا نہیں تم تو
حرم کے اندر ہی ہو۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما

حضور اقدس ﷺ سے روایت

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مدینہ فلال
مقام سے فلال مقام تک حرم ہے
یہاں کا درخت نہ کاٹ جائے اور
نہ یہاں کوئی نئی بات ظلم و بدعت
کی کی جائے۔ جو شخص یہاں نئی بات
کے اس پر اللہ کی اور فرشتوں
کی اور سب لوگوں کی لعنت۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ عَدْوً وَعَدُوًّا لِمَنْ عَدَاكَ
وَعَدُوًّا لِمَنْ عَدَاكَ وَتَحَرُّمًا لِمَنْ تَحَرَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَمَلُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَالْحَرَامُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ الْكَلْبُ

ہمارے سردار عمگین درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

عن أنس بن مالك
رَوَى اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
أبي سيف القين و كان
ظنر الابراهيم رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ فَاحْذ
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ابراهيم
رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ فقبله و شمه ثم
دخلنا عليه بعد ذلك
و ابراهيم رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ يجرود
بنفسه فجعلت عينا
رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
تذرفان فقال له عبد الرحمن
ابن عوف رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ و انت
يارسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت انس بن مالک رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ
سے روایت ہے کہ ہم حضور اقدس
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ ابوسیف لوبار کے
گھر گئے اور وہ حضور کے صاحبزادہ
حضرت ابراہیم رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ کا دایا تھا۔
آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے حضرت ابراہیم
رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ کو اٹھایا پھر بوس لیا۔ اور
اس کو سونگھا۔ پھر جب دوبارہ ہم
اُس کے گھر گئے تو آپ کا صاحبزادہ
حضرت ابراہیم رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ عالم نزع
میں تھا۔ تو حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اس پر حضرت عبد الرحمن بن عوف
رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ بولے یا رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رب العالمین ط

فقال يا ابن عوف رضي الله عنه
 انها رحمة ثم اتبعها
 باخرى فقال ان العين
 تدمع والقلب يحزن ولا
 نقول الا ما يرضى ربنا
 وانا بفراقك يا ابراهيم
 لمحزون - صحيح البخاري ج ۱ - ص ۱۴۲
 عن عائشة رضي الله عنها
 قالت لما جاء نعي
 جعفر بن ابى طالب
 وزيد بن حارثة
 وعبد الله بن رواحة
رضي الله عنهم جلس رسول الله
صلوات الله عليه وسلم يعرف في
 وجهه الحزن - (الحديث)
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۶ ص ۵۸)
 عن انس بن مالك
رضي الله عنه قال جاء جبريل
عليه السلام الى النبي صلوات الله عليه وآله ذات
 يوم وهو جالس حزينا قد خضب
 بالدماء ضربه بعض اهل مكة
 (الحديث) (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۱۳)

آپ روہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عوف
 کے بیٹے یہ رونا رحمت ہے پھر
 آپ صلوات الله عليه وآله دوبارہ رو پڑے فرمایا
 آنکھ آنسو بہاتی ہے۔ اور دل غمگین
 ہے۔ اور میں اللہ کی رضا کے بغیر
 کچھ نہیں کہتا۔ اور میں تیری جدائی
 سے اے ابراہیم غمگین ہوں۔
 حضرت عائشہ رضي الله عنها سے
 روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلوات الله عليه وآله
 کے پاس جنگ موتہ میں شہید ہونے
 والوں حضرت جعفر بن ابوطالب حضرت
 زید بن حارثہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ
رضي الله عنهم کی خبر پہنچی حضور اقدس
صلوات الله عليه وآله بیٹھ گئے۔ آپ کے چہرہ
 اقدس پر غم کے آثار دکھائی دے
 رہے تھے۔

حضرت انس بن مالک رضي الله عنه
 سے روایت ہے کہ ایک دن حضور اقدس
صلوات الله عليه وآله کے پاس حضرت جبریل
عليه السلام آئے اور آپ صلوات الله عليه وآله
 غمگین بیٹھے ہوئے تھے آپ کو مکہ مکرمہ
 کے بعض رکافروں نے لہو لہان کر دیا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآبَانَ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَعَدِّمْ خُلُوقَكَ وَوَجْهِ نَسَبِكَ وَنَسَبِ مَنْزِلَتِكَ وَنَسَبِ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ
وَالْأَكْثَرُ لِلْحَقِّ وَالْحَقُّ لِلَّهِ وَالْحَقُّ لِلَّهِ وَالْحَقُّ لِلَّهِ وَالْحَقُّ لِلَّهِ

مَحْضُ خَالِصِكَ

سَيِّدِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

ہمارے سردار خالص خاندانی دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

محض ہر چیز خالص جس میں کوئی
ملاوٹ نہ ہو۔

والمحض الخالص غير
المشوب بشيء -

عرق درخت کی جڑ کو کہتے
ہیں۔

(مجمع البحار ج ۲ ص ۲۸۳)
والعرق احد عروق
الشجرة - (مجمع البحار ج ۳ ص ۳۷۵)

حضرت ہند بنت اناثہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
حضور اقدس ﷺ کا مرثیہ پڑھتی
ہیں۔ اور حضرت جبریل عَلِيهِ السَّلَام
آیتوں کو لے کر ہمارے پاس آئے
تھے۔ وہ اب ہم سے غائب ہیں
اور ہر غائب پر وہی میں ہے۔
اے ابوسہل دنیا سے خالص نسب
اور اصل اصل نصرت ہو گئے۔

قالت هند بنت
اناثة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَرْتِي النَّسَبِي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
”وكان جبريل بالايات يحضرننا
فغاب عنا وكل الغيب محجب
فقد رزيت اباسهلا خليقته
محض الضربية والاعراق والنسب“
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۳۲۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِسْلَامَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَلَّحَّنَكَ اللَّهُ
قَوْلَهُ وَخَلَقَكَ وَجْهًا لِقَابِكَ وَرَفَعَكَ لَكَ الْإِسْلَامَ فَاسْتَنْزِلْهُ الْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ وَالْإِسْلَامَ

مَحْفُوظٌ

سَيِّدِكَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سرکارِ حفاظت کئے گئے درودِ سلامیجی اللہ آپ پر

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اور آپ اپنے رب کی تجویز پر
صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری
حفاظت میں ہیں۔“

محفوظ حفظ سے اسم مفعول کا صیغہ
ہے۔ آپ کا یہ نام اس لیے رکھا
گیا ہے کہ آپ شیطان سے
محفوظ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور
قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ نماز پڑھی
اس کے بعد فرمایا کہ شیطان (اس وقت)
میرے سامنے آیا اور اس نے کوشش
کی کہ میری نماز قطع کر دے مگر اللہ تعالیٰ

إشارة إلى قوله :

”وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا“

(سورة الطور ۲۸)

اسم مفعول من الحفظ
وسمی بہ لانه محفوظ
من الشيطان .

(سبل الہدی ج ۱ ص ۶۲۷)

عن ابي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
انه صلى صلوة فقال
ان الشيطان عرض لي
فشذ علي ليقطع الصلوة
علي فامكنني الله منه

رَبَّنَا أَنْتَ مَنَّا أَنْتَ التَّجْمَعُ الْعَلِيمُ
أَمِينٌ أَمِينٌ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

فَدَعَتْهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ
ان اوثقه الى سارية
حتى تصبحوا فتنظروا
اليه - (الحديث)

(صحیح البخاری ج ۱ - ص ۱۶۱)
امرہ بالصبر علی
اعیاء الرسالة و مشقة
تبلیغ ما امر بتبلیغہ ثم
سلاہ بان لا یخاف من
احد فانه محفوظ بعین
العناية من الله فاستقر
العین للحفظ و جمعها
جمع قلة لانه محفوظ
من جهاته الست و من
ظاہره و باطنه -

(نیم الرياض ج ۲ - ص ۲۰۱)
عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
ان رسول الله ﷺ نام حتى
سمع له غطيط فقام فصلى و
لم يتوضأ فقال عكرمة بن كان
النبي ﷺ محفوظاً -
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۲۲)

نے مجھے اس پر قابو دیا اور میں نے
اس کو دبا دیا اور بے شک میں نے
ارادہ کیا کہ میں اس کو مسجد کے کسی
ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح کو
تم لوگ اسے دیکھو۔

اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت
کی تحکاوٹ اور تبلیغ کی تکالیف پر
صبر کا حکم دیا ہے۔ پھر اس پر آپ
کی تسلی و تشفی بھی فرمائی کہ آپ کسی سے
اس معاملہ میں خوف نہ کھائیں۔ کیونکہ
آپ محفوظ ہیں۔ اللہ کی حفاظت آپ
کے شامل حال ہے۔ عین حفاظت
کا استعارہ ہے۔ اور عین جمع کا صیغہ
اس لیے استعمال ہوا ہے۔ کہ آپ
چھ اطراف سے ظاہری اور باطنی
طور پر محفوظ کئے گئے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
سو جاتے حتیٰ کہ آپ کے سونے کی آواز
سنائی دیتی۔ پھر اٹھ کر نماز شروع کر دیتے۔
اور وضو نہ فرماتے۔ عکرمر کا بیان ہے کہ حضور
خدا کی طرف سے حفاظت کئے گئے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعِزِّمْ مَعَهُ وَكُلِّ تَسْلِيمٍ أَنْ
تُرْمَدَ وَتُخْلَقَ وَرَحْمَتِكَ وَبِحَبْرَتِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

سَبِّحْهُ
سُبْحَانَكَ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
وَالْحَمْدُ لَكَ
وَالْحَمْدُ لَكَ
وَالْحَمْدُ لَكَ

ہمارے سرور فیصلہ کرنے والے دُرد و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اشارہ الی قوله ،

"فَلَا وَرَبِّكَ لَا
يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكَمُوا لَكَ
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"

(سورة النساء ۶۵)

بفتح الكاف المشددة
الحاكم وهو القاضى قال
تعالى "فلا وربك لا
يؤمنون حتى يحكموك
فيما شجر بينهم اي يرضوا
بحكمك لهم وعليهم"

(سبل الهدى ج ۱ ص ۶۲۵)

اشارہ ہے اس قول کی طرف :

"پھر آپ کے رب کی قسم یہ بھی مومن
نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات
میں یہ آپ کو فیصلہ کرنے والے نہ مان لیں۔
پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس پر اپنے
دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ بلکہ
پورے طور پر تسلیم کر لیں۔"

المُحْكَمُ كَأَنَّ شِدْوَهُ كَفَتْهُ رَحْمَةُ
حاکم جسکو قاضی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی
ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام
جھگڑوں میں تجھ کو حکم تسلیم نہ کر لیں یعنی
تیرے حکم پر راضی نہ ہوں چاہے وہ فیصلہ ان
کے حق میں ہو یا ان کے برخلاف۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا سَوَّىٰ أَعْيُنَهُمْ وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُونَ
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا سَوَّىٰ أَعْيُنَهُمْ وَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُعْلَمُونَ

سَيِّدُكَ

ہمارے سردار حلال کرنے والے دُورِ سلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف،
”اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزوں
کو حلال بتاتے ہیں۔“
حلال کو جاری کرنے والے جس
کا شرعاً کھانا جائز ہو۔

حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا بیان
ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز
رضی اللہ عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اے لوگو
اللہ تمہارے نبی کے بعد کسی نبی کو نہیں
بھیجے گا۔ اور اس کتاب کے
بعد جو اُس نے تم پر اتاری ہے۔
کوئی کتاب نازل نہیں کرے
گا۔

اشارہ الی قولہ،
”وَ يَحِلُّ لَهُمْ
الطَّيِّبَاتُ“ (سورة الاعراف، ۱۵۷)
شارع الحلال وهو
ما اذن في تناوله شرعاً.
(سبل الہدی ج ۱ ص ۶۲۸)

عن عبید اللہ بن عمر
رضی اللہ عنہما ان عمر بن عبد العزیز
خطب فقال یا ایہا الناس
ان الله لم یبعث بعد نبیکم
نبیاً ولم یزل بعد هذا
الکتاب الذی انزلہ علیہ
کتاباً۔ (الحديث)
(سنن دارمی ج ۱ - ص ۱۱۵)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِین ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِكَ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُ مُصَلِّيًا وَسَلَامًا عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ الْأَخْيَارِ وَعَلَى آلِهِ وَأَسْبَابِهِ وَعَلَى مَنْ تَلَاهَا مِنْكُمْ
وَمَنْ تَلَاهَا مِنْكُمْ وَبِحَبْلِ عَمَلِكُمْ وَبِحَبْلِ عَمَلِكُمْ وَبِحَبْلِ عَمَلِكُمْ وَبِحَبْلِ عَمَلِكُمْ وَبِحَبْلِ عَمَلِكُمْ

مَحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار تعریف کیے گئے درود سلام بھیجے لایا آپ

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اور حضرت محمد ﷺ نے
رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے اور بھی
بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔“
”حضرت محمد ﷺ تمہارے
مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں
لیکن اللہ کے رسول ہیں۔“
”اور وہ اس سب پر ایمان لائے جو حضرت
محمد ﷺ پر نازل کیا گیا ہے۔ اور وہ ان
کے رکھے پاس سے امر واقعی ہے۔“
”حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول
ہیں اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں۔
وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہیں اور
آپس میں مہربان ہیں۔“

إشارة إلى قوله:
”وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
(ال عمران ۱۲۲)
”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ
مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ
رَسُولَ اللَّهِ“ (الاحزاب ۴۰)
”وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ
رَبِّهِمْ“ (سورة محمد ۱۲)
”مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى
الْكُفَّارِ رَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“
(سورة الفتح ۱۲۹)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَكْفُلْ لَنَا رَبَّنَا مَا خَلَقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِتَعْلَمَ الْاَلَمَانَ
 رَبَّنَا وَخَلَقْتَهُ لِيُحَدِّثَ لَكَ مَا خَلَقْتَ لَهُ وَمَا كُنْتَ تَعْلَمُ لَهُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ لَهُ

مَحْرَمَاتُ النَّبِيِّ ﷺ

ہمارے سرورِ سرخ چہرے والے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ سے

حضرت صفوان بن یعلیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ کہ میرے باجان یعلیٰ رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے درخواست کی کہ مجھے حضور اقدس ﷺ کو اس حالت میں دکھائیجئے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہو حضرت عمر نے کہا اچھا حضرت صفوان بن یعلیٰ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں۔ کہ اس حالت میں کہ حضور اقدس ﷺ (مقامِ حجرانہ میں اپنے چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ ﷺ آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے عمرہ کا احرام باندھا

عن صفوان بن یعلیٰ رضی اللہ عنہما ان یعلیٰ رضی اللہ عنہما قال لعمر رضی اللہ عنہما ارفنی النبی ﷺ حیث یوحی الیہ قال فیما النبی ﷺ بالجعرانۃ ومعہ نفرٌ من اصحابہ جاہ رجلٌ فقال یا رسول اللہ ﷺ کیف تری فی رحل احرم بعمرة وهو متضمخ بطیب فسکت النبی ﷺ ساعة فجاءہ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

الوحي فإشار عمر ﷺ
 الحيملى ﷺ
 فجاء يعلى ﷺ وعلی
 رسول الله ﷺ
 ثوب قد اظلم به
 فادخل رأسه فاذا
 رسول الله ﷺ
 محمر الوجه وهو يفظ
 ثم سري عنه فقال
 اين الذى سال
 عن العمرة فاتق
 برجل فقال اغسل
 الطيب الذى بك
 ثلث مرات وانزع
 عنك الجبة واصنع
 فى عمرتك كما تصنع
 فى حجك.

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۰۸)

عن ام سلمة ﷺ
 قالت كان رسول الله
 ﷺ اذا غضب احمر
 وجهه - (الوفاء لابن الجوزى ص ۲۶۸)

ہو حالانکہ وہ خوشبو سے تر ہو، تو حضور
 اقدس ﷺ نے تھوڑی دیر سکوت
 فرمایا۔ پھر آپ پر وحی نازل ہوئی تو
 حضرت عمر ﷺ نے حضرت یعلیٰ کی
 طرف اشارہ کیا تو یعلیٰ آئے تو اس
 وقت حضور اقدس ﷺ پر ایک
 کپڑا اتنا ہوا تھا۔ اس سے آپ پر
 سایہ کیا گیا تھا۔ تو یعلیٰ نے اس میں
 اپنا سر داخل کیا تو دیکھا کہ حضور اقدس
 ﷺ کا چہرہ مبارک سُرخ ہے۔
 اور آپ فرماتے رہے ہیں۔ پھر وہ حالت
 آپ سے زائل ہو گئی تو آپ نے
 فرمایا عمرہ کی بابت سوال کرنے والا شخص
 کہاں ہے؟ پس وہ شخص لایا گیا۔ آپ
 نے فرمایا خوشبو کو تین بار دھو ڈال اور
 اس جیبہ کو اتار دے جو تُو نے پہن رکھا
 ہے۔ پھر عمرہ میں بھی ویسے ہی (اعمال)
 کر جیسے توحج میں کرتا ہے۔

حضرت ام سلمہ ﷺ سے روایت
 ہے کہ حضور اقدس ﷺ جب
 غصہ کی حالت میں ہوتے تو آپ کا
 چہرہ مبارک سُرخ ہو جاتا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَنِّبْنَا شَرَّ النَّاسِ وَالشَّرَّ مِنَ النَّاسِ وَعِزِّمْ بَعْدَهُ عَلَى تَعْلَمُ أَنَّ
وَعِدَّ وَخَلَقْتَ وَجِي نَسْلِكَ وَنَبْتَغِيكَ وَمِنَّا وَكَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ آمِينَ

سَبِّحْهُ صَبِيحَةَ الْبُكْرِ

ہمارے سردار سراہے گئے درودِ سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
نے فرمایا:
پھر آپ تعریف کئے گئے ہو گئے
اپنے رب کی طرف لوٹنے والے فرشتوں
کا ان پر روناسی ہے۔ اور وہ تعریف
کئے گئے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے صہیون سے ایک
تعریف والا تاج نکالا ہے۔ اور اس
تاج کو شمال کے طور پر بیان کیا کہ
اس سے مراد ریاست اور امامت
ہے۔ اور محمود سے مراد حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

قال حسان

ابن ثابت رضی اللہ عنہ :
" فاصبح محمودا الى الله رجعا
يبكيه حق المرسلات وحيد"
(ديوان حسان ص ۵۶ طبع ص ۵۶)

ان الله سبحانه
اظهر من صهيون اكيلا
محموداً وضرب الاكيل
مثلا للرياسة والامامة
ومحمود هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
(مدایة الحيارى لابن القيم ص ۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَقْرَبِهِ سَدِّدْ كُلَّ مَرْغَبٍ وَأَكْرِمْ
 وَهَيِّئْ لِحُجَّتِكَ رُحْنًا مَسْكُونًا وَمَا دَعَاكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الْغِيَا لَوْلَا الْاِكْرَامُ لَمْ يَكُنْ وَكَرَّمَ الْاَكْرَامُ

محمود الصفا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار اوصاف حمیدہ والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اور آپ ﷺ کے صفات حمیدہ کے حامل ہیں۔ جتنی زیادہ آپ کی تعریف کی جائے آپ اس کے بالکل مستحق ہیں۔

محمد ﷺ سے مفعول کے وزن پر اس ہستی کو کہا جاتا ہے جس میں نیک خصلتیں اتنی زیادہ ہوں کہ اس کی مکرر تعریفیں کی جائیں۔ تعریفوں کے بعد تعریفیں۔ اور ان کو علم کے ذریعہ پہچانا جاتا ہے۔ خیر کی خصلتیں علم کی تمام قسمیں اور معارف اخلاق اور اوصاف اور افعال جن پر حمد کا تکرار ہو وہی اس کا مستحق ہے۔

هو المستحق لان
 يحمد لكثرة خصاله
 الحميدة -

(سبل الہدی ج ۱ ص ۶۱۸)
 فحمد مفعول من الحمد
 وهو الكثير الخصال التي
 حمد عليها حمداً متكرراً
 حمداً بعد حمد وهذا انما
 يعرف بعد العلم بخصال الخير
 وانواع العلوم والمعارف
 والاخلاق والاصناف
 والافعال التي يستحق تكرار الحمد
 عليها - (جلاء الاضہام ص ۱۲۳)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ الرَّحِيمُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَصْرِهِمْ بِمَدِينَةِ طَبْرُكٍ
وَبَعْدُ وَخَلِّقْ وَجْهِي لِقَابِكَ وَتَشْرِيحِي لِمَعْنَى كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مَحْمُودٌ مَقَامًا

سَيِّدِكَ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ

ہمارے سردار صفات حمیدہ مقام والے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”امید ہے آپ کا رب آپ کو
مقام محمود میں جگہ دے گا۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر مبعوث فرمائے۔ کا معنی یہ ہے۔ حضرت محمد ﷺ کو ان کے رب کی طرف سے ایک ایسا مقام ملا ہے۔ نہ تو کوئی نبی مرسل اور نہ ہی کوئی مقرب فرشتہ اس کو پاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عزت مخلوق پر ظاہر فرمائے گا۔ اور آپ کو اولین اور آخرین پھیلے گا۔

إشارة الى قوله
”عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ
مَقَامًا مَّحْمُودًا“

(بنی اسرائیل ۷۹)
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
فی قوله تعالیٰ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ
رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا قَالَ
ان لمحمد ﷺ من ربه
مقامًا لا يقومه نبی مرسل
ولا ملك مقرب یبین
الله عز وجل للخلائق
فضله علی جمیع الاولین
والآخرین۔
(الوفاء لابن الجوزی ج ۲ - ص ۸۲۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَصَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ
 وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْحَمْدُ

ہمارے سر اور رخ سے دُور لے جانے والے دُور و سلا بھیجے اللہ آپ کے

من حاد عن الشيء
 اذا عدل عنه وسمي
 بذلك لانه حاد عن
 الباطل و اتبع الحق
 او من احاد لانه عدل
 بامته الى جادة الطريق
 المستقيم و سلك سبيل
 الدين القويم.

(سبل الہدی ج ۱ - ص ۶۲۹)

عن ابن عباس رضي الله عنهما
 مرفوعا سمى في القرآن محمدا
 و في الانجيل احمد و
 في التوراة اعيد لاني اعيد امتي
 عز النار. (سبل الہدی ج ۱ ص ۵۲۲)

المجید یا تو حاد مجید باب ضرب لیضرب
 سے ہے کسی کا کسی چیز سے علیحدہ ہو
 جانا اور یہ اسم مبارک حضور اقدس
 ﷺ کا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ
 آپ نے باطل سے کنارہ کشی کی اور حق کے
 پیرو کار ہو گئے۔ یہ لفظ احادیث مجید باب
 افعال سے ہے۔ کیونکہ آپ نے اپنی امت
 کو سیدھے راستے پر ڈال دیا ہے۔ اور انکو
 مضبوط دین کے راستے پر چلا یا ہے۔
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول
 روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا
 میرا نام قرآن میں محمد اور انجیل میں احمد ہے
 اور توراہ میں اعيد ہے۔ اور یہ میرا نام اس لیے رکھا
 گیا کہ میں اپنی امت کو دوزخ سے نکالتا ہوں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين يا رب العالمين ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِكَ الْآيَاتِ اللَّهُ
الَّذِي صَلَّوْا عَلَيْهِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ لَا يَلْبَسُونَ
وَمِنْ خَلْقِكَ وَمِنْ نَسَبِكَ وَمِنْ دِينِكَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِكَ الْآيَاتِ اللَّهُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ لِحَالِطِ

ہمارے سردار کھل مل کر رہنے والے دُرُودِ سَلَامِ بِحَسْبِ الْآيَاتِ

عن انس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخَالُطُنَا حَتَّى يَقُولَ لَأَخِي صَفِيرًا أَوْ أَبَا عَمِيرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ قَالَ وَكَيْعٌ بَعْنِي طَيْرًا كَانَ يَلْعَبُ بِهِ -
(سنن ابن ماجه - ص ۲۶۳)

عن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مِنْ رَأَى بَدِيهَةً هَابَةً وَمِنْ خَالِطِهِ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ يَقُولُ نَاعَتَهُ لَمْ أَرِ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
(جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۰۵)

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ ہماریساتھ کھل مل جاتے حتیٰ کہ آپ میرے چھوٹے بھائی کو فرماتے اے عمیر کے باپ تیری بیبل کیا کرتی ہے۔ وکیع بَعْنِی طَیْرًا کَانَ یَلْعَبُ بِهِ فرماتے ہیں۔
نغیر ایک پرندے کا نام ہے جس کے ساتھ انس کا بھائی کھیلا کرتا تھا حضرت علی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص حضور اقدس ﷺ کو اچانک دیکھتا وہ خوفزدہ ہو جاتا۔ اور جو اچھی طرح پہچان کر آپ سے کھل مل جاتا وہ آپ سے محبت کرتا۔ آپ کا مدح یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد دیکھا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْأُمَّةَ إِلَّا اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَخَلْفَتِهِ بِمَدُونِ مَنْ مَلَكَ
وَمَنْ مَلَكَتْ رِجْلَيْهِ مِنْ عِبَادِكَ وَبَشَرِيَّتِكَ وَمَنْ دَاخَلَكَ اسْتَشْفَى اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَمَّا الْبَشَرُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ لِحُبِّهِ

ہمارے سردار رجوع کرنے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قولہ:

فَالْمُكْرِمُونَ
وَالْحَادُّونَ فَلَهُ أَسْلَمُوا
وَكَثِيرٍ الْمُحْبِبِينَ ۝

(سورة الحج ۲۳)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”سو تمہارا معبود حقیقی ایک ہی
اللہ ہے تو تم ہمہ تن اسی کے ہو کر رہو
یعنی موحد خالص رہو اور اے حضرت
محمد ﷺ آپ ایسے احکام الہیہ
کے سامنے گردن جھکا دینے والوں
کو جنت کی خوشخبری سنا دیجئے“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اے
پروردگار بنا دے مجھے ایسا کہ ہر جاؤں
میں صرف تیری ہی شکر گزاری کرنے
والا تیرا بہت ذکر کرنے والا صرف
تجھ ہی سے بہت ڈرنے والا صرف

عن ابن عباس
رضی اللہ عنہما کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم یدعو رب
اجعلنی شاکراً
لك ذکراً لك
رہا با لك مطواعاً
اليك محبباً لك

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

اواها مني بارب
تقبل دعوتي
واغسل حوبتي
واجب دعوتي
وشئت حجتى
واهد قلبى
وسدد لسانى
وسخيمة قلبى

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۲۴)

عن مجاهد رضي الله عنه في قوله
(وبشر المحبتين) قال المظنين -
فتح القدير ج ۲ ص ۲۲۹

عن عمرو بن اوس
رضي الله عنه قال المحبتون
في الاية الذين لا يظلمون
الناس واذا ظلموا
لم ينتصروا -

(فتح القدير ج ۲ ص ۲۲۹)

تیری ہی بہت اطاعت کرنے والا
صرف تیرے ہی آگے جھکنے والا صرف
تیرے ہی سامنے گریہ زاری کرنے
والا تیری ہی طرف رجوع کرنے والا
اے میرے پروردگار قبول فرما میری
دُعا کو اور دھو دیکھے میرے گناہ
کو اور سُن لیجئے میری پکار کو۔ اور قائم
کر دیکھے میری حجت کو اور ہدایت
دیجئے میرے دل کو اور راستی پر
رکھتے میری زبان کو اور کھینچ کر باہر
نکال دیجئے میرے دل کی کدورت کو۔

حضرت مجاہد رضي الله عنه سے
روایت ہے کہ محبتیں کا معنی
اطمینان رکھنے والے ہیں۔

حضرت عمرو بن اوس رضي الله عنه
سے روایت ہے کہ اس آیت
میں محبتیں سے مراد وہ لوگ ہیں
جو نہ تو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور
اگر ان پر ظلم ہو تو وہ اس کا بدلہ
نہیں لیتے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصِحْبِهِ وَخَيْرَتِهِ مَدُونِي تَلَامِيكَ
 وَمَدُونِيكَ وَمَنْ فِيكَ وَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ وَتَحْتَهُ

سَيِّدِكَ الْخَيْرِ

ہمارے سردار خیرینے والے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
 ”پھر تخت (شاہی) پر قائم ہوا وہ
 بڑا مہربان ہے۔ سو اس کی شان کسی
 جاننے والے سے پوچھنی چاہئے۔“
 قاضی بکر بن علاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
 ہیں۔ اس آیت میں جس کو سوال
 کرنے کا حکم ہوا ہے۔ وہ حضور اقدس
ﷺ کے علاوہ ہے۔ جن کو سوال
 کیا گیا ہے۔ وہ خیر نبی ﷺ ہیں۔
 کیونکہ آپ مذکورہ حقیقت سے
 واقف ہیں۔ آپ کے سوا اس کو
 دوسرا نہیں جانتا پس اس میں دلیل
 ہے۔ کہ آپ کا اسم گرامی خیر درست
 ہے۔

إشارة إلى قوله،
 ”ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
 الرَّحْمَنُ فَسَأَلَ بِهِ خَيْرًا“
 (سورة الفرقان ۵۹)
 قال القاضی بکر
 ابن العلاء رحمۃ اللہ علیہ المامور
 بالسؤال غیر النبی ﷺ
 المسؤل الخیر هو النبی
ﷺ (الشفاء للقاضی عیاض ج ۱ ص ۱۵۲)
 لانه العالم بحقیقۃ
 ما ذکر دون عنیه
 ففیہ دلیل علی تسمیۃ
 خیرًا۔
 (نسیم الریاض ج ۱ ص ۱۵۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَقْرَبِهِ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَدًا
وَعَدَدَ خَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَمَدَادِ قَلَمِكَ وَسُورَةِ الْقُرْآنِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْمُتَعَلِّمُ وَالْمُتَعَلِّمُ

سَيِّدِكَ مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْعِبَادِ

ہمارے سردار غائب کی خبر دینے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قوله :

” وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ

بِضَنِينٍ ۝ (سورة التکویر - ۱۳)

” عَلِمُوا الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ

عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ الْإِمْنِ أَنْ يُفْضَى

مِنْ رَسُولٍ ۝ (سورة جن ۲۶، ۲۷)

” وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ

عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ

يُنَجِّبُنِي مِنْ رَسُولِهِ مَنْ

يَشَاءُ ۝ (سورة آل عمران ۱۷۹)

عن عمر رضي الله عنه

يقول تمام فينا

النبي صلوات الله عليه وسلم مقاماً

فاخبرنا عن بدء الخلق

اشارہ ہے اس قول کی طرف :

” اور وہ غیب پر پخیل نہیں

ہیں۔“

”وہ غائب جاننے والا ہے۔

اپنے غیب کی باتوں پر کسی کو قاف

نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسول کو“

”اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ

تہیں غیب پر مطلع کر دے مگر اپنے

رسولوں میں سے جسے چاہے چن

لیتا ہے۔“

امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق

رضي الله عنه سے روایت ہے انہوں

نے فرمایا کہ ایک دن حضور اقدس

صلوات الله عليه وسلم ہم میں کھڑے ہوئے پھر ہمیں

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

حتى دخل اهل
الجنة منازلهم
واهل النار منازلهم
حفظ ذلك من
حفظه ونسيه من
نسيه.

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۵۲)

عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال قال

رسول الله ﷺ

انا في الليلة رجب

تبارك وتعالى في

احسن صورة قال احسبه

قال في المنام فقال

يا محمد (ﷺ) هل تدرى

فيم يختص الملاء

الاعلى قال قلت

لا قال فوضع

يده بين كتفي

حتى وجدت بردها

بين ثديي او قال

في نحرى فعلمت

ابتدأت پیدائش کے حالات بتائے
یہاں تک کہ آپ نے اس وقت
تک کے حالات بیان کر دیئے کہ
اہل جنت اپنے مقامات میں اور
اہل دوزخ اپنے مقامات میں چلے
گئے۔ اس حدیث کو یاد رکھا جس نے
یاد رکھا اور بھول گیا جو بھول گیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما

سے روایت ہے کہ حضور اقدس

ﷺ نے فرمایا آج رات میرا پروردگار

میرے پاس بہترین صورت میں آیا۔

راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ

نے فرمایا سوتے وقت خواب میں آیا

اس نے آکر فرمایا اے محمد ﷺ

جانتے ہو ملاء الاعلى ر مقرب

بارگاہ فرشتے) اس وقت کس بات

میں جھگڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں

نہیں جانتا۔ یہ سنکر میرے رب نے

اپنا ہاتھ میرے مونڈھوں کے درمیان

رکھ دیا۔ حتیٰ کہ میں نے اس کی ٹھنڈک

اپنے دونوں پستانوں کے درمیان

محسوس کی یا فرمایا اپنے سینہ میں پانی۔

ما في السموات وما
 في الارض قال
 يا محمد (ﷺ) هل تدري
 فيم يختصم الملاء
 الاعلى قلت نعم - (الحديث)
 (جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۵۵)
 عن انس (رضي الله عنه)
 قال قال رسول الله
 ﷺ هذا مصرع فلان
 غداً ووضع يده على
 الارض وهذا مصرع فلان
 غداً ووضع يده على
 الارض وهذا مصرع فلان
 غداً ووضع يده على الارض
 فقال والذي نفسي
 بيده ماجاوز احد منهم
 عن موضع يد رسول الله
 ﷺ فامر بهم رسول الله
 ﷺ فاحذوا بارجلهم
 فضجوا فالتقوا في قليب بدر
 (سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۵۵)
 عن ابن عباس

اور آسمانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور
 زمینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ وہ سب
 مجھے معلوم ہو گیا۔ پروردگار نے فرمایا
 اے محمد (ﷺ) اب تم جانتے ہو
 کہ ملاء الاعلیٰ کس بارے میں
 جھگڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں۔
 حضرت انس (رضي الله عنه) سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس (ﷺ)
 نے فرمایا یہ فلاں (کافر) کے گرنے
 کی جگہ ہے کل کے روز اور وہاں
 اپنا ہاتھ رکھا یہ فلاں کے گرنے کی
 جگہ ہے کل کے روز اور وہاں اپنا
 ہاتھ رکھا یہ فلاں کے گرنے کی جگہ
 ہے کل کے روز اور وہاں اپنا
 دست مبارک رکھا۔ حضرت انس
 (رضي الله عنه) نے قسم کھا کر کہا پھر کسی کو
 ان میں سے آپ نے جہاں ہاتھ رکھ
 کر بتایا تھا۔ فرق نہیں ہوا۔ پھر آپ
 نے حکم کیا ان کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹ
 گئے۔ اور بدر کے اندر ہی کنوئیں میں
 ڈال دیے گئے۔

حضرت ابن عباس (رضي الله عنه)

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ حَدَّثَنِي
 ام الفضل رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 قَالَتْ مَرَدْتُ بِالنَّبِيِّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّكَ
 حَامِلٌ بِسَلَامٍ فَاِذَا
 وُلِدَتْ فَاتِّبِنِي بِهِ
 قَالَتْ فَلَمَّا وُلِدَتْ
 اتَّيْتُ بِهِ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاذِنَ فِي
 اِذْنِهِ الْيَمْنَى وَاَقَامَ
 فِي اُذُنِهِ الْيَسْرَى
 وَالبَّاهُ مِنْ رِيقِهِ
 وَسَمَاهُ عَبْدُ اللهِ وَقَالَ
 اِذْهَبِي بِابِي الْخَلْفَاءِ
 فَاخْبِرْتِ الْعَبَّاسَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 وَكَانَ رَجُلًا لَبَّاسًا
 فَلَبَسَ ثِيَابَهُ ثُمَّ
 اتَى الْحَبَشَةَ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَصُرَ
 بِهِ قَامَ فَقَبِلَ بَيْنَ
 عَيْنَيْهِ قَالَ قُلْتُ
 يَا رَسُولَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت
 ام فضل رَضِيَ اللهُ عَنْهَا نے حدیث بیان
 کی کہ میں حضور اقدس ﷺ کے
 پاس سے گزری تو آپ نے فرمایا تو
 حاملہ ہے تیرے پیٹ میں لڑکا ہے۔
 جب وہ پیدا ہوا تو اُسے میرے پاس
 لانا۔ حضرت ام فضل رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فرماتی
 ہیں۔ جب لڑکا پیدا ہوا تو میں اسے
 لے کر حضور اقدس ﷺ کی خدمت
 اقدس میں حاضر ہوئی تو آپ نے
 اس کے داہنے کان میں اذان اور
 بائیں کان میں تکبیر کہی۔ اور اپنا لعاب
 مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور اس
 کا نام عبد اللہ رکھا۔ اور فرمایا لے جا
 خلفا کے باپ کو۔ تو میں نے حضرت
 عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے آپ کا ارشاد
 بیان کیا۔ وہ نفیس لباس پہنا کرتے
 تھے۔ اپنا لباس پہن کر حضور اقدس
 ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر
 ہوئے۔ پس آپ اسے دیکھ کر کھٹے
 ہو گئے۔ حضرت عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ

ما شيء اخبرتنى
به ام الفضل
قال هو ما اخبرتك
هذا ابو الخلفاء حتى
يكون منهم السفلح
حتى يكون منهم
المهدى حتى يكون
منهم من يصلى
بعيسى بن مريم
عليهما السلام -

(دلائل النبوة ج ۳ - ص ۲۰۱)

عن ابى ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
قال لقد تركنا رسول الله
ﷺ وما يتقلب فى السماء
طائر الا ذكرنا منه علما -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۱۶۲)

عن ابى ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لقد تركنا محمد ﷺ
وما يحمرك طائر جناحيه
فى السماء الا اذكرنا منه
علما -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۱۵۲)

يا۔ حضرت عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے
عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میری
بیوی ام فضل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے آپ کی
طرف سے ایسا کہا ہے۔ آپ نے
فرمایا بات وہی ہے جو اُس نے
کہی یہ (عبداللہ) خلیفوں کا باپ ہو
گا۔ یہاں تک کہ ان میں سے سفلح
ہوگا۔ یہاں تک کہ ان میں سے مہدی
ہوگا۔ حتیٰ کہ ان میں سے وہ بھی ہوگا
جو حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کو نماز
پڑھائے گا۔

حضرت ابو ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت
ہے کہ انہوں نے کہا۔ کہ حضور اقدس
ﷺ نے ہمیں اس حال میں چھوڑا
کہ آسمان پر جو پرندہ اُڑتا ہے اس
کا علم ہمیں بیان کر دیا۔

حضرت ابو ذر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت
ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے ہمیں
اس حال میں چھوڑا کہ ہوا میں کوئی پرندہ
پر مارنے والا نہیں جس کا علم آپ نے
ہم سے ذکر نہ فرمایا ہو۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآخِصِّهِمْ وَعِزِّزْهُمْ بِمَدَدِ كُلِّ مَلَكٍ مَلَكًا
 وَبِعَدِّ خَلْقِكَ رَوْحًا لِيُحْيِيَكَ وَيُعَاقِبَ لَكَ وَيُعَاقِبَ لَكَ أَسْتَعِزُّ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَسْتَوِيءُ بِاللَّهِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ لِمَنْتَ رَبُّنَا

ہمارے سردار پسند فرمائے گئے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ سے

اسم مفعول من
 الاختيار وهو الاصطفاء
 لان خيار من خياره -

(نیم الریاض ج ۲ ص ۳۰۵)
 عن كعب بن علقمة في السطر
 الاول محمد (ﷺ) رسول
 عبدی المختار لافظ ولا غليظ
 ولا صحاب في الاسواق
 ولا يجزى بالسيئة
 السيئة ولكن يعفو و
 يغفر مولده بمكة و هجرته
 بطيبة و ملكه بالشام -
 (الحديث)

(سنن الدارمی ج ۵ ص ۵)

یہ الاختیار (پسندیدہ) سے اسم
 مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے
 پسند فرمایا گیا۔ کیونکہ آپ تمام پسند کئے
 گیوں سے پسند فرمائے گئے ہیں۔

حضرت کعب بن علقمة سے روایت ہے
 کہ پہلی کتابوں میں سطر اول میں لکھا ہوا
 تھا۔ حضرت محمد ﷺ رسول ہیں
 میرے پسندیدہ بندے نہ زبان کے سخت نہ دل کے
 نہ بازاروں میں اونچی آواز نکالنے والے
 اور نہ بدی کا بدلہ بدی سے دیں گے۔
 لیکن معاف اور بخش دیں گے۔ آپ
 کی پیشکش مکہ میں۔ آپ کی جائے ہجرت
 مدینہ منورہ اور آپ کی بادشاہی شام
 میں ہوگی۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِكَ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ طَلْحَةَ بْنِ مُسَلَّمَ وَأَنَّ
رَبَّهُ وَخَلْقَكَ وَجَبَّ لَطْفِكَ وَنِعْمَتِكَ وَمَعَادَكَ يَا اللَّهُ يَا إِلَهَ الْأَكْمَلِ يَا قُدُّوسَ الْأَسْمَاءِ يَا مُبِينِ الْأَلْسَانِ

سَيِّدِكَ الْخَصِصِ

ہمارے سردار خاص الخاص درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف ،
”ذرا بھی پسند نہیں کرتے کافر لوگ (خواہ)
اُن اہل کتاب میں سے (ہوں) اور (خواہ) مشرکین
میں سے اس امر کو کہ آپ کو کسی طرح کی بہتری
رہی (نصیب ہو) آپ کے پروردگار کی طرف سے
حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت (و عنایت) کے
سامجھ جسکو منظور ہوتا ہے مخصوص فرمالتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم کرنے والے ہیں۔“
یہ الاختصاص سے اسم مفعول کا صغیر
ہے جس کا معنی ہے کسی چیز کو اپنے لیے مخصوص
کرنا جسکو اشارہ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ اسم گرامی
حضور اقدس ﷺ کا اس لیے رکھا گیا کیونکہ
آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص
فرمایا اور اپنی مخلوق میں سے آپ کو پسند فرمایا۔

اشارہ إلى قوله ،
”مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا
مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا
الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ
مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝“
(سورة البقرة ۱۰۵)
اسم مفعول من
الاختصاص بالشئ وهو
الايثار به وسمی بذلك
لان الله تعالى اختصه
لنفسه واستأثر به على
خلقه - (سبل الهدى ج ۱ - ص ۶۲۹)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرَكَ لِقَوْمٍ لَاهُونَ لَأَلْفُ مِائَةٍ مِنْكُمْ يَرْجُوهَا وَهُمْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا وَاللَّهُ يَكْفُرُ عَنْ قَوْمٍ عَصَابٍ

مَحْضٌ بِالنَّفْسِ

ہمارے سرورِ قرآنِ کریم کیلئے مخصوص کئے گئے دو دوسلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”آپ فرمائیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ
میں ہے جس کو چاہتا ہے دے دیتا
ہے۔ اور اللہ کثرتش والا جاننے والا
ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کی
یہ خاص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے
فضل والا ہے۔“

”اور میری طرف یہ قرآن وحی
کیا گیا ہے۔ تاکہ میں تمہیں اور جس
کو یہ قرآن پہنچے ڈراؤں۔“

إشارة إلى قوله
”قُلْ إِنْ الْفَضْلُ
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ“
(سورة العنكبوت ۶۱، ۶۲)

”وَ أَوْحَىٰ إِلَىٰ
هَذَا الْقُرْآنِ لِأَنَّكُمْ
بِهِ وَمَنْ أْبْلَغَ“
(سورة الانعام ۱۹)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجَزْتَ بِمَدَدِ كُلِّ مَلَكٍ لَكَ
قُدْرَةٌ وَكَلِمَتِكَ وَجُودٌ فَتَعَزَّيْتُكَ وَمَدَدُ كَلِمَاتِكَ اسْتَقْرَأْتُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُكَ

نَبِيَّكَ الْمَحْبُوبِ لَا تَقْطَعُ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجَزْتَ بِمَدَدِ كُلِّ مَلَكٍ لَكَ قُدْرَةٌ وَكَلِمَتِكَ وَجُودٌ فَتَعَزَّيْتُكَ وَمَدَدُ كَلِمَاتِكَ اسْتَقْرَأْتُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُكَ

ہمارے سرسار نہ ختم ہونے والے معجزوں کی کتاب مخصوص کئے گئے دو دوسلا بھیجے اللہ اپنے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کے
صاف صاف احکام پڑھ پڑھ کر
سُناتے ہیں۔“
الای آیت کی جمع ہے۔ اس
سے مراد علامت ہے جس کو معجزہ
کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید اس میں
شامل ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ آپ
کے معجزات نہ ختم ہونے والے ہیں۔
بلکہ وہ تو قیامت تک باقی رہیں گے
اور بالکل تروتازہ ہیں۔ کبھی پرانے
نہ ہوں گے۔ ان معجزات میں قرآن
ایک معجزہ ہے۔ جو تا ابد باقی ہے گا۔
بخلاف دوسرے پیغمبروں کے معجزوں

إشارة إلى قوله :
”رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ
آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ“
(سورة الطلاق ۱۱)
الای جمع آية وهي
العلامة والمراد بها المعجزة
لأن منها القرآن والمعنى ان
آياته لا تبدي ولا تنقطع بل هي
باقية الى يوم القيمة تتجدد
ولا تضحل لأن منها القرآن
وهو باق الى آخر الدهر
بخلاف معجزات سائر
الانبياء عليهم السلام فانها
انقضت بانقراضهم

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین یا رب العالمین ط

(سبل الہدی ج ۱ ص ۶۲۹)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما
قال قال النبی ﷺ
ما من الانبیاء الا اعطى
ما مثله امن علیہ البشر
وانما کان الذی
اوتیت وحیا او حاء اللہ
الی فار جوان اکون اکثرهم
تابعاً یوم القیمۃ -

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۴۳۲)

وفی هذا الحدیث فضیلة
عظیمة للقران المجید
علی کل معجزۃ اعطیہا نبی
من الانبیاء وعلی کل
کتاب انزلہ -

(فضائل القرآن لابن کثیر ص ۵)

بان کتابة معجز ومحفوظ
من التبدیل والتحریف علی
ممر الدهور -

(الخصائص الکبریٰ ج ۲ ص ۱۸۵)

کے جوان کے بعد ختم ہو گئے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا اگلے پیغمبروں کو
اس قدر ہی معجزے عطا ہوئے جس
قدر ان پر لوگ ایمان لائے۔ اور
مجھے قرآن کریم معجزہ کے طور پر دیا
گیا۔ مجھے امید ہے کہ قیامت کے
دن میں سب سے زیادہ اُمت
والا ہوں گا۔

اس حدیث میں قرآن کریم کی
بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ یہ
ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی نبی کو
نہیں ملا۔ اور ختمی کتابیں نازل ہوئیں۔
ان سب پر قرآن مجید کی فضیلت ہے۔

آپ کی کتاب (قرآن مجید)
خود معجزہ ہے۔ جو تبدیلی و تحریف
سے قیامت تک محفوظ ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَعَنْ يَمِينِهِ يُدْرِكُ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَعَنْ يَمِينِهِ يُدْرِكُ الْيَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ

سَمَاءُ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ ﷺ

ہمارے سردار سہانی پسند درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان "اپنی نماز کو نہ اونچی پڑھو اور نہ ہی خفیہ طور سے ادا کرو" میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ آپ پر اس وقت اتری جب آپ مکہ مکرمہ میں پوشیدہ زندگی بسر کر رہے تھے جب آپ اپنے صحابہ کو جماعت کرتے تو قرآن بلند آواز سے پڑھتے۔ تو جب اسکو مشرک لوگ سنتے تو قرآن کو اور نازل کرنے والے اور حسن نازل ہوا سب کے برا بھلا کہتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ آپ نماز میں قرآن اونچا پڑھیں جسکو مشرک سنا کر برا بھلا کہیں اور نہ ہی اتنا پست آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز صحابہ کرام تک نہ پہنچے۔ آپ درمیانی آواز سے پڑھا کریں

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما فی قوله تعالیٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَخْتَفِي بِمَكَّةَ كَانَ إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَذَا سَمِعَ الْمُشْرِكُونَ سَبُّوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بِهِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَنْبِيَّهِ ﷺ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ إِذَا بَقَرَاءَتِكَ فَيَسْمَعُ الْمُشْرِكُونَ فَيَسُبُّوا الْقُرْآنَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا عَزَّ أَصْحَابُكَ فَلَا تَسْمَعُهُمْ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (صحیح البخاری ج ۲ ص ۲۸۶)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتُمْ بِمَدُونِكُمْ كُلِّ مَسْجِدٍ لَكَ
وَمَدِينَةٍ لَكَ وَمِنْ لَدُنْكَ وَمِنَ عِلْمِكَ وَمِنَ عِلْمِ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ لَمْ يَكُنْ لَهَا كَلِمَةً وَوَلَدَتْهَا لَمْ يَلِدْ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِلْحَسَنِ

ہمارے سردار انگوٹھی پہناتے گئے درودِ سلام بھیجیے اللہ آپ سے

المختتم باب تفضل سے اسم مفعول کا صیغہ ہے جب کوئی انگوٹھی بنوائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی پہنی اور اس کے نگینہ کو مستحیل کی طرف رکھا۔ اور اس پر "محمد رسول اللہ" کھدا ہوا تھا۔ پھر اور آدمیوں نے بھی ایسی انگوٹھیاں پہننی شروع کر دیں۔ جب آپ نے ان کو پہنے دیکھا تو اس کو پھینک دیا اور فرمایا کہ اس کو کبھی نہ پہنوں گا۔ اور پھر ایک چاندی کی انگوٹھی پہنی تو اور آدمیوں نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں

اسم مفعول من تختم اذا اتخذ خاتماً۔ (سبل الہدی ج ۱ ص ۲۹) عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فیہ ممایلی باطن کفہ و نقش فیہ محمد رسول اللہ فاتخذ الناس مثله فلما راہم قد اتخذ و ہارمی بہ و قال لا البسہ ابدأ ثم اتخذ خاتماً من فضة فاتخذ الناس

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِین ط

خواتيم الفضة قال
ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
فلبس الخاتم بعد النبي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابوبكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
ثم عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثم
عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حتى وقع
من عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الفضة
في بئر اريس -

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۸۷۲)

عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أخذ خاتماً من فضة
فكان يخبو به ولا يلبسه -
(شمائل الترمذی ص ۷)

عن انس بن
مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال كان
نقش خاتم النبي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ محمد سطر
و رسول سطر
و الله سطر -

(شمائل الترمذی ص ۷)

پہننی شروع کر دیں۔ حضرت ابن
عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نے کہا کہ آپ کی انگوٹھی
کو آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے پہنا اور ان کے بعد
حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے
ان کے بعد حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے
پہنا لیکن ان سے اریس
کے کنویں میں گر پڑی۔

حضرت ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی
تھی۔ اس سے خطوط وغیرہ پر مہر
کرتے تھے پہنتے نہیں تھے۔

حضرت انس بن مالک
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے۔
آپ نے فرمایا کہ حضور اقدس
ﷺ کی انگوٹھی کا نقش محمد رسول اللہ
تھا۔ اس طرح پر کہ محمد ایک سطر
میں تھا۔ رسول دوسری سطر میں
اور اللہ تیسری سطر میں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ
الَّذِي لَا يَلِدُ وَلَا يُولَدُ وَلَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ لَوْلَا رَحْمَتُكَ يَا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ

سَيِّدُكَ مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَحْمُودُ بِالْبَيْتِ

ہمارے سردار ختم نبوت کی مہر والے درود و سلام بھیجے اللہ پر

اِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ

”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ
مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن
رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا“ (سورة الاحزاب ۴۰)

عن انس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اتخذ خاتما من فضة
ونقش عليه ”محمد رسول
الله“ وقال اني اتخذت
خاتما من فضة ونقشت
فيه محمد رسول الله فلا
تنقشوا عليه (الرفا للامام ابن جوزي ص ۵۸۵)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”حضرت محمد ﷺ ہمارے
مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں
ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ اور
سب نبیوں کے ختم پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ
ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔“

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی۔
اور اس میں محمد رسول اللہ کے الفاظ
کنندہ کرائے اور فرمایا میں نے چاندی
کی انگوٹھی بنوائی ہے۔ اور اس میں
محمد رسول اللہ کنندہ کرایا ہے تم ایسے
الفاظ کنندہ نہ کرانا۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْآدَمَ إِلَّا بِاللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعَزِّزْ مَقْدُونَهُ عَلَى سَائِرِ الْمَلِكِ
 وَمَمْدُوحِيكَ وَمَنْ تَشَاءُ وَمَا تَشَاءُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ لِحَبِيبِنَا

ہمارے سردار پیدائشی خلتنے کے ہوئے درود سلام بھیجیے اللہ آپ سے

حضرت عباس بن عبدالمطلب
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ
 حضور اقدس ﷺ خلتنے کے ہوئے
 اور زانف کے ہوئے پیدا ہوئے یہ بات
 آپ کے دادا سردار عبدالمطلب کو بڑی
 پسند آئی۔ اور وہ بہت خوش ہوئے اور
 انہوں نے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان
 ہوگی پھر واقعی آپ کی بڑی شان ہوئی۔
 حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
 نے فرمایا یہ میری بزرگی ہے کہ میں
 خلتنے کیا ہوا پیدا ہوا۔ اور میری شرمگاہ
 کسی نے نہیں دیکھی۔

عن العباس بن
 عبدالمطلب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَلَدَ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَخْتُونًا مَسْرُورًا
 قَالَ فَاجْعَبْ جَدُّهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 وَحِطَىٰ عِنْدَهُ وَقَالَ لِيَكُونَ
 لِابْنِي هَذَا شَانُ فَكَانَ
 لَهُ شَانٌ -

(رواه البيهقي - تاريخ ابن كثير ج ۲ ص ۲۶۵)

عن انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 مَنْ كَرَامَتِي أَنِي وَلِدْتُ
 مَخْتُونًا وَلَمْ يَر أَحَدٌ سِوَانِي -

(دلائل النبوة ص ۲۶ - الوفا لابن الجوزي ج ۱ ص ۹۴)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا سَاءَ الَّذِيْنَ كَانُوا يَكْفُرُونَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَوَعِّزْ بِمَدُونِهِمْ كُلِّ مَسْلُومٍ وَأَنَّ
رَحْمَةً وَعِلْمًا وَوَجْهًا مُبَارَكًا وَوَعْدًا قَدِيمًا اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الرَّحِيمَ كَمَا لَا يَكْفُرُ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَسْأَلُكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سردار محمد دو دو سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن سعد مولى
ابى بكر رضي الله عنه وكان
يخدم النبى صل الله عليه وسلم
و كان النبى صل الله عليه وسلم
يعجبه خدمته فقال
يا ابا بكر رضي الله عنه اعترف
سعدا فقال يا رسول الله
صل الله عليه وسلم مالنا ما هن
غيره قال فقال
رسول الله صل الله عليه وسلم اعترف
سعدا اتك الرجال
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۹۹)

حضرت سعد رضي الله عنه جو ابو بکر صدیق
رضي الله عنه کے آزاد کردہ غلام ہیں سے
روایت ہے۔ اور وہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا اور
آپ کو اس کی خدمت اچھی لگتی
تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر سعد کو
آزاد کر دو۔ حضرت ابو بکر رضي الله عنه
نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور کوئی جائد نہیں ہے۔ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو آزاد کر دو۔
تمہارے پاس اور (خدمت گا)
آدمی آجائیں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعِزَّتِهِ مَعْدُ عَلَىٰ كُلِّ مَلَكٍ أُنْزِلَ بِهِ الْوَحْيُ وَخَلْقِكَ وَجِزْئِكَ وَتَعْرِيفِكَ وَمِنَاءِ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ وَأَسْأَلُكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاتِهِ

ہمارے سردار خاص الخاص درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

آپ حضرت اقدس ﷺ کی ازواج مطہرات دُنیا میں امت پر حرام ہیں۔ اور وہ قطعی حنبی ہیں۔ اور آپ تمام لوگوں کی طرف مبعوث کئے گئے۔ اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور آپ کی شریعت ہمیشہ قائم رہے گی۔ جو کبھی منسوخ نہ ہو گی۔ اور آپ کے معجزے صاف قیامت تک واضح رہیں گے اور اس کا چیلنج بھی کیا گیا ہے۔

فقدیم ازواجہ علی غیرہ فی الدنیا وجعل ازواجہ فی الجنۃ وبعث الی الخلق کافۃ ولانبی بعدہ وخلدت شریعتہ فلو تنسخ وجعل معجزہ باقیہ یتصفح الی یوم القیامۃ ویتحدی بہ۔

(الوفاء، للامام ابن جوزی ص ۳۴۳)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْأُمَّةَ إِلَّا لِقَاءَ اللَّهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ كُلِّ مُسْلِمٍ إِنَّ
 رَحْمَةً وَعِلْمًا تَرِيحُ لِحَبْلِكَ وَمَعَادًا كَمَا أَنَّكَ اسْتَعْفَا لِقَاءَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

المصطفى ﷺ

سَيِّدِكَ يَا مُحَمَّدُ
 أَنْتَ الْمُرْسَلُ
 الْوَالِدُ الْأَوَّلُ
 الْوَالِدُ الْأَخِيرُ
 الْوَالِدُ الْأَبَدِيُّ

ہمارے سردار مخصوص دہرے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ پر

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہ دی گئی تھیں۔ (۱) مجھے ایک مہینے کی راہ سے رعب کے ذریعہ مدد دی گئی۔ (۲) اور زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ پس میری امت میں سے جس شخص پر نماز کا وقت آجائے اسے چاہیے کہ زمین پر نماز پڑھے (۳) اور میرے لیے غنیمت کے مال حلال کر دیے گئے ہیں اور مجھ سے پہلے کسی نبی

عن جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی ﷺ قال اعطيت خمساً لم يعطهن احدٌ قبلى نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراً فايما رجل من امتى ادركته الصلوة فليصل واحلت لى المعانم ولم تحل لاحد قبلى و اعطيت

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

الشفاعة و كانت
النبي ﷺ يبعث
الى قومه خاصة
و بعثت الى الناس
عامّة -

(صحيح البخارى ج ۱ - ص ۲۸)

عن عبادة بن
الصامت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ فَقَالَ اِنْ
جَبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَانِي
فَبَشِّرْنِي اِنَّ اللَّهَ
اَمَدَنِي بِالْمَلَائِكَةِ وَ اَتَانِي
النَّصْرَ وَ جَعَلَ بَيْنَ
يَدَيَّ الرَّعْبَ وَ اَتَانِي
السُّلْطَانَ وَ الْمَلِكَ وَ طَيِّبَ
لِي وَ لَامَتِي الْفَنَائِمَ
و لَمْ تَكُنْ لِحَدِّ
قَبْلَنَا -

(الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۱۹۴)

کے لیے حلال نہ کئے گئے تھے۔
(۴) اور مجھے شفاعت کی اجازت
دی گئی۔ (۵) اور ہر نبی خاص اپنی
قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا۔ اور
میں تمام آدمیوں کی طرف بھیجا گیا
ہوں۔

حضرت عباده بن صامت
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ
جناب رسول اللہ ﷺ
ہماری طرف تشریف لائے پھر فرمایا
جبرائیل عَلَيْهِ السَّلَامُ میرے پاس آئے
اور مجھے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ
نے ملائکہ کے ذریعہ میری مدد فرمائی
اور مجھے نصرت عطا کی اور مجھے
رمخالف پر رعب والا بنایا۔
اور مجھے غلبہ اور حکومت بخشی اور
میرے لیے اور میری اُمت کے
لیے مالِ غنیمت کو حلال فرمایا۔
جبکہ ہم سے پہلے کسی رُمت
کے لیے حلال نہیں تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا تَأْتِيهِمْ لَاحِقَةٌ إِلَّا تَأْتِيهِمْ كَاسٌ مَسْكُورَةٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَلَائِكَةِ الْمَلَأْتِ
وَمِنْ مَلَائِكَةِ رَحْمَتِكَ وَمِنْ مَلَائِكَةِ الْمَلَأْتِ لَوْلَا إِسْتِغْرَافُهُ لَمُنَّ الْأَرْضُ بِالْإِسْخَارِ وَالْمَلَأْتِ بِالْإِسْخَارِ

مَلْجَأُ فِتْنَتِكَ بِأَسْمَائِكَ مَخْصُوعٌ بِكَ

ہمارے سردار مخصوص شرف والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قولہ :

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ
لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ
تَسْأَلُونَ ۝

(سورة الزخرف - ۲۴)

عن انس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قال قال رسول الله ﷺ
انا اول من يقرع
باب الجنة فيقول الخازن
من انت؟ فاقول انا محمد
ﷺ فيقول اقوم
فافتح لك فلم افتح لاحد
قبلك ولا اقوم لاحد
بعدك - (الوفال امام ابن جوزي ص ۸۲)

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”اور قرآن آپ کے لیے اور
آپ کی قوم کے لیے بیشک بڑے
شرف کی چیز ہے۔ اور عنقریب تم
سب پوچھے جاؤ گے۔“

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے۔ کہ فرمایا حضور اقدس
ﷺ نے سب سے پہلے جو جنت کا
دروازہ کھٹکھٹائے گا وہ میں ہوں جنت
کا دربان عرض کریگا۔ آپ کون ہیں۔ میں
کہوں گا محمد ﷺ وہ عرض کریگا
میں ابھی دروازہ کھولتا ہوں میں آپ سے
پہلے کسی کیلئے نہ کھڑا ہوا ہوں اور نہ
ہی آپ کے بعد کسی کیلئے کھڑا ہوں گا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَنْتِهِمْ بِمَدُونِ مَلَكُوتِكَ
وَبَعْدِ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَمَنَادِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُفْلُ الْمَقْتَدِرُ وَالْمُؤْتَمِرُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمَحْضُوعِ

ہمارے سردار مخصوص عزت والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ اِلی قولہ :
”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
لَا يَعْلَمُونَ“ (سورة المنافقون ۸)
و محمد ﷺ هو المحمود
الذي تحمده الخلائق وانما يرتب
هذا الاسم بعد وجوده وظهوره
فانه حينئذ حمده اهل السماء و
الارض ويوم القيمة يحمده اهل المو
قن فلما ظهر الى الوجود وترتب على
ظهوره من الخيرات ما ترتب فحمده
حينئذ الخلائق حمداً مكرراً
فتاخرت تسميته بمحمد (ﷺ)
(جلد الافهام لابن القيم الجوزية ص ۱۳۶)

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”اور اللہ ہی کی ہے عزت اور
اُس کے رسول کی اور مسلمانوں کی
اور لیکن منافقین جانتے نہیں“
اور حضرت محمد ﷺ ایسی صفات
حمیدہ کے مالک ہیں جن پر کل مخلوق آپ
کی تعریف کریگی۔ اور یہ اسم مبارک آپ
کے وجود اور آپ کے ظہور کے بعد مرتب
ہوتا ہے۔ پھر اس وقت آسمان اور زمین
و اے سب آپ کی تعریف کریں اور محشر
کے میدان میں سب آپ کی مدح سرائی کریں گے۔
پھر جب آپ دنیا میں موجود ہوئے۔ اور آپ کے ظہور
کے بعد تمام بھلائیوں کا ظہور ہو گیا۔ اس وقت مخلوق نے
مکرر کر کے تعریف کی تو آخر میں آپ کا اسم گرامی محمد ﷺ

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآخِرَتِهِ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَلَدَّ
 قَوْمَهُ وَمَلَأْتَ رَوْحَهُمْ بِرُوحِكَ وَمَلَأْتَ كَلِمَاتِكَ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لَمْ يَلِدْ لَمْ يَكُنْ لَكَ الْوَالِدُ لَمْ يَلِدْ لَمْ يَكُنْ لَكَ الْوَالِدُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ

ہمارے سردار مخصوص بزرگی والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات پیدا کی
 ان سب میں اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز
 ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
 اور میں نے اللہ سے نہیں سنا کہ اُس
 نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی
 کے سوا کسی کی قسم کھائی ہو۔ وہ فرماتا
 ہے کہ اے میرے حبیب تیری حیاتی
 کی قسم وہ (لوطی) اپنی مستی میں حیران
 پھرتے تھے۔

عن ابن عباس
رضی اللہ عنہما قال ما خلق
 الله عز وجل وما
 ذراً نفساً اكرم
 عليه من محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وما سمعت
 الله عز وجل اقم بحياة
 احد الا بحياة فقال
 لعمر ك انهم لفي
 سكرتهم يعمهون
 (دلائل النبوة لابی نعیم الاصفهانی
 ج ۱- ص ۱۲)

احد احب الی من
رسول الله ﷺ
ولا اجل فی عینی
منه وما کنت اطیق
ان املأ عینی
منه اجلالا له ولو
شئت ان اصفه
ما اطقت لانی ل
اکن املأ عینی منه۔

(نسیم الریاض ج ۳ - ص ۳۹۱)

عن داؤد بن الحصین
رضی اللہ عنہ قال قالوا مشب
رسول الله ﷺ افضل
قومه مروءة واحسنهم خلقا
واکرمهم مخالطة
واحسنهم جوارا واعظمهم
حلما وامانة وصدقهم
حدیثا وابدعهم من الفحش
والاذی ماروی ماریا
ولا ملاحیا احدا حتی سماه
قومه امین۔

(اخرجہ ابن سعد وابن عساکر الخصاصط الکبری ج ۱ ص ۹۱)

سے پیارا میرے نزدیک کوئی نہ
تھا۔ اور میری آنکھوں میں محبوب
حضور اقدس ﷺ کی ذات سے
اور کوئی نہ تھا۔ اور آپ کے رعب و
جلال کی وجہ سے میں نے آنکھ بھر کر
حضور اقدس ﷺ کو کبھی نہیں
دیکھا۔ اگر میں چاہوں کہ آپ کا
حلیہ مبارک بیان کروں تو یہ مجھ سے
نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ میں نے آپ کو
کبھی آنکھ بھر کر نہ دیکھا تھا۔

حضرت داؤد بن حصین رضی اللہ عنہ
سے مروی ہے کہ (قرش) نے کہا کہ
حضور اقدس ﷺ جوانی میں اپنی
قوم کیساتھ مروت کرنے میں سب سے
افضل تھے۔ اور اخلاق میں سب سے اچھے
اور گھل مل کر رہنے والوں میں سب سے زیادہ
بزرگ ترین۔ اور سب سے اچھے پڑوسی۔ اور
سب سے زیادہ بڑبار اور امانت دار۔ اور سب سے
زیادہ سچے اور فحش اور اینداز سانی سے بعید۔
کبھی آپ کو جھگڑتے نہیں دیکھا گیا اور
نہ ہی کھیلتے دیکھا گیا۔ حتیٰ کہ آپ کی قوم
نے آپ کا نام امین رکھ دیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولِيْ عَقْلٍ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ مَا خَصَّكَ بِهِ وَعَزَمْتَ بِهِ وَكُلِّ سَلَامٍ أَلَيْكَ
 وَبِعَدَّةِ خَلْقِكَ وَبِحُجَّتِكَ وَبِشَرِّكَ وَمَعَادِ كَلِمَاتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

سَبَّحَ سَبَّحَ

ہمارے سردار، ہلکی پھلکی نماز پڑھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس ﷺ صبح کی دو سنتیں اتنی ہلکی پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ میں کہتی کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس ﷺ صبح کی سنتیں اتنی ہلکی پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ میں کہتی کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا نہیں۔

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله ﷺ يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى اني لا قول قرأ بام القرآن. (صحيح البخاري ج ۱ ص ۱۵۶)

عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي ﷺ يخفف الركعتين حتى اقول قرأ بفاتحة الكتاب ام لا. (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۶ ص ۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْأُمَّةَ إِلَّا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَلَمَّحَ مِنْكَ
 رَمِدٌ مِنْ عَيْنِكَ وَرَوْحٌ مِنْ رُوحِكَ وَرَمَادٌ مِنْ رَمَادِكَ اسْتَوْجِبْ اللَّهُ لَكَ الْإِكْرَامَ وَالْإِظْهَارَ وَالْمَوَدَّةَ

سَبِّحْ مُحَمَّدًا سَبِّحْ مُحَمَّدًا سَبِّحْ مُحَمَّدًا

ہمارے سردار نماز میں تخفیف کرنے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

عن انس بن مالك
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا صَلَّيْتُ
 وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخْفَ
 صَلَوةً وَلَا أتمَّ مِنَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ كَانَ
 لِيَسْمَعَ بَكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ
 مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَنَ أُمَّهُ -

(صحيح البخاري ج ۱ - ص ۹۸)

عن انس بن مالك
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوجِزُ الصَّلَوةَ
 وَيُكْمِلُهَا - (صحيح البخاري ج ۱ ص ۹۸)

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے کہ میں کسی امام
 کے پیچھے حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے
 زیادہ ہلکی اور کامل نماز نہیں پڑھی۔
 اور بیشک آپ بچہ کا گریہ سن کر
 نماز میں تخفیف کر دیتے تھے اس
 خوف سے کہ اس کی ماں پریشان
 ہو جائے گی۔

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 کہتے ہیں کہ حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مختصر نماز پڑھتے اور اس کو کامل
 (ادا) کرتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَأَمَّا بَعْدُ
فَعَلَيْكُمْ مِنَ الْخَشْيَةِ إِنَّكُمْ لَعُنَائِي وَإِنِّي أَنذَرُكُمْ النَّارَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ الْمُخْلِصِ

ہمارے سردار اللہ کی خاص عبادت کرنیوالے دُرد و سلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”ہم نے ٹھیک طور پر اس کتاب
کو آپ کی طرف نازل کیا ہے۔ سو
آپ قرآن کی تعلیم کے مطابق خاص
اعتقاد کر کے اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔“
”آپ فرمادیجئے کہ مجھ کو (منجانب اللہ)
حکم ہوا ہے۔ کہ میں اللہ کی اس طرح
عبادت کروں کہ عبادت کو اسی
کے لیے خالص رکھوں۔“
”آپ فرمادیجئے کہ میں تو اللہ ہی
کی عبادت اس طرح کرتا ہوں۔ کہ
اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص
رکھتا ہوں۔“

إشارة إلى قوله:
” إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ
مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ۗ ”

(سورة الزمر ۲)

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ
أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا
لَهُ الدِّينَ ۗ

(سورة الزمر ۱۱)

قُلِ اللَّهُ أَعْبُدُ
مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ۗ

(سورة الزمر ۱۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا أَقْبَلَ اللَّهُ لِقَاءَ الْإِنْسَانِ إِلَّا وَهُوَ مُسْتَعِينٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَحَسْبُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَلِكُ الْعَالَمِينَ

ہمارے سردار خوش مذاق درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

عن أنس بن مالك
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ لَهُ يَا ذَا الْأَذْنِينَ
قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ ابْوَأَسَامَةَ أَمَا
يَعْنِي بِهِ أَنَّهُ يَمَارِحُهُ إِلَى -
(جامع الترمذی ج ۲ ص ۲۰)

عن ابی ہریرۃ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَنَّهُ قَالَ أَنِي لَا
أَقُولُ إِلَّا حَقًّا قَالَ بَعْضُ
أَصْحَابِهِ فَإِنَّكَ تَدَاعِبُنَا
يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
أَنِي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا -
(مسند امام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۳۰)

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے اُسے مذاقا فرمایا۔ اے
دوکانوں والے محمود راوی نے کہا
کہ ابوسامہ نے کہا کہ اس کا معنی
یہ ہے کہ آپ اس سے مذاق فرماتے تھے
حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
روایت ہے۔ وہ حضور اقدس
ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ
نے فرمایا کہ میں سوائے سچی بات کوئی گفتگو
نہیں کرتا۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ آپ
کبھی کبھی ہم سے مذاق فرماتے ہیں۔ تو
اس پر آپ نے فرمایا میں سوائے سچی
بات کے کچھ مذاقا بھی نہیں کہتا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ
الْمَوْصِلِ وَسَلَوَةً عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
رَبًّا وَخَلَقَكَ مِنْ نَفْسِهِ وَنَسَخَ مِنْهَا مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ لَدُنْهُ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ

سَيِّدِنَا مَلِكِ أَوْامِرِ

ہمارے سرکارِ دہم العمل درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ کسی مہینہ میں شعبان سے زیادہ روزے نہ رکھتے تھے اور آپ شعبان میں (تقریباً) پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے اے لوگو! اسی قدر عبادتیں اپنے ذمہ لو۔ جن کو تم برداشت کر سکو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ (ثواب دینے سے) نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم عبادت کرنے سے تھک جاؤ اور عمدہ نماز حضور اقدس ﷺ کے نزدیک وہ بھی جس پر مداومت کی جائے۔ اگرچہ وہ قلیل ہو اور جب آپ کوئی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس پر ہمیشگی کرتے تھے۔

عن عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَهْرًا أَكْثَرَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ وَكَانَ يَقُولُ خَذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ حَتَّى تَمْلُوا وَاحِبِ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا دِيمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّتْ وَكَانَ إِذَا صَلَّاهُ صَلَاةَ دَوَامٍ عَلَيْهَا.

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۶۲)

رَبَّنَا نَقْتَلْ مِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَخَلِّصْنَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَخَلِّصْنَا مِنَ الْيَأْسِ وَالْخَوْفِ وَالْحَزَنِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مَدْعَاةُ الْكَلْبِ

سَيِّدِكَ يَا مُحَمَّدُ

ہمارے سردار دعا کو ذخیرہ رکھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ سے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا ہر ایک نبی کو دعا عطار کی گئی جو انہوں نے (دنیا) میں ہی دعا کر لی۔ اور میرا ارادہ ہے کہ میں اپنی دعا کو ذخیرہ کر لوں جو انشاء اللہ میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے کروں گا۔ ابن جعفر کا بیان ہے کہ وہ آپ اپنی امت کے بارے میں فرمائیں گے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر فرماتے تھے میں امید کرتا ہوں کہ تمام پتھروں اور ریت کے ذروں کے برابر امت کی سفارش کروں گا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
 عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 قال ان لكل نبی دعوة دعا بها وانى ارید ان ادخر دعوتی ان شاء الله شفاعة لامتی يوم القيامة قال ابن جعفر فی امتہ
 (مسند امام احمد بن حنبل ج ۴ ص ۴۳)
 عن ابی بريدہ رضی اللہ عنہ
 قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول انى لأرجوان اشفع فى عدد كل حجر ومدار لامتی۔ (النهاية البدلية ج ۲ ص ۱۸۳)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا أَقْبَلَ اللَّهُ لِقَاءَ الْإِنْسَانِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَصْرَتِهِمْ وَمَنْ تَلَمَّذَهُمْ
وَمَنْ تَلَمَّذَتْهُمْ وَبِحَبْلِ عِمَامَتِكَ وَبِمَا كَلَّمَكَ اللَّهُ الْغَيْبُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

سَيِّدِكَ مَلِكُ شَرِّهِ

ہمارے سردار کپڑوں میں پٹنے والے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اے کپڑے میں پٹنے والے“
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ میں کوہِ اہلسنہ کے معکف ہوا۔
جب میں نے عکاف پورا کر لیا تو وہاں
سے آگیا اور مجھے ندا ہوئی میں نے دائیں
بائیں آگے پیچھے سب طرف دیکھا۔ لیکن
کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں نے آسمان
کی طرف نظر اٹھائی تو مجھے کچھ نظر آیا۔ اسی
وقت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے
پاس آیا اور کہہ مجھے کسی کپڑے سے
ڈھک دو اور اوپر سے ٹھنڈا پانی ڈالو۔
انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر سورہ مدثر نازل ہوئی۔

إشارة إلى قوله
”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ“ (سورة المدثر ۱)
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه
ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال جاور
بحراء فلما قضيت جوري هبطت
فنوديت فنظرت عن يميني فلم
ارشيئا ونظرت عن شمالي فلم ارشيئا
ونظرت امامي فلما ارشيئا ونظرت
خلفي فلم ارشيئا فرفعت رأسي فرأيت
شيئا فأتيت خديجة فقلت ثروني
وصبوا على ماء باردا قال فثروني
وصبوا على ماء باردا قال فنزلت
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبِّكَ
فَكْبَرُ - (صحيح البخاري ج ۲ ص ۴۳۲)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ وَعَلَىٰ آلِي وَعَلَىٰ مَنْ آمَنَ بِمَنْدُوبِي وَمَنْ مَنَّهُمْ لَكَ
وَمَنْ مَنَّهُمْ لَكَ وَمَنْ مَنَّهُمْ لَكَ وَمَنْ مَنَّهُمْ لَكَ وَمَنْ مَنَّهُمْ لَكَ وَمَنْ مَنَّهُمْ لَكَ

سُنِّيكَ مَذْمُومِ الْعَلَمِ

ہمارے سردار عمل پر مداومت کرنیوالے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سوج ڈھلنے کے قریب
چار رکعت نوافل پر ہمیشگی کیا کرتے تھے
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ رکعتیں کیا ہیں جسے میں آپ کو ہمیشہ
پڑھتے دیکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا زوال
کے وقت آسمانوں کے دروازے کھلتے
ہیں۔ وہ ظہر کی نماز تک بند نہیں ہوتے۔
میں چاہتا ہوں کہ اس دوران میری
کوئی نیکی آسمان کی طرف جائے میں نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں کچھ پڑھتے
بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا
انکے درمیان سلام بھی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔

عن ابی ایوب الانصاری
رضی اللہ عنہ قال ادمن رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم اربع رکعت عند زوال
الشمس قال قلت یا رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الركعات التي
اراک قد ادمنتها قال
ان ابواب السماء تفتح عند
زوال الشمس فلا ترجح حتى
یصلی الظهر فاحب ان یصعد لی
فیها خیر قال قلت یا رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم تقرأ فیہن کلھن قال
قال نعم قال قلت فیہا سلام
فاصل قال لا

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۱۶۷)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امين امين امين يا ربي يا ربي يا ربي ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا تُفِرُّ الْآبَاءُ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَيْهِمْ بِمَدْرَسَةِ كُلِّ مُتَلِمٍ أَنْ
رَبِّهِمْ وَخَلْقِهِمْ وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ وَرَبِّهِمْ وَمَا ذَكَرَكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْغَنِيُّ وَأَمَّا الْيَوْمَ

سَيِّدِنَا مَلِكِنِي

ہمارے سردار مدینہ کے والی دو دو سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کے گھر سے مصلحت کے ساتھ آپ کو روانہ کیا۔“

مفسرین نے فرمایا ہے کہ گھر سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ کیونکہ وہ آپ کی ہجرت گاہ تھا اور اس میں آپ کا گھر تھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا میرے پاس ایک جانور (براق) لایا گیا۔ جو گدھا سے بڑا اور چتر سے چھوٹا تھا۔ ایسی حدیث ہے۔ اس میں یہ بھی آیا ہے کہ میرے

اشارہ الی قوله :
”كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ“
(سورة الانفال ۵)

قال المفسرون ای من المدينة لانها مهاجرة ومسكنه۔
(وفاء الوفاء للسهمودي ج ۱ ص ۱۱۱)

عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ أتيت بدابة فوفت الحمار والبعل (الحدیث) و فیر فرکت

رَبَّنَا نَقْبَلْ مِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِینَ ط

و معی جبریل
 ﷺ فسرت فتال
 انزل فصل ففعلت
 فقال اتدری
 این صلیت صلیت
 بطیبة و الیها
 المهاجرة یعنی
 بفتح الجیم۔

رفع الباری شرح صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۹۹

عن عبد الله بن مسعود
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ
 يُولَدُ إِلَّا وَفِي سَرْتِهِ
 مِنْ تَرَبْتِهِ الَّتِي وُلِدَ مِنْهَا
 فَذَا رَدَّ إِلَى أَرْضِ الْعَمْرِ رَدَّ
 إِلَى تَرَبْتِهِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا
 حَتَّى يَدْفَنَ فِيهَا وَ
 أَنَا وَابْنُ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خُلِقْنَا
 مِنْ تَرَبْتِهِ وَاحِدَةً
 وَ فِيهَا نَدْفَنُ۔

تاریخ بغداد للخطیب ج ۱ ص ۴۱

ساتھ حضرت جبریل ﷺ تھے۔
 اس پر سوار ہو کر میں روانہ ہوا۔ تو
 راستے میں حضرت جبریل ﷺ
 نے فرمایا کہ اس جگہ اتر کر نماز پڑھیں۔
 میں نے نماز پڑھی۔ تو حضرت جبریل
 ﷺ بولے آپ جانتے ہیں
 کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ
 نے طیبہ (مدینہ) میں نماز پڑھی ہے۔
 اور آپ اس جگہ ہجرت فرما کر آئیں
 گے۔ المهاجرة جیم کی فتح کیسا تھ۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس
 ﷺ نے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا
 ہے تو اس کی ناف اس مٹی سے بنائی
 جاتی ہے جس خاک سے وہ پیدا ہوا۔
 پھر جب انسان اپنے بڑھاپے میں پہنچ
 جاتا ہے۔ تو وہ اسی جگہ لوٹا یا جاتا ہے
 جس جگہ سے اس کی مٹی لی گئی تھی۔
 حتیٰ کہ پھر وہ اسی خاک میں دفن ہوتا ہے
 میں اور حضرت ابوبکر صدیق رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 ایک ہی خاک سے پیدا ہوئے ہیں۔
 اور اسی میں دفن ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا ہے۔ جو تمام بستیوں پر غالب آجائے گی۔ لوگ اس بستی کو شرب کہتے ہیں۔ اور وہ مدینہ منورہ ہے۔ جو بڑے لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گا جیسے لوہار کی بھٹی میل صاف کر دیتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ منورہ کی طرف اس طرح سکوڑ کر آجائے گا جیسے سانپ پھر پھر کر اپنی بل کی طرف لوٹ آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں دس سال اقامت فرمائی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایمان کے فرشتے نے کہا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں گا۔ تو اس پر جیسا کہ فرشتہ بولا اور میں بھی تمہارے ہی ساتھ رہوں گا۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقریۃ تاكل القرى یقولون یشرب وہی المدینۃ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید۔

(الصیحح المسلم ج ۱ - ص ۲۳۳)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیأرز الی المدینۃ کما تآرز الحیۃ الی حجرھا۔ (صحیح البخاری ج ۱ - ص ۲۵۲)

عن انس رضی اللہ عنہ قال اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ عشر سنین۔

(الطبقات الکبری لابن سعد ج ۳ ص ۲۱۱)

عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان ازمک الایمان قال انا اسکن المدینۃ فقال ملائک الحیاء وانا معک۔ (رفاء الوفاء للسموئی ج ۱ - ص ۱۰۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ عَلَى صَلَواتِكَ
 وَمَدَدِ مَلَائِكَتِكَ وَمَدَدِ رُسُلِكَ وَمَدَدِ كَلِمَاتِكَ اسْتَنْصِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

مَدِينَةُ الْعِلْمِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے شہر علم کے شہر درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

عن ابن عباس رضي الله عنه قال
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا
 مدينة العلم وعلي بابها.
(رواه الطبراني/مجمع الزوائد ج ۱ ص ۱۱)
 والصواب الحديث حسن
 كما قال الحافظان العلائي
 وابن حجر - (سبل الهدى ص ۱۲)
 عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه يقول سمعت
 رسول الله صلى الله عليه وسلم
 يقول انا مدينة العلم
 وعلي بابها فمن اراد العلم
 فليأت الباب -
(المستدرک للحاکم ج ۲ ص ۱۲۴)

حضرت ابن عباس رضي الله عنه سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم
 نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور حضرت
 علی رضي الله عنه اس کے دروازے ہیں۔
 اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث
 حسن ہے جیسا کہ علامہ العلائی اور
 شیخ الاسلام ابن حجر رضي الله عنه نے فرمایا ہے
 حضرت جابر بن عبد الله رضي الله عنه
 سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں
 نے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم سے سنا ہے
 تھے۔ میں علم کا شہر ہوں اور حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ اس کے دروازے
 ہیں۔ جو علم کا ارادہ کرے وہ اس
 دروازے سے آئے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْهُمْ وَعِزِّمْ بِسُلْطَانِكَ
وَرَبِّهِمْ وَتَحْلُتْ بِوَجْهِ نَبِيِّكَ وَرَضَائِكَ وَمَا دَعَاكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَمَّا بَعْدُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ مَلَائِكَةُ الْمَلَائِكَةِ

ہمارے سردار آسویہانی والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے زید اور جعفر اور عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر لوگوں کو سنائی حالانکہ ابھی تک ان کی شہادت کی خبر وہاں آئی نہ تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے علم اٹھایا اس کو شہادت نصیب ہوئی پھر اس علم کو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اٹھایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کو حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا وہ بھی شہادت پا گئے۔ اور یہ خبر دے رہے تھے۔ اور آپ کی دونوں آنکھیں آنسو

عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی ﷺ نے زیداً وجعفرًا و ابن رواحة رضی اللہ عنہم للناس قبل ان یاتہم خبرہم فقال اخذ الراية زید فاصیب ثم اخذها جعفر فاصیب ثم اخذ ابن رواحة فاصیب وعیناه تذرفان حتی اخذ سیف من سیوف اللہ حتی فتح اللہ علیہم۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

(صحیح البخاری ج ۱ - ص ۵۳۱)

عن انس بن مالك
 رَوَى اللَّهُ عَيْنًا قَالَ شَهِدْنَا بِنْتًا
 لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ
 قَالَ فَرَأَيْتَ عَيْنِيهِ
 تَدْمَعَانِ - (صحیح البخاری ج ۱ ص ۵۳۱)
 عن عبد الله بن مسعود
 رَوَى اللَّهُ عَيْنًا قَالَ قَرَأْتُ عَلَيْهِ
 سُورَةَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَتْ
 فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ
 كُلِّ أُمَّةٍ أَيْسْهُدٍ وَ
 جِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ
 شَهِيدًا قَالَ امْسِكْ
 فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ -

(صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۵۹)

بہار ہی تھیں۔ پھر فرمایا آخر میں علم کو
 اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار
 (حضرت خالد بن ولید رَضِيَ اللهُ عَنْهُ)
 نے اٹھایا۔ حتیٰ کہ وہ ان پر تھیاب ہوئے۔
 حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے۔ بیان کرتے ہیں
 کہ ہم حضور اقدس ﷺ کی صاحبزادی
 کے جنازے میں حاضر تھے اور آپ
 ﷺ قبر پر تشریف فرما تھے میں
 نے دیکھا کہ آپ ﷺ کی آنکھوں
 سے اشک جاری تھے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے۔ کہ میں نے
 آپ ﷺ کو سورہ نساء سنائی
 جب میں اس آیت پر پہنچا پھر وہ
 کیا وقت ہوگا۔ جب ہم ہر امت
 سے گواہ لائیں گے۔ اور ان صحابہ
 پر آپ کو گواہ لائیں گے۔ تو آپ
 نے فرمایا رک جا۔ پس آپ کی دونوں
 آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ أَيُّهَا الرَّبُّ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَنِّبْنَا سَهْلَ النَّارِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَعَنْتُمْ بِعَدُوِّكُمْ عَلَى مَقَلَمِ الْكَلِمِ
وَبَدِّدْ خَلْقَكَ وَجِزْ قَلْبَكَ وَتَشْرِيكَ رِيَاءَ عِبَادِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِكَ
مَلِكِكُمْ

ہمارے سردار نصیحت کرنے والے دُور و سلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
” آپ نصیحت کیجئے آپ تو بس
صرف نصیحت کرنے والے ہیں“
” تو آپ قرآن کے ساتھ اس
شخص کو نصیحت کریں جو میرے
عذاب سے ڈرتا ہے۔“
” اور آپ نصیحت کرتے رہیئے
کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع
دے گی۔“
” پس آپ نصیحت کرتے رہیئے۔
کیونکہ آپ اپنے رب کے انعام و کرم
سے نہ ہی تو کاہن ہیں اور نہ ہی
دیوانے۔“

اِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ :
” فَذَكَرْتَ إِيمَانًا تَ مَذْكُورًا“
(سورة الفاشية ۲۱)
” فَذَكَرَ بِالْقُرْآنِ
مَنْ يَخَافُ وَعَيْدًا“
(سورة ق ۲۵)
” وَذَكَرَ فَإِنَّ الذِّكْرَى
تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ“
(سورة الذاریات ۵۵)
” فَذَكَرْنَا مَا آتَتْ
بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ
وَلَا مَجْنُونٍ“
(سورة الطور ۲۹)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ اللَّهُ لِأُمَّةٍ إِلَّا بَلَّغْنَا رِسَالَتَهُ بَلْ لَئِن لَّمْ يَظْهَرْ عَلَيْكَ إِذْ يُرْسَلُ إِلَيْهِ فَذُكِّرْتُمْ وَلَئِن يَأْمُرْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَلْيَفْعَلْ وَلَا تَعْزِمُوا أَنَّكُم مِّنَ الْمُفْعَلِينَ

مَكْرَمَةُ النِّسَاءِ

ہمارے سردار عورتوں کو وعظ فرمانے والے دُور و مسلا بھیجے اللہ آپ کے

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ میں حضور اقدس ﷺ کے پاس عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے روز حاضر ہوا اپنے پہلے عید کی نماز پڑھائی پھر خطبہ ارشاد فرمایا پھر آپ عورتوں کے پاس تشریف لائے اُنکو وعظ ارشاد فرمایا اور ان کو نصیحتیں فرمائیں اور ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کیا کریں۔
حضرت ام سلمہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ رات کو جاگے اور لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کر رہے تھے فرمایا آج رات کتنے فتنے نازل ہوئے ہیں آج رات رحمت کے کتنے غزائے اترے ہیں۔ کوئی ان حجے و ایوں کو جگا دے کتنی دنیا میں لباس اڑھنے والیوں قیامت کے دن بالکل ننگی ہوگی۔

عن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال خرجت مع النبي ﷺ يوم فطر او اضحى فصل ثم خطب ثم اتى النساء فوعظهن وذكرهن وامرهن بالصدقة.

(صحیح البخاری ج ۱ - ص ۱۳۳)

عن ام سلمة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالت استيقظ النبي ﷺ من الليل وهو يقول لا اله الا الله ماذا انزل الليلة من الفتنه ماذا انزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيمة - (صحیح البخاری ج ۱ ص ۸۶۹)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَنْتِهِ بِمَدُونِكِ مَنْ لَمْ يَلَمْ
وَمَنْ لَمْ يَلَمْكَ وَجِي نَفْسِكَ وَمَنْ لَمْ يَلَمْكَ وَمَنْ لَمْ يَلَمْكَ وَمَنْ لَمْ يَلَمْكَ وَمَنْ لَمْ يَلَمْكَ وَمَنْ لَمْ يَلَمْكَ

سَيِّدِنَا الْمَلَكُوتُ

ہمارے سردار ذکر کئے گئے درود و سلام بھیجیے اللہ تعالیٰ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس توریث و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بُری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں۔ اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ اور انکی حمایت کرتے ہیں۔ اور انکی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کیساتھ بھیجا گیا ہے۔ ایسے لوگ پوری فلاح پائیں گے“

اشارہ الی قولہ :
”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ“
(سورة الاعراف ۱۵۷)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَخَلِّمْ لَهُمْ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ مَا تَشَاءُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ بِمَا نَسْتَعِينُكَ بِهِ وَأَسْأَلُكَ بِمَا نَسْتَعِينُكَ بِهِ

سَبِّحْ رَبَّكَ مُرَابَّطًا

صَلَّىٰ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار جہاد کی تیاری کرنیوالے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اشارہ الی قوله،

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اصْبِرُوا وَصَابِرُوا
وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ“

(سورة آل عمران ۲۰۰)

ای اقیمو فی

الثغور رابطين خيلكم
فيها كما يربطوها اعداءكم
وهذا قول جمهور المفسرين.

(فتح القدير ج ۱ - ص ۳۸۰)

عن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال رباط يوم في سبيل الله

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”اے ایمان والو! (تکالیف میں)
خود صبر کرو۔ اور مقابلہ میں صبر کرو۔
اور مقابلہ کے لیے مستعد رہو اور
اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے
کامیاب ہو۔“

یعنی اسلامی مملکت کی سرحدوں
پر گھوڑوں پر سوار ہو کر مورچوں میں
ڈٹے رہو جس طرح تمہارے دشمن
ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ تمام مفسرین
کا قول ہے۔

حضرت سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

سے روایت ہے کہ حضور اقدس

ﷺ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

خير من الدنيا وما عليها۔

(الحديث) (تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۴۴۴)

عن الرباض بن سارية

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ كُلُّ عَمَلٍ يَنْقَطِعُ

عَنْ صَاحِبِهِ إِذَا مَاتَ إِلَّا الْمُرَابِطَ

فِي سَبِيلِ اللهِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ عَمَلُهُ

وَيَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَى يَوْمِ

الْقِيَامَةِ۔ (رواه الطبرانی في الكبير)

(الترغيب والترهيب ج ۲ - ص ۲۲۳)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللهِ

ﷺ عَنْ أَجْرِ الْمُرَابِطِ

فَقَالَ مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً حَارِسًا

مِنْ وِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ كَانَ

لَهُ أَجْرٌ مِنْ خَلْفِهِ مِمَّنْ

صَامَ وَصَلَّى۔

(أخرجه الطبرانی في الأوسط بسندٍ

رفح القدير ج ۱ - ص ۳۸۱)

دن تیاری کرنا دُنیا اور جو کچھ اس

میں ہے سے بہتر ہے۔

حضرت عرباض بن ساریہ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ

حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جب

آدمی مرجاتا ہے۔ اس کا ہر عمل ختم

ہو جاتا ہے۔ مگر جو اللہ کے راستے میں

تیاری کرے اس کا عمل بڑھتا ہے۔

اور قیامت کے دن تک جاری

رہتا ہے۔

حضرت انس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت

ہے کہ حضور اقدس ﷺ سے

پوچھا گیا کہ سرحدوں کی حفاظت

کرنے والے کو کیا ثواب ہے۔ تو

آپ نے فرمایا جو شخص مسلمانوں

کے آگے ہو کر ایک رات مورچے

میں پہرہ دے اس کا ثواب تمام

غازیوں کی نماز و روزہ کے ثواب

کے برابر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَآمَنَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ
وَرَحْمَةً وَخَلْقَكَ رَوْحًا نَفِيسًا وَوَسْمَاءً طَيِّبَةً وَنَمَاءً طَيِّبًا لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَآمَنَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ

سَبِّحْ مَرْبُوعًا

ہمارے سردار درمیانہ قد درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن البراء بن عازب
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا -

(صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۰۲)

عن انس بن مالك
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَصِفُ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ
رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ -

(صحيح البخاري ج ۱ ص ۵۰۲)

حضرت براء بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ درمیانہ قد تھے۔

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ وہ حضور اقدس
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی صفت بیان کر رہے
تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ تو
لوگوں میں درمیانہ قد تھے۔



راحلتہ و ابوبکر رضی اللہ عنہما
 ردفہ و ملاً بنی النخار
 حولہ حتی القی
 بفناء ابی ایوب
رضی اللہ عنہما و کان یحب
 ان یصلی حیث
 ادرکتہ الصلوۃ و
 یصلی فی مرائب
 الغنم و انہ امر
 ببناء المسجد فارسل
 الی ملاً بنی النخار
 فقال یا بنی
 النخار تامنونی بجانبکم
 هذا قالوا لا والله
 لا نطلب ثمنہ الا
 الی الله عزوجل
 قال انس رضی اللہ عنہ
 فکان فیہ ما اقول
 لکم قبور المشرکین
 و فیہ حرب و فیہ
 نخل فامر النبی
صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین

بنی نخار کی جماعت آپ کے گرد
 ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے حضرت
 ابویوب رضی اللہ عنہما کے گھریں اپنا
 سامان (انارا اور آپ دوست
 رکھتے تھے کہ جس جگہ نماز کا وقت
 آجاتے وہیں نماز پڑھ لیں۔ اور
 آپ بکریوں کی رہنے کی جگہ میں
 بھی نماز پڑھ لیتے۔ اور آپ نے
 مسجد کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پھر
 بنی نخار کے لوگوں کو آپ نے
 بلوا بھیجا اور فرمایا اے بنی نخار
 اپنا یہ باغ تم میرے ہاتھ بیچ ڈالو
 انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کی قسم
 ہم اس کی قیمت نہ لیں گے مگر
 اللہ بزرگ و برتر سے حضرت انس
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ اس باغ میں
 وہ چیزیں تھیں جو میں نم سے کتا
 ہوں یعنی مشرکوں کی قبریں اور
 اس میں ویرانہ تھا اور اس میں
 چھوہارے کے درخت تھے۔ تو
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں
 کی قبروں کو حکم دیا تو وہ کھود ڈالی

فنبشت ثم بالخراب
فسويت و بالنخل فقطع
فصفوا النخل قبلة
المسجد وجعلوا عضادتيه
الحجارة و جعلوا
ينقلون الصخر وهم
يرتجزون و النبي ﷺ
معهم و هو يقول
اللهم لا خير الاخير
الاحرة - فاغفر
الانصار و المهاجرة -

(صحیح البخاری ج ۱ - ص ۶۱)

عن جندب بن
سفيان روى عن النبي ﷺ ان
رسول الله ﷺ كان في بعض المشاهد
وقد دميت اصبعه
فقال :

" هل انت الا اصبع دميت
وفسبيل الله مالقيت

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۹۳)

گئیں۔ پھر ویرانے کو حکم دیا گیا کہ
وہ برابر کر دیا اور درختوں کو حکم
دیا کہ وہ کاٹ ڈالے گئے۔ پھر
چھوہارے کے درخت مسجد کی
(جانب) قبلہ میں نصب کر دیے۔
اور اس کی بندش پتھروں سے کی
اور صحابہ کرام پتھر لانے لگے۔ اور
وہ رجز پڑھتے جاتے تھے اور حضور
اقدم ﷺ ان کے ہمراہ تھے
اور آپ فرماتے تھے۔ اے اللہ
بھلائی تو آخرت کی بھلائی ہے۔
پس تو میرے اصحاب انصار
اور مہاجرین کو بخش دے۔

حضرت جندب بن سفیان
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور اقدس ﷺ کسی جہاد
میں تھے کہ آپ کی انگشت مبارک
رزمی ہو کر خون آلود ہو گئی۔ تو
آپ نے فرمایا تو صرف ایک انگلی
ہے جو خون آلود ہو گئی ہے۔ اور جو
کچھ تو نے تکلیف پائی ہے۔ اللہ کی
راہ میں پائی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا تَدْعُوْا لَدُنَّ اللّٰهِ لَا تَدْعُوْا لِحُكْمِ النَّاسِ وَلَا لِحُكْمِ النَّبِیِّیْنَ ۗ تَدْعُوْا لِلّٰهِ وَحْدًا ۗ حَیُّ الْقَیُّوْمُ ۗ لَا یَاخُذُہٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ۗ لَیْسَ لَہٗ سَیِّئٌ مِّمَّا تَدْعُوْنَ ۗ سَیِّئٌ مِّمَّا تَدْعُوْنَ ۗ وَہُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۗ لَیْسَ لَہٗ اَیْمَانٌ مِّمَّا تَدْعُوْنَ ۗ وَہُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ ۗ وَہُوَ الْمَلِكُ الْقَدِیْمُ ۗ وَہُوَ الْمَلِكُ الْقَدِیْمُ ۗ وَہُوَ الْمَلِكُ الْقَدِیْمُ ۗ وَہُوَ الْمَلِكُ الْقَدِیْمُ ۗ

سَبَّحَ سَبَّحَ سَبَّحَ

ہمارے سردار جن پر پوری امید ہو دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

قال زہیر بن

صرد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

"امن على رسول الله في كرم
فانك المرزجوه وندخر"
سيرة ابن كثير ج ۳ - ص ۶۶۶

الْمَرْجِي بِفَتْحِ الْجِيمِ اسْمُ
مَفْعُولٍ مِنَ الرَّجَاءِ بِمَعْنَى
الْاَمَلِ لِاَنَّهُ الَّذِي يَرْجُوهُ
النَّاسُ لِكَشْفِ كُرْبِهِمْ وَجَلَاءِ
مَصَابِهِمْ وَاَعْظَمُهَا يَوْمُ
الْقِيَامَةِ فِي فَضْلِ الْقَضَاءِ -

(سبل الهدى ج ۱ - ص ۶۳۱)

عن ابى هريرة

حضرت زہیر بن صرد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
کہتے ہیں -

اے اللہ کے رسول آپ مجھ پر مہربانی
فرمائیں کیونکہ آپ تو ایسے مروت کرنے
والے ہیں جس پر ہمیں امید ہے اور
آپ ہمارے ذخیرہ بھی ہیں -

المرزجی اجیم کی فتح کے ساتھ اسم
رجا سے اسم مفعول کا صیغہ ہے -
جس کا معنی امید ہے - کیونکہ آپ
سے تمام لوگوں کی امیدیں وابستہ ہیں -
مصائب اور تکلیفوں کے دور کرنے
میں خاص کر قیامت کے دن جب
فیصلے ہوں گے -

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ یٰرَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ط

رَوَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ فَارِيدُ
أَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ
أَخْتَبِي دَعْوَتِي شَفَاعَةً
لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(صحيح البخارى ج ۲ - ص ۱۱۳)

قَالَتْ أَرْوَى بِنْتُ
عَبْدِ الْمَطْلَبِ رَوَى اللَّهُ عَنْهَا:

"أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ رَجَاءَ نَا
وَكُنْتُ بِنَا بَرًا وَلَمْ تَكُ جَافِيَا"
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ - ص ۲۲۵)

قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ
رَوَى اللَّهُ عَنْهُ يَرْتَضِي النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَهُ حَسَبٌ فَوْقَ كُلِّ الْإِنَا
مِنْ هَاشِمٍ ذَلِكَ الْمَرْتَجَى
نَخَصَ بِمَا كَانَ مِنْ فَضْلِهِ
وَكَانَ سَرَاجًا لَنَا فِي الدُّجَى"
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ - ص ۲۲۵)

روایت ہے۔ کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا ہر نبی کے
واسطے (اللہ تعالیٰ کے ہاں سے)
ایک دُعا عنایت ہوئی ہے۔
اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دُعا
کو قیامت کے روز اپنی اُمت
کی شفاعت کے واسطے محفوظ رکھوں۔
حضرت اروی بنت عبدالمطلب
رَوَى اللَّهُ عَنْهَا نے کہا:

اے اللہ کے رسول آپ ہماری
امید تھے۔ اور آپ تو ہمارے ساتھ
نیکی کرنے والے تھے نہ سخت۔

حضرت کعب بن مالک رَوَى اللَّهُ عَنْهُ
نے حضور اقدس ﷺ کا
مرثیہ یوں پڑھا۔

آپ کا حسبِ نسب تمام جہان
سے اُونچا تھا۔ آپ ہاشمی خاندان
سے امید برلانے والے تھے۔ آپ
فضیلت میں مخصوص تھے۔ اور آپ
اندھیری شب میں چاند تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعِزِّزْ مَدِينَتَهُ كُلَّهَا
وَمَدِينَتَهُ كُلَّهَا وَوَجِّهْ لِي سُبُلَ رَحْمَتِكَ وَمَعَادَ كُلِّ مَلِكٍ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مُرْتَجِي

سَيِّدِكَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار اللہ پر امید رکھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ اپنے

رجاء سے اسم فاعل کا صیغہ ہے۔
اللہ پر امید و اٹنی رکھنے والے کہ اللہ تعالیٰ
ان کی امت کے بارے میں شفاعت
قبول فرمائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ فرمایا حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نبی کو ایک دعائی
جو قطعاً قبول ہوگی۔ تو ہر نبی نے
جلدی سے اس دنیا میں ہی دعائے مانگ
لی اور میں نے اپنی دعا کو اپنی امت کی شفاعت
کے لیے قیامت کے روز کو اختیار کیا ہے۔
اور شفاعت انشاء اللہ ہر اس امتی کو
پہنچے گی۔ جو فوت ہو گیا لیکن اس نے اللہ
کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔

اسم فاعل ای المؤمن
من اللہ تعالیٰ قبول
شفاعته فی امتہ۔

(سبل الہدی ج ۱ - ص ۶۳۲)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی دعوة
مستجابة فتجعل کل نبی
دعوته وانی اختبأت
دعوتی شفاعۃ لامتی
یوم القیمۃ فہی نائلة
ان شاء اللہ من مات من
امتی لا یشرک باللہ شیئاً۔
(الصصح لمسلم ج ۱ - ص ۱۱۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ
اللَّهُ مُصَلِّمٌ وَسَلَوٌ بَارِكٌ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَلَّى وَخَلَقَ وَجْهَ نَبِيِّكَ وَنَشْرَكَ وَمَادَّ كَلِمَةَ الْمُتَّقِينَ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمِ وَأَسْمَى الْبَرِّ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْتَدِي

ہمارے سردار چادر اوٹھنے والے دُرُودِ سَلَامِ بَحْبَحِ اللہ آپ کے

حضرت انس بن مالک
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ
میں حضور اقدس ﷺ کے ساتھ
جا رہا تھا اور آپ کے جسم پر ایک
موٹے حاشیہ کی نجراتی چادر تھی۔
تو ایک اعرابی نے آپ کو پکڑ لیا
اور اس نے آپ کی وہی چادر
گلے مبارک میں ڈال کر سختی سے کھینچا
حتیٰ کہ میں نے آپ ﷺ کی
گردن مبارک کو دیکھا کہ اس پر لگی
کو سخت بھینچنے کی وجہ سے نشان
پر گئے تھے۔ پھر وہ اعرابی کہنے
لگا کہ مجھے بھی اللہ کے اُس مال میں
سے دینے کا حکم صادر فرمائیں۔

عن أنس بن
مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
كنت امشي مع
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وعليه
برد نجراتي فادركه اعرابي
فجذبه جذبة شديدة
حتى نظرت إلى
صفحة عاتق النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد اُثرت به
حاشية الرداء من
شدة جذبه ثم قال
مر لي من مال
الله الذي عندك

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

فالتفت اليه فضحك
ثم امر له ببطاء -

(صحيح البخاري ج ۱ - ص ۲۶)

عن علي رضي الله عنه
قال فدعا النبي
ﷺ بردائه فارتدى
به ثم انطلق
يمشي وابتعته انا
وزيد بن حارثة
رضي الله عنهما حتى جاء البيت
الذي فيه حمزة رضي الله عنه
فاستاذن فاذنوا لهم -

(صحيح البخاري ج ۲ - ص ۸۶۲)

عن عائشة رضي الله عنها
قالت والله لقد رايت
رسول الله ﷺ
يقوم على باب حجرتي
ولحبتة يلعبون بحراهم
في مسجد رسول الله
ﷺ يسترني بردائه لكي
انظر الى لعبهم - الخ

(اصح مسلم ج ۱ - ص ۲۹۲)

جو آپ کے پاس ہے۔ آپ نے
اس کی طرف دیکھا اور ہنس پڑے
پھر آپ نے اُسے دینے کا حکم دیا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت
ہے کہ پھر حضور اقدس ﷺ
نے اپنی چادر منگائی اُسے اوڑھ
کر چل پڑے میں آپ کے پیچھے
ہو لیا اور حضرت زید بن حارثہ
رضی اللہ عنہما بھی ساتھ ہی تھے حتیٰ کہ
آپ اس گھر میں تشریف لائے۔
جس میں حضرت حمزہ تھے۔ انہوں
نے اجازت طلب کی۔ اندروالوں
نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں، اللہ کی
قسم میں نے حضور اقدس ﷺ
کو دیکھا ہے۔ کہ میرے حجرہ کے
دروازہ پر کھڑے ہو کر مجھے اپنی چادر
سے چھپاتے ہوئے تھے اور حبشی لوگ
حضور اقدس ﷺ کی مسجد میں
اپنے ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے
تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھوں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَخَلِّصْنَا مِنْ سُلْطَانِ
رَمَّةٍ وَخَلِّصْنَا مِنْ سُلْطَانِ رَمَّةٍ وَخَلِّصْنَا مِنْ سُلْطَانِ رَمَّةٍ وَخَلِّصْنَا مِنْ سُلْطَانِ رَمَّةٍ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُرَّةٌ مَرْضَى

ہمارے سردار پسند فرمائے گئے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

وہ جن پر ان کا اللہ راضی ہو یعنی
ان سے محبت فرمائے اور ان کو
پسند فرمائے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
حضور اقدس ﷺ نے یہ آیت
پڑھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
کا قول ہے۔ اے رب ان رتوں
نے بہت لوگوں کو بے راہ کیا۔ سو
جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے
ہے اور جس نے میری نافرمانی کی تو
تو غفور رحیم ہے۔ اور یہ آیت جو حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ اگر تو
انہیں عذاب دے سو یہ تیرے بندے

الذی رضیہ مولاه
ای احبہ واصطفاه۔
شرح المواہب اللدنیۃ للزرقانی ج ۳ ص ۱۲۳
عن عبد اللہ بن
عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تلا قول اللہ تعالیٰ
فی ابراہیم علیہ السلام
”رَبِّ اِنَّهُمْ اَضَلُّنَّ
كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ
فَمَنْ تَبِعْنِيْ فَاِنَّ
مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِيْ
فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ“ (الآیۃ)
وقال عیسیٰ علیہ السلام

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

اِنْ تُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ
عِبَادُكَ وَ اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ
فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ۝ وَ رَفَعَ
يَدَيْهِ وَ قَالَ اَللّٰهُمَّ
اُمَّتِيْ اُمَّتِيْ وَ بَنِي
فَقَالَ اَللّٰهُ يَا جِبْرِيلُ
عَلَيْكَ السَّلَامُ اذْهَبِ اِلَى
مُحَمَّدٍ ﷺ وَ رُبِّكَ
اعْلَمُ فَاسْأَلْهُ مَا يَبْكِيْكَ
فَاَنَا هُوَ جِبْرِيلُ
عَلَيْكَ السَّلَامُ فَسْأَلَهُ
رَسُولَ اَللّٰهِ ﷺ
بِمَا قَالَ وَ هُوَ
اعْلَمُ فَقَالَ اَللّٰهُ
تَعَالَى يَا جِبْرِيلُ
عَلَيْكَ السَّلَامُ اذْهَبِ اِلَى
مُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْ
اَنَا سَرَضِيْكَ فِي
اَمْتِكَ وَ لَا تَسُوْكَ

(اصحح مسلم ج ۱ - ص ۱۱۳)

ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو عزیز
حکیم ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس
ﷺ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے
اور فرمایا پروردگار میری اُمت میری
اُمت اور رو پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
نے حضرت جبریل علیہ السلام سے
فرمایا جبریل علیہ السلام حضرت محمد
ﷺ کے پاس جاؤ اور تمہارا
پروردگار بخوبی واقف ہے۔ اور ان
سے دریافت کرو کہ وہ کیوں روتے
ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام آپ
کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے
دریافت کیا۔ حضور اقدس ﷺ
نے تمام حال بیان کر دیا اور حضرت
جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے
جا کر عرض کیا، حالانکہ وہ خوب جانتا
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبریل
علیہ السلام حضرت محمد ﷺ
کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر کہہ
دو کہ ہم آپ کو آپ کی اُمت کے
باکے میں راضی کر دیں گے۔ اور
آپ کو ناراض نہ کریں گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً قَدِ اتَّخَذَتْهُ دِينًا حَقًّا لَهَا ۗ فَيُضِلَّ اللَّهُ أُمَّةً قَدِ اتَّخَذَتْهُ دِينًا حَقًّا لَهَا ۗ فَيُضِلَّ اللَّهُ أُمَّةً قَدِ اتَّخَذَتْهُ دِينًا حَقًّا لَهَا ۗ فَيُضِلَّ اللَّهُ أُمَّةً قَدِ اتَّخَذَتْهُ دِينًا حَقًّا لَهَا ۗ

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ہمارے سرارتیل کیساتھ قرآن پڑھنے والے دُودِ سلام بھیج لائیں

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
” اور قرآن کو خوب صاف
صاف پڑھو۔“

” اس طرح ہے اس لیے ہے
تاکہ ہم اس کے ذریعے سے آپ
کے دل کو قوی رکھیں اور ہم نے
اس کو تریل کے ساتھ اتارا ہے۔“

حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے
روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
پوری کی پوری سورۃ پڑھتے اور اس
کو تریل کے ساتھ تلاوت فرماتے
سورۃ بھی لمبی سے لمبی ہوتی اور پھر
اس کو آپ تریل کے ساتھ اور
زیادہ لمبا کر دیتے۔

اشارہ الی قوله ،

” وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝“

(سورۃ المزمل ۴)

” كَذَلِكَ نُنشِئُ بِهِ
فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ
تَرْتِيلًا ۝“

(سورۃ الفرقان ۳۲)

عن حفصة رضي الله عنها
قالت كان رسول الله
ﷺ يقرأ بالسورة
ويرتها حتى تكون
اطول من اطول
منها۔

(جامع الترمذی ج ۱ - ص ۲۹)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

مستقبل العرش
ثم اوقف بكسوتی
فالبسها فاقوم عن
يمينه متامالا
يقومه احد عنیری
يغبطنی فیہ الاولون
والاخرون۔

(الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۱۱۷)

قلت لرسول الله
ﷺ تشریفات یوم
القیامة لا یشركه فیها
احد وتشریفات لا یساویه
فیها احد۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵)

ویشفع فی رفع
درجات اقوام لا تبلفها
اعمالهم وهو صاحب
الوسيلة التي هي
اعلی منزلة فی الجنة
لاتلیق الاله۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۵۵)

کے سامنے بیٹھ جائیں گے پھر مجھے
بلایا جائے گا مجھے بھی جنت کا
جوڑا دیا جائے گا۔ میں اس کو
پہن لوں گا۔ پھر میں حضرت ابراہیم
ؑ کے داہنی طرف ایسے
مقام پر کھڑا ہوں گا جس پر میرے
سوا کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ مجھ پر
اس مقام کی وجہ سے اگلے پچھلے
رشک کریں گے۔

میں کہتا ہوں کہ حضور اقدس
ﷺ کو قیامت کے روز اتنا
شرف حاصل ہوگا کہ اس میں کوئی
دوسرا آپ کا شریک نہ ہوگا۔
اور نہ ہی اس شرف میں آپ کا
کوئی ہمصر ہوگا۔

اور آپ ﷺ قوموں کی
بلندی درجات میں شفاعت فرمائیں
گے اور ان کے عمل ان کو وہاں تک
نہ پہنچا سکیں گے۔ اور آپ صاحب
وسیلہ ہیں۔ اور یہ بہشت میں ایک
اعلیٰ مقام ہے جو آپ کے سوا
کسی کے لائق نہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِسْلَامَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَنْ سَلَّمَ أَنْ
وَمَدَدِ مَنْ تَلَّمَ وَبَارَكْ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَنْ سَلَّمَ أَنْ

سَيِّدِكَ الْمَلِكِ فِي قِرَاتِهَا

ہمارے سردار قرأت میں خوش الحان دُرودِ سلا بھیجے اللہ آپ سے

حدثنا معوية بن قرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عن عبد الله بن مغفل
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ
سُورَةَ الْفَتْحِ فَجَعَلَ فِيهَا
قَالَ مَعْوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْ شِئْتُ
أَنْ أَحْكِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَفَعَلْتُ - (صحيح البخاري ج ۲ - ص ۴۱۶)
عن قتادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ
أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا
ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِمَدٍّ
بِسْمِ اللَّهِ وَبِمَدٍّ بِالرَّحْمَنِ وَبِمَدٍّ
بِالرَّحِيمِ - (صحيح البخاري ج ۲ - ص ۴۵۲)

حضرت معاویہ بن قرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حضرت
عبد اللہ بن مغفل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت
کرتے ہیں کہ حضور اقدس صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے
فتح مکہ کے روز سورۃ فتح پڑھی اور بڑی
خوش الحانی سے پڑھی حضرت معاویہ بن قرہ
کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے اس طریقے سے
پڑھنے کو یاد کر لیا ہے تو اب بھی تم کو آپ
کے لہجہ میں قرأت کو سنا سکتا ہوں۔
حضرت قتادہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کہتے ہیں کہ
کسی نے حضرت انس سے پوچھا حضور اقدس
صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کیونکر قرأت پڑھتے تھے انہوں نے
جواب دیا کھینچ کر پڑھتے تھے پھر بسم اللہ
الرحمن الرحیم پڑھ کر کہا بسم اللہ اور
الرحمن اور الرحیم کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْدُوهُ كُلِّ تَسْلِيمٍ إِنَّ
 رَبَّنَا وَخَلْقَنَا وَجَنَّتْ بَنَانُكَ وَتَحْتَمِلُكَ وَمَا كُنَّا نَدْرِكُكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَتَحْتَمِلُكَ وَمَا كُنَّا نَدْرِكُكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَتَحْتَمِلُكَ

سَبَّحَ رَبِّي مَرَّةً مَرَّةً

ہمارے سردار مر جہا کے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

<p>حضرت انس رضی اللہ عنہما سے حدیث معراج میں روایت ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا نیک نبی اور نیک بھائی کو مر جہا تو میں نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ نیک نبی اور صالح بھائی کو مر جہا میں نے کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس</p>	<p>عن انس رضي الله عنه فلما مر جبريل عليه السلام بادرسي عليه السلام قال مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح فقلت من هذا؟ قال هذا ادريس عليه السلام ثم مررت بموسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح قلت من هذا؟ قال هذا موسى عليه السلام ثم مررت بعيسى عليه السلام فقال مرحبا بالنبى الصالح والاخ الصالح</p>
--	---

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

فقلت من هذا؟
 قال عيسى عليه السلام
 (الحديث)
 (صحیح البخاری ج ۱ - ص ۲۷۱)
 عن ابی هريرة
 رَوَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي
 ابوبكر بن ابی قحافة
 ان رسول الله
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ
 وَلَعَمْرُ انطلقا بنا الى
 الواقف قال فانطلقنا
 في القمر حتى
 اتينا الحائط فقال
 مرحباً واهلاً شو
 اخذ الشفرة ثم جال
 في الغنم فقال
 رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اياك والحلوب
 او قال ذات الدر
 (سنن ابن ماجه ص ۱۲۹)

سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ نیک
 نبی اور نیک بھائی کو مرحبا۔ میں نے
 کہا کہ یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے
 کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
 حضرت ابو ہریرہ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں
 کہ مجھے حدیث بیان کی حضرت ابوبکر
 بن الوقحافہ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ نے کہ حضور اقدس
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مجھے اور حضرت عمر
 فاروق رَوَى اللَّهُ عَنْهُ کو فرمایا۔ کہ تم
 دونوں ہماری ساتھ واقفی رَوَى اللَّهُ عَنْهُ
 کے پاس چلو۔ حضرت ابوبکر رَوَى اللَّهُ عَنْهُ
 کا بیان ہے۔ کہ ہم چاند کی چاندنی
 میں چلے۔ حتیٰ کہ ہم باغ میں آئے۔
 اس واقفی رَوَى اللَّهُ عَنْهُ نے آپ کو
 مرحباً واهلاً عرض کیا۔ پھر انہوں
 نے چھری پکڑی اور بکریوں کے
 ریوڑ میں پھرے تو حضور اقدس
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اُسے فرمایا دودھ
 دینے والے جانور سے اجتناب
 کرنا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتَهُمْ بِمَدُونِهِمْ وَسَلِّمْ أَنْ
وَمَنْ خَلَقَكَ وَجْهًا لِيَسْئَلُكَ وَمَنْ خَلَقَكَ لِيَسْئَلُكَ لِيَسْئَلُكَ لِيَسْئَلُكَ لِيَسْئَلُكَ لِيَسْئَلُكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
مَرْحَبًا
صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار مرحبا فرمانے والے
درد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم
سب ازواج نبی کریم ﷺ
آپ کے پاس موجود تھیں۔ کوئی
ان میں سے غیر حاضر نہ تھی۔ اتنے
میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا
آئیں اور ان کا چلنا بالکل حضور
اقدم ﷺ کے چلنے کی طرح تھا
جب آپ نے انہیں دیکھا تو مرحبا
کہا اور فرمایا مرحبا اے میری بیٹی
پھر آپ نے انہیں اپنی دائیں
جانب یا بائیں طرف بٹھا لیا۔

عن عائشة رضي الله عنها
قالت كن ازواج النبي
صلى الله عليه وسلم عنده لم
يفادر منهن واحدة
فاقبلت فاطمة رضي الله عنها
تمشي ما تخطي مشيتها
من مشية رسول الله
صلى الله عليه وسلم شيئاً فلما
راها رحب بها
فقال مرحبا بابنتي ثم
اجلسها عن يمينه او عن
شماله - (الحديث)

(الصحيح لمسلم ج ۲ - ص ۲۹۰)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَصَفْوَتِهِ بِمَدَدِ قُدْرَتِكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
وَمَدَدِ خَلْقِكَ وَرِضَى قَلْبِكَ وَمَدَدِ عِلْمِكَ الَّذِي لَا يَلْمُ الْأَكْمَلُ الْأَكْمَلَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَبِّحْ رَبَّكَ مَرَّةً مَرَّةً

ہمارے سردار رحم کیے گئے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اور آپ کو اپنے نبی ہونے سے قبل
یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل
کی جائے گی۔ مگر محض آپ کے رب
کی مہربانی سے اس کا نزول ہوا۔“
”اور آپ طُور کی جانب (عربی مذکور)
میں اس وقت ابھی موجود نہ تھے۔
جب ہم نے حضرت موسیٰؑ کو پکارا
تھا۔ اور لیکن آپ اپنے رب کی
رحمت سے نبی بنائے گئے۔“
”مگر یہ آپ کے رب ہی کی رحمت
ہے کہ ایسا نہیں کیا، بیشک آپ
پر اس کا بڑا فضل ہے۔“

إشارة إلى قوله،
” وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ
يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ
إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ “
(سورة القصص ۸۶)
” وَمَا كُنْتَ
بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ - “
(سورة القصص ۳۶)
” إِلَّا رَحْمَةً مِنْ
رَبِّكَ إِذْ أَنْ فَضَلَهُ كَانَتْ
عَلَيْكَ كَثِيرًا “
(سورة بني إسرائيل ۸۷)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ وَسَلِّمْ
 وَجَدِّكَ وَخَلْقِكَ وَجِيَّتِكَ وَتَشْرِيكَ وَمَنَّا عَلَىٰ لِقَاءِ اسْتِغْفَارِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ آمِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار اُمتِ مرحومہ والے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
 قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 امتی هذه امة مرحومة
 لیس لها عذاب فی الآخرة
 و عذابها فی الدنيا الفتن
 والزلازل والقتل۔

(سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۲۲)

عن أنس رضی اللہ عنہ
 قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم امتی امة مرحومة
 مغفود لها فتاب علیها۔

(رواه الحکیم فی الکفی)

(الفتح الکبیر ج ۳ ص ۲۶۳)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ اُمتِ رحم
 کی گئی ہے۔ اس کے لیے آخرت
 میں کوئی عذاب نہیں ہے۔ دنیا
 میں ان کا عذاب صرف فتنے،
 زلزلے اور خونریزی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اُمت
 اُمتِ مرحومہ ہے۔ اس کے گناہ
 مُعاف ہیں۔ اُن کی توبہ منظور
 ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
 وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ آمِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار رحمت فرمانے والے
 درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت ایاس بن ابورطاشامی سے
 روایت ہے کہ میں اس وقت
 موجود تھا جب حضرت امیر معاویہ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے حضرت زید بن ارقم
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے دریافت کیا کہ کیا آپ
 نے حضور اقدس ﷺ کے
 زمانہ میں دو عیدوں (جمعہ و عید) کو
 اکٹھے آتا دیکھا تو انہوں نے جواب دیا کہ
 ہاں حضرت امیر معاویہ نے اُن سے پوچھا
 کہ آپ نے کیسے کیا حضرت زید بن ارقم
 نے بیان کیا کہ حضور اقدس ﷺ
 نے عید کی نماز پڑھی تھی اور جمعہ کی
 رحمت عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو
 شخص جمعہ پڑھنا چاہے پڑھے۔

عن ایاس بن ابی
 رملۃ الشامی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
 شَهِدْتُ مَعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي
 سَفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يُسْأَلُ
 زَيْدَ بْنَ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ
 أَشْهَدُتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا
 فِي يَوْمٍ قَالَ نَعَمْ
 قَالَ فَكَيْفَ صَنَعَ
 قَالَ صَلَّى الْعِيدَ ثُمَّ
 رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ
 مَنْ شَاءَ أَنْ يَصِلِيَ
 فَلْيَصِلْ -

(سنن ابی داؤد ج ۱ - ص ۱۵۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ
 وَبِعَدِّ حَلَّتِكَ رَوْحِي وَتَعَرَّضْتُكَ وَمَنَادُكَ كَمَا اسْتَضَىٰ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَمَّا الْبَدَنُ

سَيِّدِكَ الْمُرْخَصِينَ

ہمارے سردار رخصت دیے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے لوگوں کو خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو جس امر کی اس نے چاہا رخصت دی اور اللہ کے نبی اپنے طریقہ پر گزر گئے۔ اب تم حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے اسی طرح پورا کرو۔ جس طرح اللہ عزوجل نے تم کو حکم دیا ہے۔ اور تم اپنی عورتوں کی شرم گاہوں کو پاک رکھو یعنی متعہ نہ کرو۔
 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس

عن ابی سعید رضی اللہ عنہما قال خطب عمر رضی اللہ عنہما الناس فقال ان الله عزوجل رخص لنبیہ ﷺ ماشاء وان نبی الله ﷺ قد مضى لسبیلہ فاتموا الحج و العمرة كما امرکم الله عزوجل وحصنوا فروج هذه النساء۔
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۰۱)
 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

مَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ عَبْدِكَ يَوْمَ افْتَحَ
مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ
جِهَادٌ وَنِيَّةٌ فَذَا اسْتَفْرَمَ
فَانْفَرُوا فَان هَذَا
بَلَدٌ حَرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ حَرَامٌ بِحَرَمَةِ اللَّهِ
الْحَيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَإِنَّهُ لَوِ يَحِلُّ
الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ
قَبْلِي وَلَمْ يَحِلِّ
لِي إِلَّا سَاعَةٌ مِنْ
نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ
بِحَرَمَةِ اللَّهِ الْحَيِّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَعْضُدُ
شَوْكُهُ وَلَا يَنْفِرُ
صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ
لِقَطِئِهِ إِلَّا مِنْ
عَرَفَةَ وَلَا يَخْتَلِي
خِلَاها۔ (الحديث)

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۳۴)

ﷺ نے فتح مکہ کے دن فرمایا
اب ہجرت ختم ہوئی۔ لیکن جہاد جاری
رہے گا۔ اور اسکی نیت ضروری ہے
پھر جب تم کو جہاد کے لیے کہا جائے
تو تمہیں اس کے لیے نکلنا ہوگا۔
اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا
بنایا ہے۔ اس دن سے جب
اُس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا
کیا۔ اور وہ اللہ کی حرمت سے قیامت
کے دن تک حرمت والا ہے گا
اور اس میں مجھ سے پہلے کسی کو لڑائی
کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اور میرے
لیے بھی ایک دن صرف تھوڑی
دیر کے لیے حلال ہوئی۔ اس کی حرمت
پھر قیامت کے دن تک لوٹ
آئی ہے۔ نہ یہاں کا کائنا کاٹا جائے اور
نہ یہاں کا شکار بھگا یا جائے اور
نہ یہاں کا لفظہ (گری پڑی چیز)
اٹھایا جائے۔ مگر جو شخص اس کی
تعریف کرے اور نہ یہاں کی
گھاس اکھیڑی جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَمَّا بَعْدُ

سَيِّدِنَا مُرَزُوقٌ

ہمارے سردار روزی دیے گئے درودِ سلام بھیجیے اللہ آپ سے

عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ
قال قال رسول الله
ﷺ اكثروا الصلوة على
يوم الجمعة فانها
مشهود تشهد الملائكة
وان احداً لن يصلی
على الاعرضت على
صلوته حتى يفرغ
منها قال قلت و بعد
الموت قال و بعد الموت
ان الله حرم على
الارض ان تاكل اجساد
الانبياء فنبی الله حی يرزق.
(سنن ابن ماجه ص ۱۱۸)

حضرت ابو دردوار رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا۔ جمعہ کے دن مجھ
پر زیادہ درود پڑھا کرو۔ کیونکہ فرشتے
اس روز درود پیش کرتے ہیں جب
تمک وہ پڑھتا ہے اس وقت
تمک وہ پیش کرتے ہیں میں
نے عرض کیا کہ وفات کے بعد بھی؟
آپ نے فرمایا وفات کے بعد بھی
اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے
اجسام مبارک کو حرام کر دیا ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ کے نبی زندہ ہوتے ہیں
ان کو رزق عنایت ہوتا ہے۔

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ أَيُّهَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنَا عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ أُمَّهِ وَأَخِيهِ وَوَجَدِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَارْحَمْنَا بِمَا كُنَّا فِيكُمْ مِنَ الْغُلَامِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مُرْسَلٌ

ہمارے سردار پیغمبر درود و سلام بھیجیے اللہ آپ پر

اشارہ الی قولہ:
"هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَىٰ وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ ۗ"
(سورة التوبة، ۳۳)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
"وَهُوَ اللَّهُ أَيُّهَا هُوَ
رَسُولٌ كُوهِدِ اِيْتِ اُو رِطِجِ اِيْنِ دِي
كُو بِيْجِ اِيْتِ تَا كُو اِيْتِ اِيْتِ
پرفا لب كر دے۔"
"يِه اِيْتِ اِيْتِ اِيْتِ اِيْتِ اِيْتِ اِيْتِ
صحيح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سنا تے
ہیں۔ اور آپ بلاشبہ پیغمبروں
میں سے ہیں۔"
"بِيْشِكِ اِيْتِ اِيْتِ اِيْتِ اِيْتِ اِيْتِ اِيْتِ
ايك ايسار رسول بھيجا ہے جو تم پر
گو اهي ديں گے جيسا ہم نے
فرعون کے پاس ايک رسول
بھيجا تھا۔"

"تِلْكَ آيَةٌ اللَّهُ نَشَلُوهَا
عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَ اِنَّا
مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝"
(سورة البقرة ۲۵۲)

" اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ
رَسُولًا ۗ مَّشَاهِدًا عَلَيْنَكُمْ كَمَا
اَرْسَلْنَا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ
رَسُولًا ۝"
(سورة المزمل ۱۵)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امين امين امين يا ربي الطيبين ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتَهُمْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ
 وَمَدِينَةِ مَدْيَنَةَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَدِينَةِ مَكَّةَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَدِينَةِ مَكَّةَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَدِينَةِ مَكَّةَ

مُرْسِيكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار لشکرِ بھینے والے دُودھِ سلا بھیجے اللہ آپ سے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ کچھ لوگ قبیلہ عکل یا
 عربیہ میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان کو
 مدینہ منورہ کی آب و ہوا موافق نہ
 آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے
 لیے دودھ والی اونٹنیوں کا حکم
 دیا اور ان کو فرمایا کہ ان کا پیشاب
 اور دودھ پیئیں۔ وہ ان اونٹنیوں
 کو جنگل میں لے گئے۔ جب وہ
 تندرست ہو گئے تو انہوں نے
 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل
 کر دیا اور اونٹنیوں کا گلہ
 بھگا کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم

عن انس بن
 مالك رضي الله عنه ان
 قوما من عكل
 او قال من عربيه
 قدموا على رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم فاجتوا المدينة
 فامرهم رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم بلقاح وامرهم
 ان يشربوا من
 ابوالها و البانها
 فانطلقوا فلما صحوا
 قتلوا راعي رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم واستاقوا النعم
 فبلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ أَيُّهَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

خبرهم من اول
النهار فارسل النبي
ﷺ في انارهم
فما ارتفع النهار
حتى جئ بهم
فامرهم فقطعت ايديهم
وارجلهم وسمراعينهم
والقوا في الحرة
يستقون فلا يسقون
قال ابو قلابة رضي الله عنه
فهولاء قوم سرقوا
وقتلوا وكفروا بعد
ايمانهم وحا ربوا
الله ورسوله.

(سنن ابى داود ج ۲ ص ۲۲۲)

کو دن کے پہلے حصہ میں ان کی
اطلاع ملی تو آپ نے لشکر ان کی
تلاش میں بھیجا۔ جب دن اونچا
ہوا تو ان کو حاضر کیا گیا آپ نے
حکم دیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ
گئے اور ان کی آنکھوں میں گرم
سلاسیاں پھیری گئیں۔ اور جلتے
ہوئے پتھروں پر ڈالے گئے۔ وہ
پانی مانگتے تھے لیکن ان کو پانی نہ
دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو قلابہؓ راوی
بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی
جنہوں نے چوری کی اور چرواہے
کو قتل کیا۔ اور ایمان لانے کے
بعد کافر ہو گئے تھے۔ اور اللہ اور
اس کے رسول ﷺ سے جنگ
کی رائے کی سزا یہی ہونی چاہیے
تھی۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدَتِي يَا مَوْلَانَا وَحَسْبُنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأَمِينُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجَزْتُ بِمَدَدِ كُلِّ مَلَكٍ أَلَيْكَ
وَمَدَدِ كُلِّ نَفْسٍ وَرَحْمَتِكَ وَمَدَدِ كُلِّ مَنْ اسْتَعَانَ بِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدَتِي يَا مَوْلَانَا أَمْرٌ سَلِّمْ

ہمارے سردار ٹھہر ٹھہر کر کلام کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف
باتیں کرتے تھے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے
روایت ہے۔ بیان فرماتی ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام
میں جدا جدا صاف فقرے ہوتے
تھے۔ جس کو ہر سننے والا سمجھ جاتا تھا۔

عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه يقول كان في
كلام رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم ترتیل او ترسیل۔

(سنن ابی داؤد ج ۲ - ص ۳۰۹)

عن عائشة رضي الله عنها
قالت كان كلام
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
كلامًا فصلاً يفهمه
كل من سمعه۔

(سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۳۰۹)

من عظماء المشركين فجعل
رسول الله ﷺ يعرض
عنه ويقبل على الآخر و
يقول اترى بما اقول
باساً فيقول لافى
هذا انزل -

(جامع الترمذی ج ۱۶، المستدرک للحاکم ج ۲ ص ۵۱۴)

قال حسان بن
ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
مَوْلَانَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

"من الذين كان نوراً يستضاء به
مبارك الامر ذي حزم والرشاد

مصدقاً للنبیین الاولی سلفوا
وابذل الناس للمعروف وللجای

(دیوان حسان بن ثابت ص ۲۷)

وقال :

"يدل على الرحمن من يقدي
وينقد من هول الخزايا ويرشد

(تاریخ ابن کثیر ج ۵ - ص ۲۸۰)

رسول الله ﷺ کے پاس مشرکوں
کا ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا حضور
اقدر ﷺ نے ان سے منہ
پھیر کر دوسری طرف متوجہ ہو گئے۔
اور فرمایا جو میں کہتا ہوں کیا تم اس
میں کچھ حرج دیکھتے ہو اس نے کہا
نہیں اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔
حضرت حسان بن ثابت
رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کا مرثیہ
پڑھتے ہیں :

"وہ جن کے نور سے روشنی حاصل
کی جاتی ہے۔ بابرکت حکم والے
پختہ کار اور پختہ ارشاد والے۔
اگلے گزے ہوئے نبیوں کی تصدیق
کرنے والے۔ تمام لوگوں سے زیادہ سخی اور
عطیہ جات عطا فرمانے والے۔"

اور اس نے یہ بھی کہا :

"جو آپ کے پیچھے چلے اس کو خدا کی
راہ دکھانے والے۔ اور رسوائی کے خطرے
سے بچانے والے اور رہنمائی فرمانے
والے۔"

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِحَقِّهِ الْآيَاتُ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَنْتُمْ بِمَدْرَسَةِ كُلِّ مَسْلُومٍ أَنْ
رَبِّهِمْ وَخَلْقِكَ وَجَمِيعِ فَطْرِكَ وَمِنَادِ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيمُ الرَّحِيمُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

مشکوٰۃ قبر

سَبَّحَ لِلَّهِ الْمَلَأَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّيْءَ وَرَبَّهُمْ
عِلْمَ الْغُيُوبِ

ہمارے سرسار چھڑکاؤ والی قبر والے دُود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا
گیا اور چھڑکاؤ کرنے والے حضرت
بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں
نے مشک کے ساتھ چھڑکاؤ کیا۔
سر مبارک کی دائیں طرف سے
شروع کیا گیا۔ حتیٰ کہ پاؤں مبارک
تک پہنچے۔ پھر انہوں نے سامنے
کی دیوار پر اس قدر پانی پھینکا کہ دیوار
کے ساتھ وہ چل نہ سکے۔

عن جابر بن عبد الله
رضی اللہ عنہ قال رش قبر النبي
صلی اللہ علیہ وسلم الماء رشاً
وكان الذي رشه بلال
ابن رباح رضی اللہ عنہ بقربة بدأ
من قبل رأسه من شقه
الايمن حتى انتهى الى جليبه
ثم ضرب بالماء الى الجدار
لم يقدر على ان يدور
من الجدار - (رواه الواقدي)
(تاریخ ابن کثیر ج ۵ ص ۲۷۱)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

انا امشى اذ سمعت
صوتا من السماء
فرفعت بصري فاذا الملك
الذى جاءنى بحراء
جالس على كرسى
بين السماء والارض
فرعبت منه فرجعت
فقلت زملوني
زملوني فانزل الله
تعالى

"يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
قُمْ فَأَنْذِرْ ۚ وَرَبُّكَ
فَكْبَرٌ ۚ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ
وَالرُّجُزَ فَاهْجُزْ ۚ"
فحسمى الوحي
وتتابع -

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۳)

فرمایا کہ میں چلا جا رہا تھا کہ میں
نے اچانک آسمان سے ایک
آواز سنی۔ میں نے آنکھ اٹھا کر
دیکھا تو وہ فرشتہ جو غارِ حراء
میں آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین
کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا
آیا تو میں نے گھر آکر فرمایا مجھے
کبل اڑھا دو مجھے کبل اڑھا دو۔
مجھے کبل اڑھا دو۔

پھر (اسی حال میں) اللہ تعالیٰ نے
یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اے کپڑا
اڑھنے والے اٹھ کھڑا ہو۔ پھر
رکافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب
کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے
کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے
انگ رہو پھر وحی کی آمد خوب
گرم ہو گئی اور پے درپے شروع
ہو گئی۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَنْتَ بِمَدَدِهِ عَلَىٰ كُلِّ مَسْئَلَةٍ
رَبِّهِمْ وَخَلَقْتَ رَجُلًا نَسَبَكَ وَبَنَيْتَ لَكَ مِنْهُ لِقَاءَ الْإِنْسَانِ الْكَافِرِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ وَالْمُؤْمِنَةِ

مَرْغَمَةٌ

نَسَبُكَ ﷺ
صَلَّىٰ وَبَارَكْ ﷺ

ہمارے سردار کفر کو ذلیل کرنے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

صحاح جوہری میں آیا ہے کہ
حضور اقدس ﷺ نے فرمایا
مجھے کفر کو ذلیل کرنے کے لیے بھیجا
گیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ خاک آلودہ ہو اور
یہ لفظ ذلت کے معنی میں استعمال
ہوتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ رفح مکہ کے دن مکہ میں
داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد
تین سو ساٹھ بیت نصب تھے۔ آپ چھٹی
سے انکو مار رہے تھے۔ اور یہ آیت
پڑھتے تھے حتیٰ آگیا اور بل جاتا باطرح
کہ نہ آیت ہوگا اور نہ ہی لوٹ کر آئے گا مخلصاً

وقع فی الصحاح ج ۱ ص ۲۹۱
بعثت مرغمة ای مذلاً للكفر
حتى يلتصق بالزغام وهو
بالفتح التراب ثم استعمل
فی الذل والعجز۔

(سبل الہدی ج ۱ - ص ۶۲۲)
عن عبد الله بن مسعود
رضی اللہ عنہ قال دخل النبي
ﷺ مكة وحول البيت
ستون وثلاث مائة نصب فجعل
يطعنها بعود في يده ويقول
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل
كازهوقا۔ جاء الحق وما يبدى
الباطل وما يعيد۔ (صحیح البخاری ج ۲ ص ۶۸۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآيَاتِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ
 وَمَنْ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ وَمَنْ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ وَمَنْ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ وَمَنْ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ وَمَنْ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ وَمَنْ وَكَلَّمَكَ اللَّهُ

سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ مَلِكُ فَفُوحِ

ہمارے سردار اُونچی شان والے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
 ” اور ہم نے آپ کی خاطر آپ
 کا آواز بلند کیا۔“
 حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما کے اس
 فرمان ” وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ “
 کے متعلق فرماتے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ
 نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں
 بلند فرمایا ہے۔ کوئی خطیب اور کلمہ گو
 اور نمازی ایسا نہیں جو یہ (گوہی)
 نہ پکارتے۔ میں گوہی دیتا ہوں
 کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں
 اور میں گوہی دیتا ہوں کہ حضرت
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہیں۔

اشارہ الی قوله :
 ” وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ “
 (سورۃ الانشراح ۴)
 عن قتادہ رضی اللہ عنہما
 فی الایۃ (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)
 قال رفع الله ذكره
 فی الدنيا والآخرۃ
 فلیس خطیب و متشہد
 صاحب صلوة الاینادی
 اشہد ان لا اله الا
 الله و اشہد ان محمداً
 رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم)۔
 (رواہ ابن ابی حاتم - الخصائص الکبریٰ
 ج ۲ - ص ۱۹۶)

رَبَّنَا نَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین یا رب العالمین ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِّنْ اللَّهِ
وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ

سَبِّحْهُ مَرَّةً

ہمارے سردار صاحب مروت درودِ سلام بھیجے اللہ آپ کے

اے اللہ کے رسول ہم پر کرم فرمائیے۔ کیونکہ آپ صاحب مروت ہیں۔ جس کی ہم امید کرتے ہیں۔

کسی نے الاحنف سے مروت کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا فراخ اخلاق کو لازم پکڑ اور بُرے اخلاق سے رُک جا۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ مروت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ظاہری مروت اور وہ تو مالدار ہے۔ اور مروت باطنی اور وہ زنا سے بچنا۔

”امنن علينا رسول الله في كرم فانك المرء نرجوه وندخر“
(شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ۱ ص ۱۲۲)

سأل رجل الاحنف عن المروءة فقال عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح۔
(سبل الهدى ج ۱ ص ۶۳۱)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه المروءة مروءتان مروءة ظاهرة وهي الرئاسة ومروءة باطنه وهي العفاف۔
(سبل الهدى ج ۱ ص ۶۳۱)

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ

(سورة البقرة ۱۲۹)

ای بطہرہم من الشریک
ووضرا لآتام۔

سبل الہدی ج ۱۔ ص ۶۳۳

ای بطہرہم
من الشریک و سائر
المعاصی۔

(فتح القدیر ج ۱۔ ص ۱۲۳)

عن زید رضی اللہ عنہ
قال (و یزکیہم
و یعلّمہم الکتاب
والحکمة) ایضاً کما
علم هؤلاء یزکیہم بالکتاب
والاعمال الصالحة
و یعلّمہم الکتاب
والحکمة۔

(تفسیر ابن جریر طبری ج ۲۸ ص ۹۲)

ان لوگوں کو آپ کی آیتیں پڑھ
پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو آسمانی
کتاب کے معنی کی تشریح کی تعلیم
دیا کریں اور ان کو پاک کر دیں۔
بلاشبہ آپ ہی ہیں غالب القدرت
کامل الانتظام۔

یعنی انہیں شرک اور گناہوں
سے پاک کریں۔

یعنی یزکیہم کا معنی یہ
ہے۔ کہ وہ رسول ان کو شرک
اور دوسرے گناہوں سے پاک
کرے۔

حضرت زید رضی اللہ عنہ آیت
(و یزکیہم و یعلّمہم
الکتاب والحکمة)
کے بارے میں فرماتے ہیں جب طرح
آپ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم
دیتے ہیں۔ ان کا کتاب اللہ اور
نیک اعمال سے تزکیہ فرماتے
ہیں اور ان کو کتاب اور دانائی
کی تعلیم دیتے ہیں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَكَمَّةُ الْآبَاءِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدَاكَ وَمَوْلَاكَ وَجَسَدِيكَ مُحَمَّدًا عَبْدَكَ وَرَسُولَكَ
 وَوَعْدَ وَعْظِكَ وَوَجْهَ كُنُوزِكَ وَوَعْدَ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

سَيِّدِكَ لَمْزُ مَرْمَرِ

ہمارے سردار صاحب زمزم درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن انس بن مالك
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ ابُو ذَرٍّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْدُثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجٌ
 عَن سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا
 بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جَبْرِيْلُ
 عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَجَ صَدْرِي
 ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمٍ
 ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ
 ذَهَبٍ مَمْتَلِيٍّ حِكْمَةً
 وَإِيمَانًا فَافْرَغَهُ فِي
 صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ (المحدث
 صحيح البخاري ج ۱ ص ۵)

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بیان کرتے تھے کہ حضور
 اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ ایک
 شب میرے گھر کی چھت پھٹ
 گئی اور میں مکہ میں تھا۔ پھر حضرت
 جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَامُ اترے اور انہوں
 نے میرے سینے کو چاک کیا پھر اُسے
 زمزم کے پانی سے دھویا پھر ایک
 طشت سونے کا حکمت و ایمان
 سے بھرا ہوا لائے اور اُسے میرے
 سینے میں ڈال دیا پھر سینہ کو
 بند کر دیا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
الَّذِي يَصَلِّ عَلَى رَسُولِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجِبْرِتِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَفْوَةً مَعَهُ كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ
رَبُّهُمُ الْخَلْقِ وَرَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ

سَيِّدِنَا
مُزْمَلٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار کالی کھلی والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”اے کپڑوں میں لپٹنے والے“

حضرت عبداللہ بن عباس
اور حضرت ضحاک اور سدی
رضی اللہ عنہما یاتھا المزممل
کا معنی یہ کرتے ہیں۔ کہ اے
سونے والے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما فرماتے
ہیں۔ کپڑا اوڑھنے والے۔

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہما فرماتے
ہیں جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور
آقدس ﷺ کھلی اوڑھے ہوئے تھے۔

إشارة الى قوله ،
”يَا أَيُّهَا الْمُزْمَلُ“

(سورة المزممل ۱)
قال ابن عباس
والضحاک والسدى
رضی اللہ عنہما (يَا أَيُّهَا الْمُزْمَلُ)
يعنى يا ايها الثائم۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۲)
قال قتادة رضی اللہ عنہما
المزممل في ثيابه۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۲)
قال ابراهيم النخعي
رضی اللہ عنہما نزلت وهو مزممل
بقطفية۔ (تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۲۲۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَخْرِ النَّبِيِّ الْأَخْيَرِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى كُلِّ مَتَلَبِّهِمْ
وَعَلَى خَلْقِكَ وَجَمِيعِ فَسْخِكَ وَتَمَتُّعِكَ وَمَعَادِ خَلْقِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَافِرُ الْفَاسِقُ وَالْمُتَكَبِّرُ الْبُغْيُ

سَيِّدِكَ الْمَعْمَرِ

ہمارے سردار عم دور کرنے والے دُور دُور بھیجے اللہ آپ

یہ اسم مبارک آپ ﷺ کا اس لیے رکھا گیا۔ کیونکہ آپ نے شک کے اندھیرے کو یقین کے نور سے بدل دیا۔ اور مضبوط دین سے شرک کے اندھیروں کو مٹا دیا اور آپ نے پرہیزگاروں کے دلوں سے غفلت کے پردوں کو اٹھا دیا۔

حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے دربار نجاش میں کہا کہ اے بادشاہ ہم جہالت والی قوم تھے۔ ہم بتوں کو پوجتے تھے اور مردار کھا جاتے تھے اور بدکاریاں کرتے تھے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق تھے۔

سمی بذلك لانہ
جلی ظلمة الشك
بنور اليقين و اماط
غمة الشرك عن الدين
المتين و رفع حجب
الغفلة عن قلوب
المتقين۔

(سبل الہدی ج ۱ ص ۱۲۳)

قال جعفر بن
ابن طالب رضی اللہ عنہما ایھا
الملك کنا قوما اهل
جاهلية نعبد الاصنام
وناكل الميتة و نأقی
الفواحش و نقطع الارحام

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امين امين يا رب العالمين ط

و نَسِي الْجَوَارِ وَيَا كَل
الْقَوِي مَنَا الضَّعِيفِ فَكُنَا
عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ
اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مَنَّا نَعْرِفُ
نَسَبَهُ وَصَدَقَهُ وَأَمَانَتَهُ
وَ عَفَا فَا فَدَعَا نَا
إِلَى اللَّهِ لِنُوحِدَهُ
وَ نَعْبُدَهُ وَ نَخْلَعُ مَا
كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَ
آبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ
مِنَ الْحِجَارَةِ وَالْأَوْثَانِ -
الخ...

(الروض الانفج ۲ ص ۸۷)

عن ابى بكر بن محمد رضي الله عنه
قال نهش عبد الله بن سهل بن
بحريرات الافاعي فقال رسول الله
صلوات الله عليه اذهبوا به الى عمارة بن
حزم رضي الله عنه فليرقه قالوا يا
رسول الله صلوات الله عليه انه يموت
قال وان تذهبوا به الى عمارة
ابن حزم رضي الله عنه فرقاه فشفاه
الله تعالى - (خصائص الكبرى ج ۲ ص ۱۷۵)

اور پڑوسیوں کے حق میں بُرے
تھے۔ ہم میں جو طاقت و رہنمائی
کمزور کو کھا جاتا تھا۔ ہماری یہی
حالت رہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے
ہماری طرف رسول بھیجا جس کے
خانہ دان کو ہم جانتے ہیں۔ اور
اس کی سچائی اور امانت و عفت
کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں
اللہ کی طرف بلا یا تا کہ ہم اس
کی توحید کو سمجھیں اور اس کی
عبادت کریں اور جن تپھروں اور
بتوں کی عبادت ہم اے اباؤ
اجداد کرتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔

حضرت ابو بکر بن محمد رضي الله عنه سے
روایت ہے کہ حضرت عبد اللہ بن سہل کو
مقام حرمہ میں ایک سانپ نے ڈس لیا۔ آپ
حضرت اقدس صلوات الله عليه نے فرمایا اس کو
حضرت عمار بن حرمہ کے پاس جاؤ وہ اسے
دم کریں گے انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول
وہ تو مر جائیگا۔ آپ نے فرمایا اس کو حضرت عمار بن حرمہ
کے پاس جاؤ وہ اُسے اُنکے پاس لے گئے
انہوں نے دم کیا اللہ تعالیٰ نے اُسے شفا بخشی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 مَا شَاءَ اللَّهُ لَكُمْ يَا أُمَّةَ الْآلَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِمَسَائِمِ

ہمارے سردار قیمت ادا کر نیوالے درود سلام بھیجے لائے

عن عائشة رضي الله عنها
 في حديث الهجرة فلبث
 رسول الله ﷺ
 في بني عمرو بن
 عوف بضع عشرة ليلة
 و اسس المسجد الذي
 اسس على التقوى
 و صلى فيه رسول الله
 ﷺ ثم ركب
 راحلته فسار يمشي
 معه الناس حتى
 برکت عند مسجد
 الرسول ﷺ بالمدينة
 وهو يصلي فيه

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
 سے ہجرت (مدینہ) کی حدیث میں
 مروی ہے۔ پھر حضور اقدس
 ﷺ دس رات کچھ اوپر بنی عمرو
 بن عوف کے ہاں رہے۔ اور آپ
 نے اس مسجد کی بنیاد ڈالی جس کی
 بنیاد تقویٰ پر ہے اور اس میں
 حضور اقدس ﷺ نے نماز پڑھی
 بعد اس کے آپ اپنی سواری پر
 سوار ہو گئے اور چلے۔ لوگ بھی
 آپ کے ہمراہ چل رہے تھے۔
 یہاں تک کہ مسجد رسول خدا
 ﷺ کے پاس وہ اونٹنی بیٹھ
 گئی اور اس وقت وہاں کچھ

مِنَّا نَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

يومئذ رجال من
المسلمين وكان
مريداً للتمر لسهيل و
سهل غلامين يتيمين
في حجر اسعد بن زدرارة
ﷺ فقال رسول الله
ﷺ حين بركت
به راحلته هذا
ان شاء الله المنزل
شود دعا رسول الله
ﷺ الغلامين
فساومهما بالمربد
ليتخذة مسجداً فقالا
بل نهبة لك يا
رسول الله ﷺ فابى
رسول الله ﷺ
ان يقبله منهما هبة حتى
ابتاعه منهما ثم بناه مسجداً
(الحديث) (صحيح البخاري ج ۵ ص ۵۵)

لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ اور وہ
زمین سهیل اور سهل دو یتیم بچوں
کے چھوٹا روں کی کھلیاں تھی۔ یہ
دونوں یتیم بچے حضرت اسعد بن
زرارہ رضی اللہ عنہما کی تربیت میں تھے
تو حضور اقدس ﷺ نے فرمایا
جبکہ آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ تو
انشار اللہ ہی ہمارا مقام ہوگا۔ بعد
اس کے حضور اقدس ﷺ نے
دونوں لڑکوں کو بلوایا اور ان سے
اس کھلیاں کی قیمت پوچھی تاکہ
آپ اسے مسجد بنا لیں۔ ان دونوں
نے کہا ہم قیمت نہ لیں گے
بلکہ ہم یا رسول اللہ ﷺ یہ
زمین آپ کو ہبہ کرتے ہیں۔ مگر
حضور اقدس ﷺ نے بطور ہبہ
کے لینا منظور نہیں کیا۔ بلکہ بقیعت
ان سے لے لیا۔ بعد اس کے
آپ نے اسے مسجد بنا دیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا كَانَ لِلّٰهِ لَوْحَةٌ اِلَّا كِتَابٌ
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَلَى كُلِّ سَلَامٍ اَنْ
رَبِّهِمْ وَخَلْقِكَ وَجَمِیْعِ عَمَلِكَ وَمَا كُنَّا لَكَ اَسْتَغْفِرُكَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

تَسْبِیْحُ رَبِّكَ

ہمارے سردار تسبیح کرنے والے دُرد و سلام بھیجے اللہ اپنے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے
رہیے۔ اور نمازیں پڑھنے والوں
میں رہیے۔“
”سو آپ صبر کیجئے بیشک اللہ
کا وعدہ سچا ہے اور اپنے (اس)
گناہ کی رحمت کو مجازاً گناہ کہہ دیا)
مُعافی مانگیئے اور صبح و شام اپنے رب
کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے۔“
”اور آپ اپنے رب کی راس تجویز
پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری
حفاظت میں ہیں اور اٹھتے وقت
مجھ سے یا سونے سے) اپنے رب
کی تسبیح و تحمید کیا کیجئے۔“

اشارة الى قوله
” فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ
مِّنَ السَّاجِدِينَ ”
(سورة الحجر ۹۸)
” فَاصْبِرْ اِنَّ
وَعَدَ اللّٰهُ حَاقِثًا وَّ
اَسْتَغْفِرْ لِدُنُوبِكَ وَاَسْبِّحْ
بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَّ
الْبَكْرِ ” (سورة المؤمن ۵۵)
” وَاَصْبِرْ لِحُكْمِ
رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا
وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
حِيْنَ تَقُومُ ”
(سورة الطود ۲۸)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِیْمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ط

دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ لَا
عَلِمْتُكَ اعْظَمُ سُورَةَ
وَالْفَتْرَانَ قَبْلَ اَنْ
اُخْرَجَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ
ﷺ لِيُخْرَجَ فَذَكَرَتْ لَهُ -

(صحيح البخاری ج ۲ - ص ۶۶۹)

عن ابی هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ
الطُّورِ اِذْ نَادَيْنَا قَالَ
نُودُوا يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ
ﷺ اسْتَجِبْتُ لَكُمْ
قَبْلَ اَنْ تَدْعُوْنِي
وَاعْطَيْتُمْ قَبْلَ اَنْ
تَسْأَلُوْنِي -

(رواه ابو نعیم الخصال الكبرى ج ۲ ص ۲۴)

عن ابن عباس
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مَسَحَ
رَسُولُ اللهِ ﷺ رَاسِي
وَدُعَا لِي بِالْحِكْمَةِ فَلَمْ
تَخْطُنِي دَعْوَةُ رَسُولِ اللهِ
- (الخصال الكبرى ج ۲ - ص ۱۶۸)

تم اللہ اور اس کے رسول کا حکم
مانو جس وقت بلائیں۔ پھر فرمایا
مسجد سے باہر جانے سے پہلے میں
تجھے قرآن کی ایک بڑی سورت
بتاؤں گا۔ جب آپ باہر آنے
لگے تو میں نے یاد دلایا۔

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
روایت ہے۔ وہ اس آیت
روما كنت بجانب الطور
اذ نادينا، کی تفسیر میں
فرماتے ہیں۔ ان کو آواز آئی۔ کہ
حضرت محمد ﷺ کی اُمت کی
دُعاؤں کو ان کے دُعا کرنے سے
قبل ہی قبول فرماؤں گا۔ اور تمہارا
سوال کرنے سے پہلے میں تمہیں
عطا فرماؤں گا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس ﷺ
نے میرے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا اور
میرے لیے دانائی کی دُعا فرمائی۔
آپ ﷺ کی دُعا ذرہ برابر
خطانہ ہوتی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ
الَّذِي لَا يَلِيكَ شَيْءٌ وَسِعَ كُرْسِيُّكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَوَجْدُكَ
السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ لَا تَتَّخِذُ الْوَجْدَ حَسَبًا وَتَعْلَمُ مَا فِي
الْبُحُورِ وَتَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
الَّذِي لَا يَلِيكَ شَيْءٌ وَسِعَ كُرْسِيُّكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَوَجْدُكَ
السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ لَا تَتَّخِذُ الْوَجْدَ حَسَبًا وَتَعْلَمُ مَا فِي
الْبُحُورِ وَتَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

سَيِّدُكَ مُسْتَجِيبٌ

ہمارے سردار فرمانبردار درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”جن لوگوں نے اپنے رب کا
کہنا مان لیا ان کے واسطے اچھا
بدلہ ہے۔“

”اور جن لوگوں نے کہ اپنے رب
کا حکم مانا اور وہ نماز کے پابند ہیں۔
اور ان کا ہر کام جس میں بتعین
نص نہ ہو آپس کے مشورے ہوتا ہے۔“
”جس دن وہ اللہ تم کو بلائے گا
تو پھر تم اس کی حمد پکارتے
اٹھو گے۔“

استجاب سے اسم فاعل کا
صیغہ استجاب اجاب کے معنی
میں۔

إشارة إلى قوله ،
”لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا
لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى ط“

(سورة الرعد ۱۸)
”وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا
لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ“
(سورة الشورى ۳۸)

”يَوْمَ يَدْعُوكُمْ
فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ“
(سورة بنی اسرائیل ۵۲)

المطبيع اسم فاعل من
استجاب بمعنى اجاب .
(سبل الہدی ج ۱ ص ۶۳۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا
 اللَّهُ مَصْرَفٌ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا
 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

سِرِّكَ لِمَسْجِدِهِ

ہمارے سرکار پناہ پکڑنے والے درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت عبد اللہ بن عباس
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ
 حجۃ الوداع کے وقت عرفات
 میں جو دعائیں کہیں اس میں یہ دعا
 بھی تھی۔ اے اللہ بیشک تو میری
 کلام کو سن رہا ہے۔ اور میری جگہ کو
 دیکھ رہا ہے اور میرے پوشیدہ اور
 ظاہر کو تو جانتا ہے۔ تجھ پر میری کوئی
 بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور میں
 مصیبت زدہ محتاج فریادی پناہ جو
 ہراساں اقرار کرنے والا ماننے والا
 اپنے گناہ کا ہوں۔

عن ابن عباس
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ فِيما
 دَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ
 اللَّهُمَّ أَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي
 وَتَرَى مَكَانِي وَتَعْلَمُ
 سِرِّي وَعَلَانِيَتِي وَلَا
 يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءٌ
 مِنْ أَمْرِي أَنَا الْبَاسُ
 الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمَسْتَجِيرُ
 الْوَجِلُ الْمَشْفُوقُ الْمَقْرَأُ الْمَعْتَرَفُ
 بِذَنْبِهِ - (الحديث)

(رواه الطبرانی / تاريخ ابن كثير ج ۵ ص ۱۴۵)

رَبَّنَا نَقْتُلْ مِمَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ خَلِّصْ النَّبِيَّ الْأَمِينُ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِهِ وَعَجْزِهِ بِعَدْوَى كُلِّ مَلَكٍ وَأَنَّ
وَعَدَّ وَخَلَقَ وَجِيءَ لِقَائِكَ وَتَشْرِيكَ وَرَمَادَ عَذَابِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

سَيِّدِكَ الْمُسْتَحْيِ

ہمارے سردار جیا کرنے والے دُرُودِ سَلامِ بَہِجِ اللہِ اِپنی

إشارة إلى قوله:

”إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ
مِنْكُمْ“ (سورة الاحزاب ۵۲)

عن عمران بن حصين
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ
ﷺ الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ
(أدب المفرد - ص ۱۹۰)

عن ابى مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ
ان مما ادرك الناس
من كلام النبوة الاولى
اذالم تستحي فاصنع ما شئت -
(أدب المفرد - ص ۱۹۰)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”تمہارا یہ فعل نبی کو تکلیف
پہنچاتا ہے۔ وہ تم سے حیا
کرتے ہیں۔“

حضرت عمران بن حصین رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا احیاء بھلائی کے
سوا کچھ نہیں لاتی۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا پہلی نبوتوں کے
کلام میں سے لوگوں نے جو کچھ پایا وہ
یہ ہے کہ جب توجیہ نہ کرے تو جو تیری
مرضی ہے کر۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا كَانَ لِلّٰهِ لَوْحَةٌ اِلَّا فِيْ يَمِيْنِهِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
وَمَنْ تَخَلَّفَ مِنْ اُمَّتِكَ وَتَتَّبَعَكَ مِنْ اُمَّتِكَ وَتَتَّبَعَكَ مِنْ اُمَّتِكَ وَتَتَّبَعَكَ مِنْ اُمَّتِكَ

سْتَرْجِعْ سَيِّئَاتِكَ

ہمارے گنہگار مہیبت میں انا اللہ پڑھنے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”کہ ان پر جب کوئی مصیبت
آپڑتی ہے تو کہتے ہیں۔ کہ ہم تو
رح مال و اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ
ہی کی ملکیت ہیں۔ اور ہم سب
ر دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس
جانے والے ہیں۔“

حضرت جابر بن عتیک
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
حضرت اقدس ﷺ حضرت عبد اللہ
بن ثابت رضی اللہ عنہما کی بیمار پرسی
کرنے تشریف لے گئے۔ آپ
نے اس کو ایسی حالت میں پایا
کہ وہ درد و الم سے بے ہوش

اشارہ الی قوله:

”الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا
إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ“

(سورة البقرة ۱۵۶)

عن جابر بن
عتیک رضی اللہ عنہما ان
رسول اللہ ﷺ
جاء ليعود عبد الله
ابن ثابت فوجده
قد غلب فصاح
به فلم يجيبه فاسترجع

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

رسول الله ﷺ
وقال غلبنا
عليك يا ابا الربيع.

(الحديث)

(موطاء الامام مالك ص ۸۱)

عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال قال النبي
ﷺ اعطيت امتي
شيئا لو يعطه احد
من الامم ان يقولوا
عند المصيبة انا لله
وانا اليه راجعون.

(رواه الطبراني - الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۲۰۶)

عن ام سلمة رضي الله عنها
قالت قال رسول الله
ﷺ اذا اصاب احدكم
مصيبة فليقل انا لله وانا
اليه راجعون اللهم عندك
احتسب مصيبتى فاحبرني
فيها وابدل لي بها خيرا منها.

(سنن ابى داود ج ۲ ص ۲۹)

تھے۔ آپ نے اسے اونچی آواز
سے بلایا۔ اُس نے کوئی جواب نہ
دیا تو آپ ﷺ نے
اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ
پڑھا اور فرمایا اے ابو ربیع ہم
تجھ پر بے بس ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس
رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ
حضور اقدس ﷺ نے فرمایا
میری امت کو ایک ایسی چیز
عطا ہوئی ہے۔ جو اگلی امتوں کو
نہیں ملی وہ یہ ہے کہ وہ مصیبت
کے وقت اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ
رَاجِعُونَ پڑھے۔

حضرت ام سلمہ رضي الله عنها سے
روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے
فرمایا جب تم میں سے کسی پر مصیبت پڑے
تو یہ پڑھا کہے۔ ہم اللہ ہی کیلئے ہیں۔
اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ اے
اللہ تیرے ہاں اپنی مصیبت پر ثواب کی
امید رکھتا ہوں۔ اس مصیبت میں مجھے
اجر عطا فرما اور مجھے اس کا اچھا بدل عطا فرما۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ • وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لِرَاسْمٍ قَدِيمٍ • وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ • وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ لِرَاسْمٍ قَدِيمٍ •

سَبِّحْهُمُ

ہمارے سردار رحمت طلب کریں اور دُعا بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا۔ سچائی کا قصد کرو۔ اور اللہ سے قربت حاصل کرو۔ اور (اس طرح) ثواب کا مژدہ پاؤ کہ کسی کی عبادت ربدونِ فضلِ الہی (اس کو جنت میں داخل نہ کر سکے گی۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کی عبادت بھی۔ فرمایا ہاں نہ میری عبادت۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی مغفرت و رحمت میں ڈھانپ لے (تب کریگی)

عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سادوا وقاربوا وابشروا فانما لا يدخل احدا الجنة عمله فتالوا ولا انت يا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال ولا انا الا ان يتعمدني الله بمغفرة ورحمة. (صحيح البخاري ج ۲ ص ۹۵۷)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 وَبَعْدُ فَحَدَّثَكَ رَجُلٌ أَنَّكَ تَنَزَّلُ فِيهِ وَمَا كَانَ يَسْتَوِي فِيهِ لَكَ إِلَّا الْأَمْرُ بِالْعِزِّ وَالْحَيْرَةُ وَالْحَيْرَةُ

سَيِّدِنَا مُنَسَّرُ رُزُقِ

ہمارے سردار اللہ سے روزی طلب کرنے والے دو دو سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن علي بن
 أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ
 النصف من شعبان
 فقوموا ليلها وصوموا
 نهارها فان الله ينزل
 فيها الغروب الشمس إلى
 سماء الدنيا فيقول الامن
 مستغفري فاغفر له الامستدق
 فارزقه الامبتلى فاعافيه
 الاكذا الاكذا حتى
 يطلع الفجر -

(سنن ابن ماجه ص ۹۹)

حضرت علی بن ابوطالب
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے۔ کہ
 حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جب
 شعبان کی پندرھویں رات ہو۔ تو
 رات کو نفل پڑھو اور دن کو روزہ
 رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ سورج غروب
 ہوتے ہی پہلے آسمان پر نزول فرما ہو
 جاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔ ہے کوئی
 معافی طلب کرنے والا میں اسکو بخش
 دوں ہے کوئی رزق کا طالب میں
 اُسے روزی دوں۔ ہے کوئی بیمار میں
 اُسے تندرستی عطا کروں۔ ہے کوئی
 ایسا۔ ہے کوئی ایسا۔ جیسی کہ فجر طلوع
 ہو جاتی ہے۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

شروع کر دی۔ اس کو آپ
ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے جب آپ
کسی تسبیح والی آیت کو پڑھتے تو
سُبْحَانَ اللَّهِ پڑھتے اور جب کسی
عذاب والی آیت کو پڑھتے تو
(عذاب سے) پناہ مانگتے۔ پھر
آپ نے رکوع کیا اور اس میں
سبحان ربی العظیم پڑھا
آپ کا رکوع تقریباً آپ کے
قیام کے برابر تھا۔ پھر آپ نے
سمع الله لمن حمده
کہا اور اتنی دیر ہی کھڑے رہے۔
جتنا آپ کا رکوع تھا۔ پھر آپ
نے سجدہ کیا اور اس میں سبحان
ربی الاعلیٰ کہا آپ کا
سجدہ بھی قیام جتنا تھا۔
یعنی الفاظ کو ایک دوسرے
سے الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔

سبح و اذا مر
بسؤال سأل
و اذا مر بتعوذ تعوذ
ثم ركع فجعل
يقول سبحان
رب العظیم
فكان ركوعه نحواً
من قيامه ثم
قال سمع الله لمن حمده
ثم قام طويلاً
تقريباً مما ركع
ثم سجد فتال
سبحان ربی الاعلیٰ
فكان سجوده قريباً
من قيامه -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۲۹۷)

(ترسیل، یعنی قطع الکلمات
بعضها عن بعض -

(مجمع البحار ج ۲ ص ۱۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ سَلِّمْ وَسَلِّمْ
وَمَهْرًا وَخَلِّمْ رَوْحَ نَسَائِكُمْ وَنَسَائِكُمْ وَمَهْرًا عَلَى الْكَافِرِينَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْكَافِرِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَيِّدُكَ مُسْعِدُكَ

ہمارے سردار پناہ حاصل کرنے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف؛
”تو جب آپ قرآن پڑھنا
چاہیں تو شیطان مردود سے
اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔“
علامہ واحدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے
ہیں کہ فقہاء امت کا اس بات
پر اجماع ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت
سے پہلے اعوذ پڑھا جائے۔
اور فاستعد باللہ کا معنی یہ
ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سوال
کر کہ وہ تجھے شیطان مردود کے
دوسوں سے پناہ میں رکھے۔

إشارة إلى قوله:
”فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيمِ“ (سورة النحل ۹۸)
قال الواحدی رحمۃ اللہ علیہ
وهذا اجماع الفقهاء
ان الاستعاذة قبل القراءة.
رفع القدير ج ۳ - ص ۱۸۶
ومعنى فاستعد بالله
إسأله سبحانه ان يعيدك
من الشيطان الرجيم
ای من وساوسه -
رفع القدير ج ۳ - ص ۱۸۶

مِنَّا نَقْبَلُ مِنَّا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا عَذَابٌ عَظِيمٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَصَلِّ عَلَىٰ سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ
وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ لَمْ يَسْتَغْفِرْ لِنَفْسِهِ

ہمارے سردار بخشش مانگنے والے دُور و سلا بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا کیجئے۔“

”اور آپ استغفار فرمائیے! بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں۔ بڑے رحمت والے ہیں۔“

”سو آپ صبر کیجئے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اپنے اس گناہ کی رحمت کو مجازاً گناہ کہہ دیا) معافی مانگیے۔“

اشارۃ الی قوله ،

” فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ ”

(سورة العنكبوت ۱۵۹)

” وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ ط
إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا ”

(سورة النساء ۱۰۶)

” فَاصْبِرْ إِنَّ
وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ
لذُنُوبِكَ ”

(سورة المؤمن ۵۵)

کھڑے ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ
 کے رسولؐ مال تباہ ہو گئے اور
 راستے بند ہو گئے۔ آپ اللہ سے
 دعا کریں کہ ہم پر بارش برسائے چنانچہ
 حضور اقدس ﷺ نے دونوں
 ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی۔ کہ اے
 اللہ ہماری فریاد رسی فرما۔ اے
 اللہ ہماری فریاد رسی فرما۔ اے
 اللہ ہماری فریاد رسی فرما۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس
 ﷺ جب کبھی مصیبت یا کسی
 غم میں مبتلا ہوتے تو یہ وظیفہ پڑھتے
 کہ اے زندہ اور قائم میں تیری
 رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا ثُمَّ
 قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ
 وَانْقَطَعَتِ السَّبِيلُ
 فَادْعَ اللَّهُ أَنْ يَغِيثَنَا
 قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ
 اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا
 اللَّهُمَّ اغْنِنَا. (الحديث)

(شرح السنة للبغوی ج ۳ ص ۲۱۲)

عن عبد الله بن
 مسعود رضي الله عنه ان النبي
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا
 نَزَلَ بِهِ هُمٌّ أَوْ غَمٌّ قَالَ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ
 اسْتَغِيثُ.

(المتدرک للحاکم ج ۱ ص ۵۰۹)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ لِأَخِيهِ الْأَبَا لَهَبٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَنْهُمْ وَعَنْ مَن تَلَّحَّهُمْ
وَمَنْ تَلَّحَّهُمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَنْهُمْ وَعَنْ مَن تَلَّحَّهُمْ

سَيِّدِكَ مُسْتَقِيمٌ

ہمارے سردار سیدھی راہ پر درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”تو آپ جس طرح کہ آپ کو حکم
ہوا ہے مستقیم رہیے اور وہ لوگ بھی
جو کفر سے توبہ کر کے آپ کی ہمراہی
میں ہیں اور دائرہ سے ذرا مت نکلو“
”سو آپ اسی طرف ران کو برابر
بلتے رہیے اور جس طرح آپ کو
حکم ہوا ہے (اس پر) مستقیم رہیے“
حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ صراط مستقیم
سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے بعد آپ کے دونوں
ساتھی (حضرت ابو بکر و عمر رضم) ہیں۔

اشارہ الی قولہ:
”فَاسْتَقِيمُوا كَمَا
أُمِرْتُمْ وَمَنْ تَابَ
مَعَكُمْ وَلَا تَطْفُوا ط“
(سورۃ ہود ۱۱۲)
”فَلِذَلِكَ فَادْعُ ج
وَاسْتَقِيمُوا كَمَا أُمِرْتُمْ“
(سورۃ الشوریٰ ۱۵)
عن ابن العالیہ
رضی اللہ عنہ انہ قال
ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وصاحباہ من بعدہ -
(فتح القدیر ج ۱ - ص ۱۲)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین یا رب العالمین ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتُمْ بِعَدْوِي كُلِّ تَعْلَمُ أَنَّهُ
رَبُّكَ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَبَّنَا كَمَا لَكَ اسْتَوْفَى اللَّهُ النَّبِيَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَأَكْرَمُ الْأَنْبِيَاءِ

سَبَّحَ اسْمُكَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتُمْ بِعَدْوِي كُلِّ تَعْلَمُ أَنَّهُ رَبُّكَ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرَبَّنَا كَمَا لَكَ اسْتَوْفَى اللَّهُ النَّبِيَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ وَأَكْرَمُ الْأَنْبِيَاءِ

ہمارے سردار سیدھے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور اقدس ﷺ نے مجھے فرمایا
کہ کہہ اے اللہ مجھے ہدایت فرما اور مجھے سیدھا
رکھ اور دل میں ہدایت سے مراد سیدھے راستے
کا خیال رکھ اور سیدھا رکھنے سے دل میں
تیر جیسا سیدھے کا خیال رکھ۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
یہ دعا کیا کرتے تھے..... اے میرے رب
میری توبہ قبول فرما۔ اور میرے گناہ مہو دے
اور میری دعا کو قبول فرما۔ اور میری دلیل کو
ثابت فرما اور میرے دل کو ہدایت فرما۔
اور میری زبان کو سیدھا فرما اور میرے
دل کی میل کو دور فرما۔

عن علی رضی اللہ عنہ
قال قال لي رسول الله
ﷺ قل اللهم اهدني و
سددي واذكر بالهداية هداية
الطريق واذكر بالسداد تسديدك
السهم - (سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۲۱۲)
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
قال كان النبي ﷺ
يدعو... رب تقبل
توبتي واغسل حوبتي
واجب دعوتي وثبت حجتي
واهد قلبي وسدد لساني
واسل سخيمة قلبي -

(سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۱۲)

رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرَكَ الْآيَاتُ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعِزِّمْ بِعَدُوِّ كُلِّ مُتْلِمٍ لَكَ
رَبِّعَهُ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَبَشَرِيَّتِكَ وَمَنَادِ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

سَيِّدِكَ
مُسْتَجَابِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار رات کو معراج کرائے گئے دُودِ سَلَامِ بَحْجِ الْآيَاتِ

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”وہ پاک ذات ہے جو اپنے
بندہ (حضرت محمد ﷺ) کو
شب کے وقت مسجد حرام یعنی
مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ یعنی
بیت المقدس تک جس کے
ارد گرد یعنی ملک شام میں ہم
نے برکتیں کر رکھی ہیں لے گیا تاکہ
ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت
دکھلا دیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ بڑے
سننے والے بڑے دیکھنے والے ہیں۔“
یہ الاسراء فعل سے مفعول
کا صیغہ ہے۔

اشارہ إلى قوله:
”سُبْحَانَ الَّذِي
أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا
مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا
إِنَّمَا هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ“
(سورة بنی اسرائیل ۱)

اسم مفعول من الاسراء
(شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ۲ ص ۱۲۲)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَيْهِمْ سَلَامٌ مَلَأَ كُلَّ
وَمَدَّةٍ وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرِزْقِكَ وَمَا كُنَّا نَسْتَعِينُكَ إِلَّا بِكَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِنَا مُسْعُوْدٌ

ہمارے سردار نیک نخت درود سلام بھیجے اللہ آپ

یہ سعد کے مادہ سے اسم مفعول
کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے کہ
آپ کو اللہ تعالیٰ نے غمی کر دیا تھا
آپ کی مشکلات کو آسان فرما
دیا تھا۔

حضرت عبد اللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
میں نے حضور اقدس ﷺ سے
سنا آپ نے تہجد کی نماز کے بعد یہ دعا
مانگی۔ اے اللہ میں تجھ سے فیصلے کی
کامیابی کا سوال کرتا ہوں۔ اور
شہیدوں کی مہمانی اور نیک نختوں
کی زندگی اور دشمنوں پر نصرت کا
سوال کرتا ہوں۔

اسم مفعول
من اسعده الله
ای اغناه و اذهب
تعبه۔

(شرح المراهب اللدنیة للزقانی ج ۳ ص ۱۲۲)

عن ابن عباس
رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول الله
ﷺ يقول ليلة
حين فرغ من صلوة
اللهم انى اسئلك
الفوز فى القضاء ونزل
الشهداء وعيش السعداء
والنصر على الاعداء۔

(جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۴۸)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَسَدِنَا مُحَمَّدًا النَّبِيَّ الْأَمِينُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجْرَتِهِ بِمَدَدِ مَلَكٍ مُنَادٍ
قَدِيمٍ وَخَلْقِكَ رُحْمَىٰ لِسَانِي وَبَشَرَتِكَ وَمَدَادِ قَلَمِي أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ وَأَنْتَ الْبَرُّ الْبَرُّ

سَيِّدِنَا مَسْكِينِ

ہمارے سردار ناتواں درودِ مسکینِ محبوبِ الہی

عن ابی سعید الخدری
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَحِبُّوا الْمَسَاكِينَ
فَأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ فِي دَعَائِهِ اللَّهُمَّ احْبِبْنِي
مَسْكِينًا وَامْتَنِي مَسْكِينًا وَ
احْشُرْنِي فِي زِمْرَةِ الْمَسَاكِينِ -

(ابن ماجه - ص ۳۰۳)

ہی من المسکة
وهی الذلة والافتقار
اراد اظهار تواضعه
وافتقاره الى ربه
ارشاد الامم للتواضع
(مجمع البحار ج ۲ - ص ۳۰۱)

حضرت ابو سعید خدری رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا
لوگو غریبوں مسکینوں سے محبت کرو
کیونکہ میں نے حضور اقدس ﷺ
کو یہ دعا کرتے سنا ہے اللہ مجھے مسکین
زندہ رکھیو اور مسکین ہی مار لو۔ اور میرا
حشر مسکینوں میں فرمائیو۔

مسکین مسکنت سے ہے جس کا
معنی کمزوری اور فقیری ہے۔ جس سے
آپ کا ارادہ اپنی انکساری کو ظاہر
کرنا ہے۔ اور اپنے رب کی طرف
اپنا فقر ظاہر کرنا ہے۔ اس میں
اپنی اُمت کو انکساری کا ارشاد
فرمانا ہے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرَكَ إِلَّا بِاللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَنْتُمْ بِمَدُونِ مَنْ تَعْلَمُونَ
وَمَنْ تَخْلُقُونَ وَمَنْ تَشَاءُونَ وَمَنْ تَكْتُمُونَ وَمَنْ تَكْتُمُونَ وَمَنْ تَكْتُمُونَ وَمَنْ تَكْتُمُونَ وَمَنْ تَكْتُمُونَ

سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدٌ

ہمارے سرورِ سلام دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
” اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آویں
جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے
ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی
ہو۔“

” آپ فرمادیجئے کہ تمام تعریفیں
اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں اور اس
کے ان بندوں پر سلام (نازل) ہو
جن کو اُس نے منتخب فرمایا ہے۔“
” تو آپ ان سب بے رنج رہیئے۔
اور یوں کہہ دیجئے کہ تم کو سلام کرتا
ہوں سو ان کو ابھی معلوم ہو جاوے
گا۔“

اشارة إلى قوله :

” وَإِذَا جَاءَكَ
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ“

(سورة الانعام ۵۳)

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ
سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ
اصْطَفَىٰ ط

(سورة النحل ۵۹)

” فَاصْفَحْ عَنْهُمْ
وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ
يَعْلَمُونَ“

(سورة الزخرف ۸۹)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أُنْكِرَ
رَبِّهِ وَخَلَقْتَ رَجُلًا شَرَفْتَ رَجُلًا وَرَبَّاهُ فَكَلَّمَكَ اللَّهُ لَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا لَمْ يَكُنْ لَكَ الْإِكْرَامُ وَالْإِكْرَامُ لِلَّهِ

سَلَامٌ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا مُحَمَّدُ

ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کئے گئے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”ان کو پروردگار مہربان کی
طرف سے سلام فرمایا جاوے گا۔“

”کہ تم صحیح سلامت رہو گے بدلت
اس کے کہ تم (دین حق پر) مضبوط
ہے تھے۔ سو اس جہان میں تمہارا
انجام بہت اچھا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
التحیات کی حدیث میں فرماتے ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات
میں یہ دعا پڑھی اے نبیؐ تجھ پر سلام
ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی
ہوں۔

اشارہ الی قوله
”سَلَامٌ عَلَيْكَ
رَبِّ رَحِيمٍ“

(سورة نبت ۵۸)
”سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
بِمَا صَدَقْتُمْ فَبِعَن
عُقْبَى الدَّارِ“

(سورة الزعد ۱۲)
عن ابن
مسعود رضی اللہ عنہ فی حدیث
التشهد السلام علیک
ایہا النبی ورحمة اللہ
وبرکاتہ۔

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۱۵)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 وَمَا تَشَاءُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْنُ فِيهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ فِيهِ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا نَحْنُ فِيهِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلِّ وَسَلِّمْ

ہمارے سردار تسلی دینے والے درود مسلمانوں کے لیے

مگر اب تو انہوں نے مجھے اور
 میرے باپ دونوں کو دیکھا۔ اور
 دونوں سے عداوت کی لیکن یہ اس
 لیے ہوا کہ وہ قول پورا ہو جو ان کی
 شریعت میں لکھا ہے کہ انہوں نے
 مجھ سے بلا وجہ عداوت کی لیکن جب
 وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے
 پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی
 سچائی کا روح جو باپ کی طرف سے
 ظاہر ہوگا۔ تو وہ میری گواہی دے
 گا۔ اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ تم شروع
 سے میرے ساتھ ہو۔

و اما الان فقد رأوا
 و ابغضوني انا و ابی
 لكن لکی تم الكلمة
 المكتوبة فی ناموسهم انهم
 ابغضوني بلا سبب و متی
 جاء المعزی الذی سارسله
 انا الیکم من الاب روح
 الحق الذی من عند
 الاب ینبثق فهو یشهد
 و تشهدون انتم ایضاً لانکم
 معی من الابداء۔

(انجیل یوحنا باب ۱۵ - آیت ۲۵، ۲۶، ۲۷)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین آمین یا رَبَّ الْعَالَمِینَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْبَنِيَّاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَوَعِدْ بِمَدُونِهِمْ وَمَدِينَتِهِمْ وَوَعِدْ بِمَدِينَتِهِمْ وَمَدِينَتِهِمْ وَوَعِدْ بِمَدِينَتِهِمْ وَمَدِينَتِهِمْ

سَنِيَّتُكَ لِقَاءُ مَسْهُرٍ

ہمارے سردار مالِ غنیمت کو تقسیم کرنے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد اور اس کے گھوڑے کے لیے تین حصے مقرر فرمائے۔ ایک حصہ مجاہد کا اور دو حصے اس کے گھوڑے کے لیے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گھوڑے سوار (مجاہد) کو تین حصے عطا فرمائے اور پیادل (مجاہد) کو ایک حصہ عطا فرمایا۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسهم لرجل و لفرسه ثلاثة اسهم سهمالة و سهمین لفرسه۔

(سنن ابی داؤد ج ۲ - ص ۱۹)

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اسهم یوم خیبر للفارس ثلاثة اسهم و للراجل سهماً۔

(سنن الدارمی ج ۲ - ص ۲۲۵)

رَبَّنَا قَبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَجَمِيعَةِ مَلَائِكَتِكَ وَمَلَائِكَةِ رَحْمَتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَجَمِيعَةِ مَلَائِكَتِكَ وَمَلَائِكَةِ رَحْمَتِكَ

سِرِّ نَبِيِّكَ الْمَسِيحِ

ہمارے سردار مبارک دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

المسیح یونانی زبان میں مبارک
کو کہتے ہیں۔ یا وہ جو بیماریوں کو
چھوٹے تو وہ تندرست ہو جائیں۔
فعل کا صیغہ فاعل کے معنوں میں۔
حضرت ابیض بن حمال ماری
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان
کے منہ پر صدر تھی جو ناک تک چلی
گئی تھی۔ اس کو حضور اقدس ﷺ
نے بلایا اور اس کے چہرے پر
دست مبارک پھیرا وہ اس دن
شام سے پہلے پہلے تندرست ہو گیا۔ اور
اس کے چہرہ پر کوئی نشان نہ رہا۔

المبارک بالیونانی
او الذی یمسح العاہات
فیبرئہا فعیل بمعنی فاعل
(سبل الہدی ج ۱ ص ۶۳۵)
عن ابیض بن حمال
الماری رضی اللہ عنہ انہ کان
بوجہہ جزازة یعنی القوبا
قد التمت انفہ فدعاہ
رسول اللہ ﷺ فمسح
علی وجہہ فلم یمس من
ذلک الیوم و فیہ اثر۔
(دلائل النبوة ج ۳ ص ۲۲۳)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَخَلِّصْنَا مِنْ سُلْطَانِ الْكُفْرِ وَالشُّرْكِ وَخَلِّصْنَا مِنْ سُلْطَانِ الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ وَخَلِّصْنَا مِنْ سُلْطَانِ الْهَوَىٰ وَالشَّهْوَىٰ وَخَلِّصْنَا مِنْ سُلْطَانِ الْفِتْنَةِ وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ وَخَلِّصْنَا مِنْ سُلْطَانِ الْوَسْوَسَةِ الْوَسْوَاسِ الْخَسِيسِ

سَيِّدِنَا مَسِيحُ الْقَدَمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار صاف قدم مبارک والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت ہند بن ابی مالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پاؤں صاف شفاف نرم تھے ان پر پانی نہ ٹھہرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں مسیح القدمین وارد ہوا ہے جس کا معنی صاف شفاف جس میں شہ کوئی دراڑ اور نہ ہی ان میں کوئی شکاف تھا جب ان کو پانی پہنچتا بہ جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک ہموار تھے جن میں آلودگی اور درز بالکل نہ تھی۔

عن ہند بن ابی مالہ رضی اللہ عنہ و کان وصافاً عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان رسول ... مسیح القدمین ینبوعنہا الماء۔ (الحديث) (شمال الترمذی ص ۲) و فی صفته صلی اللہ علیہ وسلم مسیح القدمین ای ملساوان لیتات لیس فیہما تکسر ولا شقاق فاذا اصابہما الماء نبا عنہما۔ (مجمع البحار ج ۳ ص ۲۹۶) مسیح القدمین ہموار دوپائے یعنی ملسا کہ چرک و پارگی و شکست در انہا نبود۔ (مراج المستنبوۃ ج ۱ ص ۱۳)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِینَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَنْتُمْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ
وَمَدِينَةِ مَدِينَةِ مَكَّةَ وَمَدِينَةِ مَدِينَةِ مَكَّةَ وَمَدِينَةِ مَدِينَةِ مَكَّةَ وَمَدِينَةِ مَدِينَةِ مَكَّةَ

سَيِّدِكَ مَشُورًا

ہمارے سردار صحابہ کرام سے مشورہ لینے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

<p>اشارہ ہے اس قول کی طرف : ” اور معاملہ میں ان سے مشورہ لیں“ حضرت ابوہریرہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو حضور اقدس ﷺ سے زیادہ مشورہ سے کام کرتا ہو۔ حضرت علی رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ فرمایا حضور اقدس ﷺ نے اگر میں بغیر مشورے کے کسی کو اپنا نائب مقرر کرتا تو ابن ام عبد رب عبد اللہ بن مسعود کو مقرر کرتا۔</p>	<p>اشارة الى قوله : ” وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ “ (سورة العنكبوت ۱۵۹) عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ما رأيت احداً اكثر مشورة من رسول الله ﷺ - (رواه ابن ابي حاتم) شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج ۱ ص ۱۲۲ عن علي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال قال رسول الله ﷺ لو كنت مستخلفا احداً من غير مشورة لاستخلفت عليهم ابن ام عبد (متدرک للحاکم ج ۳ - ص ۲۱۸)</p>
---	---

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امين امين امين يا رب العالمين ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَسْبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَخْيَرِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَصَفِيٍّ وَعَدُوِّهِمْ
وَعَدُوِّ خَلْقِكَ وَوَعِيٍّ نَفْسِكَ وَوَسْطِ عِلْمِكَ وَمَعَادِ عِلْمِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَبِّكَ مُشَبَّهٌ بِسَبِّكَ

ہمارے سردار انگلیوں میں تشبیک دینے والے دو دوسرا بھیجی اللہ آپ کے

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما حضور
اقدس ﷺ سے روایت کرتے
ہیں۔ کہ آپ نے فرمایا مومن مومن کے
یہ مثل عمارت کے ہے کہ اس کا
ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا
ہے۔ اور آپ نے اپنی انگلیوں میں
تشبیک فرمائی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما
سے حج کی طویل حدیث میں روایت
کہ حضور اقدس ﷺ نے دونوں
ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسری
میں داخل کر کے فرمایا عمرہ (ایام حج
میں کرنا قیامت تک کے لیے
جائز ہو گیا ہے۔ دومرتبہ فرمایا۔

عن أبي موسى
رضي الله عنه عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه قال
ان المؤمن للمؤمنين
كالبيان يشد بعضه
بعضاً و شبك اصابعه.
(صحیح البخاری ج ۱- ص ۶۹)

عن جابر بن عبد الله
رضي الله عنه في حديث الحج
فشبك رسول الله ﷺ
اصابعه واحدة في الاخرى
وقال دخلت العمرة في الحج
مترتين لابل لا بلب ابد (الحديث)
(الصحيح لمسلم ج ۱- ص ۲۹۶)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلِّ تَقِيٍّ مِنْكُمْ
 وَبَنِيهِ وَخَلْقِهِ وَرَحْمَتِكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِعَادَتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

سَبِّكَ يَا رَبِّ الْمُنْتَهَى عَلَيْهِمُ

ہمارے سردار حضرت ابراہیمؑ کے ہم شکل درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

حضرت عبداللہ بن عباس
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ
 حضور اقدس ﷺ نے فرمایا
 میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم
 ﷺ کو دیکھا اور حضرت موسیٰ و
 حضرت ابراہیمؑ ﷺ کو دیکھا۔
 حضرت عیسیٰ ﷺ سُرخ رنگ
 گھنگھریلے بالوں والے فراخ سینہ
 تھے اور حضرت موسیٰ ﷺ توڑے
 بھاری بھرکم جسم والے۔ انہوں نے
 عرض کیا کہ حضرت ابراہیمؑ ﷺ
 تو آپ نے فرمایا اپنے ساتھی (سومبر)
 کو دیکھ لو یعنی مجھے۔

عن ابن عباس
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 رَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
 وَمُوسَىٰ وَابْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ
 فَأَمَّا عِيسَىٰ ﷺ
 فَاحْمَرَّ جَعْدَ عَرِيضِ
 الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَىٰ
 ﷺ فَانَّهُ جَسِيمٌ قَالُوا
 لَهُ يَا اِبْرَاهِيمَ ﷺ قَالَ
 انظروا الى صاحبكم يعني
 نفسه -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۹۶)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين يا رب العالمين ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْآدَمَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَلَامًا وَجَنِّبْنَا مِثْلَهُ وَمَنْ مِثْلَهُ
 وَمَنْ مِثْلَهُ وَمَنْ مِثْلَهُ وَمَنْ مِثْلَهُ وَمَنْ مِثْلَهُ وَمَنْ مِثْلَهُ وَمَنْ مِثْلَهُ وَمَنْ مِثْلَهُ

سَيِّدِنَا الْحَسَنِ وَسَيِّدِنَا الْحُسَيْنِ

ہمارے سردار حضرت حسینؑ کے مشابہ دُرود و سلام بھیجیے اللہ آپ سے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
 کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن زیاد کے
 پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر
 مبارک لایا گیا اور وہ ایک طشت
 میں رکھا گیا تو ابن زیاد ان کی آنکھ
 اور کان میں ماسے لگا اور ان کی
 خوبصورتی میں کچھ کلام کیا پس حضرت
 انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ سب
 زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے
 مشابہ تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ
 کے (سر اور داڑھی میں) وسمہ کا
 خضاب کیا ہوا تھا۔

عن انس بن مالك
رضي الله عنه قال اتى
 عبيد الله بن زياد
 برأس الحسين رضي الله عنه
 فجعل في طست فجعل
 ينكت و قال في حسنه
 شيئاً فقال انس
رضي الله عنه كان اشبههم
 برسول الله صلى الله عليه وسلم
 و كان مخضوباً
 بالوسمة۔

(صحيح البخارى ج ۱ ص ۵۲)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا فَحَلَّ النَّبِيُّ الْأَخْيَرُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَشْرَتِهِ بِمَدُونِ مَنْ مَلَكَ لَكَ
 وَهَدَى خَلْقَكَ وَجَمَعَ نَبِيَّكَ وَنَبِيَّكَ وَمَسَاءَ خَلْقِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْغَفُورُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

سَبَّحُكَ يَا رَبِّ مَشْجُوحٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سردار زخمی ہونے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

عن جندب بن سفيان
 سفيان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
 دَمِيت اصبع رسول الله
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ تَلَكِ
 الْمَشَاهِدِ فَقَالَ - هَلْ
 انت الا اصبع دَمِيتِ
 و في سبيل الله مالقيت
 (اصحح لمسلم ج ۲ - ص ۱۰۹)
 عن انس بن مالك
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 كسرت ربايعيته يوم احد
 و شج في جبهته حتى سال
 الدم على وجهه - (الحديث)
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ - ص ۹۹)

حضرت جندب بن سفیان
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے۔ انہوں نے
 بیان کیا کہ حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی
 انگلی مبارک کسی جہاد میں زخمی ہو کر
 خون آلود ہو گئی تو آپ نے فرمایا۔ تو صرف
 ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو
 گئی ہے۔ اور جو کچھ تو نے تکلیف
 پائی ہے۔ اللہ کی راہ میں پائی ہے۔
 حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے جنگ احد
 کے دن حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا
 دانت مبارک شہید ہوا اور پیشانی پر
 زخم آئے سستی کہ خون آپ کے چہرہ مبارک
 پر بہ پڑا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَعَنْهُمْ وَعَنْهُمْ وَعَنْهُمْ
 وَمَنْ تَحْتَهُمْ وَرَحِمْتَ كُلَّ نَبِيٍّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ

سَيِّدِكَ الْمَشْدُوبِ

ہمارے سردار درمیانے قد والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت حسن رضی اللہ عنہما اپنے ماموں
 حضرت ہند رضی اللہ عنہما سے روایت
 کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد
 سے کچھ اونچے اور بہت لمبے قد
 سے کچھ کم تھے۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہما اپنے ماموں
 حضرت ہند رضی اللہ عنہما سے روایت
 کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم میانے قد فریبہ مضبوط جسم
 والے تھے۔

عن الحسن رضی اللہ عنہما
 عن خاله هند رضی اللہ عنہما
 قال كان رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربع
 واقصر من المشدوب۔

(شمائل الترمذی - ص ۲)

عن الحسن رضی اللہ عنہما
 عن خاله هند رضی اللہ عنہما
 قال كان رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم معتدل الخلقه
 بادن متماسك۔

(الوفاء لابن الجوزی ص ۲۰۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِيمَانَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَنْتُمْ بِمَدُونِي مَسْئَلِي أَنْ
تُصَلِّ عَلَى خَلْقِكَ وَتُحْيِي قَلْبِي وَتُشْرِكِي وَمَا كُنْتُ أَسْتَغْفِرُكَ إِلَّا بِذِكْرِكَ الْكَلِمَةِ الْكَلِيمَةِ وَأَسْأَلُكَ الْوَيْلَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْرِكِ

ہمارے سردار کافروں کو سخت سزا دینے والے دُورِ سلا بھیجے اللہ ہی

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”آپ ان کو سخت سزا دے کر
ان کافروں پر رعب ڈالیں جو
ان کے پیچھے ہیں تاکہ ان کو عبرت ہو“
حضرت عبداللہ بن عباس
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اللّٰهُ تَعَالَى كَيْفَ اس فرمان
میں۔ تو ان پر حملہ کر کے اس
کے ذریعہ سے اور لوگوں کو جو ان
کے علاوہ ہیں منتشر کر دیجئے“
فرماتے ہیں۔ کہ جو کفار تمہاری قید
میں ہوں ان کو ایسی سزا دیں کہ
دوسروں کے لیے ایک سبق ہو
جائے۔

اشارۃ الی قوله،
”فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ
خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ“
(سورة الانفال، ۵)
عن ابن عباس
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ
”فَشَرَّدْ بِهِمْ مَنْ
خَلْفَهُمْ“ قَالَ
نُكِّلَ بِهِمْ مَنْ
بَعْدَهُمْ۔
(اخرجه ابن المنذر وابن ابي حاتم
فتح القدير ج ۲ ص ۲۰۶)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَلَى مَنْ تَلَّمَهُمْ
وَعَلَى مَنْ تَلَّمَهُمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحْبِهِ وَآلِهِ وَوَجَّهَاتِ أَسْمَائِهِمْ وَآلِهِمْ وَأَسْرَابِهِمْ

مشفق

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار تعریف کے گے درود سلام بھیج لائے

حضرت محمد ﷺ (میرے
خاص بندے اور عظیم انسان رسول
ہوں گے۔ جن پر میں ذاتی طور پر
خوش ہوں گا۔ میری طرف سے
ان پر وحی نازل ہوگی۔ پھر وہ تمام
امت کے لوگوں میں میرا انصاف
ظاہر کریں گے۔ اور ان کو نصیحتیں
اور ہدایات فرمائیں گے۔ رایگان
کی صفت یہ ہوگی کہ وہ (قہقہہ کے
ساتھ) نہیں ہنسیں گے۔ اور ان
کی آواز بازاروں میں نہیں سنی
جائے گی۔ وہ اندھی آنکھوں کو
رہایت کی بینائی سے کھولیں گے۔
اور بہرے کانوں کو شنوائی کی قوت

عبدی و رسولی
الذی سرت
بہ نفسی انزل
علیہ وحی فیظہر
فی الامم عدلی
و یوصیہم بالوصایا
لا یضحک ولا
یسمع صوتہ فی
الاسواق یفتح
العیون العور
والاذان الصم
ویحی القلوب
الفلن وما اعطیہ
لا اعطیہ احدًا

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبَّ الْعَالَمِین ط

يُحْمَدُ اللَّهُ حَمْدًا
جَدِيدًا يَأْتِي
بِهِ مِنْ أَقْطَارِ
الْأَرْضِ وَتَفْرَحُ
الْبَرِيَّةُ وَسَكَانُهَا
بِهَلْلُوكِ اللَّهِ عَلَى
كُلِّ شَرَفٍ وَ
يَكْبُرُونَ عَلَى
كُلِّ رَابِيَةٍ لَا يَضَعُفُ
وَلَا يَغْلِبُ وَلَا يَمِيلُ
إِلَى الْهَوَى
مَشْفُوحٌ - الخ

(اشيعا)

هداية الحيارى لابن القيم ص ۷۰

وَيْسِي بِالسَّرْيَانِيَةِ
مَشْفُوحٌ -

(الشفاء لقاضي عياض ص ۱۲۸)

عطا کریں گے۔ زنگ آلود مردہ
دلوں کو زندگی بخشیں گے۔ اور جو
کچھ میں ان کو فضائل اور کمالات
اور انعامات وغیرہ عطا کروں
گا وہ کسی دوسرے نبی کو عطا نہیں
کئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا
نئے نئے انداز اور الفاظ سے
ساری دنیا کے کونے کونے میں
پہنچادیں گے۔ دنیا اور اس کے
رہنے والوں کو اللہ کی رحمت اور
اعلیٰ اخلاق سے خوش کر دیں گے۔
وہ ہر اونچے مقام پر لا الہ
إِلَّا اللَّهُ اور ہر ٹیلے پر اللہ اکبر
کا نعرہ بلند کریں گے۔ وہ (دنیا کے سامنے)
مغلوب اور کمزور نہیں ہوں گے۔ اور
نفسانی خواہشات کی طرف مائل نہیں
ہوں گے۔ بلا شک وہ مشفق و تعریف
کئے گئے ہیں۔

اور آپ کا اسم گرامی سریانی
زبان میں مشفق ہے۔

نصف امتی الجنة
 او شفاعة فاخترت
 لهم الشفاعة وعلت
 انها اوسع لهم
 وهي لمن مات
 لا يشرك بالله
 شيئاً - (خرج واحد والطبرانی
 والبخاری / الخصائص الكبرى ج ۲ ص ۲۲۲)
 عن بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
 انه دخل على معاوية
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فاذا رجل يتكلم
 فقال بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يا معاوية
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تاذن لي في الكلام؟
 فقال نعم وهو يري
 انه سيتكلم بمثل ما
 قال الآخر فقال بريدة
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سمعت رسول الله
 ﷺ يقول اني لأرجو
 ان اشفع يوم القيامة
 عدد ما على الارض
 من شجرة ومدرة -

(تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۵۶)

میں داخل کر دوں یا شفاعت
 قبول فرمائیں۔ میں نے شفاعت
 کو قبول کر لیا۔ اور میں نے معلوم
 کیا کہ یہ اس سے وسیع تر ہے۔
 اور وہ (شفاعت) ہر اس شخص
 کو نصیب ہوگی۔ جو مر گیا اور اُس
 نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک
 نہیں ٹھہرایا۔

حضرت بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے
 روایت ہے۔ کہ وہ حضرت امیر معاویہ
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُ کے ہاں تشریف لے گئے
 اور ایک آدمی وہاں کچھ باتیں کر رہا
 تھا۔ تو حضرت بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بولے
 اے معاویہ آپ مجھے اجازت فرماتے
 ہیں۔ کہ میں بھی کچھ کہوں۔ انہوں نے فرمایا
 ہاں اور ان (معاویہ) کا خیال تھا۔ کہ یہ
 بھی کوئی ایسی ہی گفتگو کریں گے جیسے اس نے
 گفتگو کی ہے حضرت بريدة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نے
 حضور اقدس ﷺ سے سنا ہے۔
 فرماتے تھے میں امید کرتا ہوں۔ کہ قیامت
 کے دن میں اتنے لوگوں کی شفاعت کروں گا
 جتنے روئے زمین پر درخت اور سنگریزے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لَكَفَّةِ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَعْقِبِهِمْ وَعَجِّزْ عَنِّي وَعَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَى
رَبِّهِ وَخَلِّصْ رُوحِي مِنْ شَرِّكَ وَبَشِّرْ شِعْرِي وَمَا دَعَاكَ أَنْتَ فَتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَلِكٌ مُسْتَفْعٍ

ہمارے سردار شفاعت کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن عبادة بن الصامت
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فخرَ مَنْ
أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ تَحْتَ لَوَائِي
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنْظُرُ الْفَرَجُ
وَإِن مَعِيَ لَوَاءُ الْحَمْدِ أَنَا مُشْتَرِكٌ
وَمِثْلِي النَّاسُ مَعِيَ حَتَّى
أَتِيَ بَابَ الْجَنَّةِ فَاسْتَفْتَحَ
فِيَقَالَ مَنْ هَذَا فَأَقُولُ
مُحَمَّدٌ فَيَقَالَ مَرْحَبًا بِمُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَيْتَ رَبِّي
خَررت لَهُ سَاجِدًا أَنْظِرْ إِلَيْهِ -
(الخروج الحاكم واليهنقى / الخصائص الكبرى ج ۱ ص ۲۱۲)

حضرت عباده بن صامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار
ہوں گا۔ اور یہ بات فخر نہیں کہہ رہا۔ اور
قیامت کے دن تمام میرے جھنڈے کے نیچے
ہونگے مشکلات کے کھل جانے کا انتظار کریں
گے۔ اور میں حمد کا جھنڈا لیکر چلوں گا۔ اور
تمام لوگ میرے ساتھ چلیں گے جہاں کہیں
جنت کے دروازے پر آؤں گا۔ اور اس کو
کھلو آؤں گا۔ کہا جائیگا کہ آپ کون
ہیں۔ میں کہوں گا میں محمد صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ہوں۔ کہا جائے گا حضرت محمد صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کے لیے مرجا پھر میں جب اپنے
رب کو دیکھوں گا۔ سجدہ میں گر جاؤں گا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ لَا أَلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ لَكَ الْحَمْدُ الْكَلِيمُ وَأَمَّا بَعْدُ
فَعَلَّمَ خَلْقَ الْهَيْهَاتَ مِنْهَا وَمَا تُكَلِّمُ بِهِ النَّاسَ كَلِمَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّ الْفُحَّاشِينَ يَرْجِعُونَ

سَيِّدِنَا مُشْفِقُونَ

ہمارے سردار خدا کا خوف کھانے والے دُرُودِ سَلَامِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اس میں کوئی شک نہیں کہ
جو لوگ اپنے رب کی ہیبت
سے ڈرتے ہیں“
وہ لوگ جو اللہ کی ہیبت اور
اس کے عذاب کے خوف سے
ڈرتے ہیں۔ تو وہ اس کے ڈر سے
ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہتے
ہیں۔ اور اس کی رضامندی میں
کوشش کرتے رہتے ہیں۔

اشارہ الی قوله:
”إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ
خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ“
(سورة المؤمنون: ۵۷)
ان الذين هم
خشيتهم و خوفهم من
عذاب الله مشفقون
فهم من خشيتهم من
ذلك دائبون في
طاعته جادون في طلب
مرضاته۔ (تفسير الطبري ج ۱۸ ص ۲۱)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا سَأَلَ اللَّهُ لِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجِيسَتِنَا مُحَمَّدًا النَّبِيَّ الْأَمِينُ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعُمَّتِهِمْ مَعَهُمْ كُلِّ مَسْلُومٍ أَنْ
 رَحِمَهُمْ وَخَلَقَتْ رَوْحِي لَكَ وَرَبِّكَ وَمَوْلَانَا كَمَا لَمْ تَسْأَلْهُ الْبَرُّ لَمْ يَلَهُ الْأَكْرَمِيُّ الْعِزُّ وَأَمَّنَّ بِاللَّهِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَشْفُوعٌ

ہمارے سردار شفاعت قبول کئے گئے درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے۔ ایک دن ہم
 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے
 صحن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ
 اچانک تشریف لائے آپ کا
 چہرہ اقدس سورج کی طرح چمک رہا
 تھا۔ ہم سب آپ کے چہرہ مبارک کی
 طرف دیکھنے لگے اور ہم نے عرض
 کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ
 آپ کو خوش رکھے۔ آپ کے چہرہ اقدس
 کی چمک دمک دیکھ کر ہمیں خوشی
 محسوس ہو رہی ہے۔ اس پر آپ
 نے فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام
 میرے پاس ابھی تشریف لائے

عن عبد الله بن
 بسر رضی اللہ عنہ قال بينما
 نحن بفناء رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم جلوس
 اذ خرج علينا مشرق
 الوجه يتهلل فقمنا
 فن وجهه فقلنا
 يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
 سرک الله انما
 ليسرنا ما نرى من
 اشراق وجهك وتطلقه
 فقال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم ان جبريل
علیہ السلام اتاني انفا

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

فبشرني ان الله عزوجل
 قد اعطاني الشفاعة
 فقلنا يا رسول الله (ﷺ)
 أفي بني هاشم
 خاصة قال لا فقلنا
 في قریش خاصة
 قال لا فقلنا في
 امتك قال هي
 في امتي للمذنبين
 المثقلين - (رواه الطبرانی في الكبير
 مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۲۷۷)
 عن عبد الله بن
 عمرو بن العاص
 قال قال
 رسول الله ﷺ
 يدخل من اهل
 هذه القبلة النار
 من لا يحصى عددهم
 الا الله ما عصوا الله
 واجتروا على
 معصيته وخالفوا طاعة
 فيؤذن لهم في

بیس اور انہوں نے مجھے بشارت
 دی کہ اللہ تعالیٰ عرو و جل نے مجھے
 شفاعت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے
 عرض کیا کہ کیا خاص طور پر بنی ہاشم
 کے لیے آپ نے فرمایا نہیں ہم
 نے عرض کیا۔ قریش کے لیے خاص
 طور پر آپ نے فرمایا نہیں ہم نے
 عرض کیا آپ کی امت کے بارے
 میں آپ نے فرمایا میری امت
 کے ان لوگوں کے لیے جو گناہوں
 سے لدے ہوئے ہوں گے۔
 حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص
 رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ کہ
 حضور اقدس ﷺ نے فرمایا
 اہل قبلہ میں سے اتنے دوزخ
 میں داخل ہوں گے۔ جن کی تعداد
 اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ
 وہ ہوں گے (جنہوں نے اللہ کی
 نافرمانی کی اور دیدہ دلیری سے
 گناہ کرتے رہے اور اللہ کی طاعت
 کی مخالفت کرتے رہے۔ مجھے
 شفاعت کا اذن ملے گا تو میں

الشفاعة فأثنى على الله
ساجداً كما أثنى
عليه قائماً فيقال
لن أرفع رأسك
و سل تعطه و اشفع
تشفع - (رواه الطبرانی في الأوسط
والصغير / مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
ج ۱۰ ص ۳۶۶)

عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
الشمس لتدنو حتى يبلغ
العرق نصف الأذن فينما
هم كذلك استغاثوا بآدم
عليه السلام فيقول لست بصاحب
ذلك ثم بموسى عليه السلام
فيقول كذلك ثم بمحمد
صلى الله عليه وسلم فيشفع بين الخلق
فيمشي حتى يأخذ بحلقة
باب الجنة فيومئذ يبعثه
الله مقاماً محموداً -
(تفسير ابن كثير ج ۵ ص ۵۵)

سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایسی
حمد و ثنا کروں گا جیسا کہ میں
کھڑے ہو کر کرتا ہوں۔ پھر مجھے
کہا جائے گا اپنا سر اٹھائیے
مانگتے آپ کو عطا ہو گا۔ اور سفارش
کیجئے۔ آپ کی سفارش قبول
ہوگی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر
رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ حضور اقدس
نے فرمایا قیامت کے دن (سورج نزدیک
ہو جائے گا جتنی کہ کانوں تک پسینہ پہنچ
جائے گا لوگ اسی حالت میں ہوں گے کہ
حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فریاد
لے کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام
فرمائیں گے میں اس کے قابل نہیں۔ پھر
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے
وہ بھی ایسے ہی فرمائیں گے پھر سب لوگ حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لیکر حاضر
ہوں گے تو پھر آپ مخلوق کی شفا فرمائیں گے آپ
حزرت کے دروازے کا حلقہ پکڑیں گے پس اس دن
آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پر دعوت فرمائیں گے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ
الَّذِي صَدَّقَ وَعْدَهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَدْتَهُ بِعَدْوٍ عَلَى مَلَكُومِ الْكَافِرِينَ
وَقَدَّمَ خَلْقَكَ وَجِزْمَتَكَ وَبَشَرَتَكَ وَمَا كُنَّا لَكَ أَشْفَعَاءَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ وَأَمَّا الْبَشَرُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْتَقِيمٍ

ہمارے سردار تعریف کے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

<p>یہ اسم گرامی (مُسْتَقِيمٌ) حضرت شعیبا عَلَیْهِ السَّلَام کی کتاب میں اس طرح وارد ہے کہ میرا خاص بندہ کہ جس سے میں خوش ہوں میں اس پر اپنی وحی نازل کروں گا۔ وہ امتنوں میں میرا عدل ظاہر کرے گا اور انہیں احکام دے گا۔ وہ رقبہ لگا کر (ہنسے گا نہیں اور نہ ہی اس کی آواز بازاروں میں سنی جائے گی وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور غفلت کے پردوں میں گھرے ہوئے دلوں کو کھولے گا۔ میں اسے وہ کچھ عطا کروں گا جو کسی ایک کو نہیں</p>	<p>وقع هذا الاسم في كتاب شعيبا عليه السلام ونصه : عبدی الذی سرت بہ نفسی انزل علیہ وحی فیظہر فی الامم عدلی و یوصیہم الوصایا ولا یضحک ولا یسمع صوتہ فی الاسوات یفتح العیون العور والاذان الصم والقلوب الغلف و ما اعطیہ لا اعطی</p>
--	--

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

احدًا مُشَقَّحٌ بِحَمْدِ
اللَّهِ تَعَالَى حَمْدًا
جَدِيدًا۔

(سبل الہدی ج ۱ - ص ۲۳۶)

قال الشمني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
هو بضم الميم وفتح الشين
المججمة والقاف المشدة
وفي آخره حاءٌ مَحْمَلَةٌ۔

(سبل الہدی ج ۱ - ص ۲۳۶)

قال ابن دحية
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هو بالفاء وزن
محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ومعناه فان الشقح
في اللفظة الحمد۔

(سبل الہدی ج ۱ - ص ۲۳۶)

قال ابن القيوم
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهي لفظة عبرانية
مطابقة لاسم محمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
معنى ولفظاً مقارباً
كمطابقة موز موز
بل اشد مطابقة۔

(هداية الحيارى ص ۷۹، ۸۰)

دیا ہوگا۔ وہ میرا بندہ مشقح محمد
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ہے۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ
کے فضل و کرم سے انواع و اقسام
سے تعریف کیا ہوا ہے۔

علامہ شمنی رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے ہیں
یہ لفظ م کے ضمہ اورش کا مشقح
اورق مشدداً آخر میں ح سے ہے۔

علامہ ابن دحیہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے
ہیں۔ یہ لفظ ف کے ساتھ ہے۔
محمد کے وزن اور اس کے معنی پر
کیونکہ شقح لغت میں حمد کے معنی
میں آیا ہے۔

علامہ ابن قیوم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فرماتے
ہیں۔ یہ لفظ عبرانی زبان کا ہے۔
اور محمد کے نام کے عین مطابق ہے۔
معنوں اور لفظوں کے لحاظ سے
جس طرح موز موز ہے۔ بلکہ یہ
لفظ اس سے زیادہ مطابقت
رکھتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَارْحَمْهُمْ
وَعَنْهُمْ وَعَنْ مَن تَحْتَهُمْ وَارْحَمْهُمْ وَعَنْ مَن تَحْتَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

سینے کا مشیح

ہمارے سردار فراخ سینے والے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اُبھرے ہوئے سینے والے اس
طریقہ پر کہ آپ کا بطن مبارک اور
سینہ مبارک ایک جیسا ہی تھا۔
حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے ماموں
حضرت ہند رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے
ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم فراخ سینے والے تھے
اور آپ کا بطن مبارک اور سینہ مبارک
برابر برابر تھا۔

حضرت ہند رضی اللہ عنہ کی دوسری
روایت میں یوں ذکر ہے۔
کٹادہ سینے والے کندھوں کے
درمیان کا فاصلہ دراز تھا۔

بادی الصدر من غیر تطامن
بل بطنه و صدره سواء۔
(شرح المواہب اللدنیۃ للزرقانی ج ۳ ص ۱۲۸)
عن الحسن رضی اللہ عنہ
عن خاله ہند رضی اللہ عنہ
قال کان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عریض الصدر
سواء البطن والصدر۔
(الوفاء ص ۳۹۶)

و فی حدیث ہند
رضی اللہ عنہ من طریق آخر:
عریض الصدر بعید
ما بین المنکبین۔ (الحدیث)
(مجمع الزوائد ج ۸ ص ۲۴۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعَنْتَهُمْ بَعْدَهُمْ كُلِّ تَسْلِيمٍ إِنَّكَ
 وَجَدَ وَخَلَقَ وَجِئَ فَطَرْتَ وَنَشَرْتَ لَكَ وَمِنَ الْكَلِمَاتِ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِنَا الْمَشِي

صَلَّىٰ وَسَلَّمَ
 عَلَىٰ سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ
 آلِهِ وَآحِبَائِهِ
 وَعَنْتَهُمْ بَعْدَهُمْ
 كُلِّ تَسْلِيمٍ

ہمارے سردار نصیحت کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

المشیر اشار فعل سے اسم فاعل
 کا صیغہ ہے جس کا معنی کسی کی
 خیر خواہی اور درست بات کو
 واضح کرنا ہے۔ کیونکہ آپ اُمّت کے
 خصوصاً اور تمام دُنیا کے انسانیت
 کے عموماً مخلص خیر خواہ ہیں۔

حضرت حذیف بن یمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ میں تم میں
 کب تک زندہ رہوں گا۔ تم میرے
 (وصال کے) بعد ان دو آدمیوں کی
 اقتدار کرنا اور آپ نے حضرت ابو بکر
 صدیق اور حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 کی طرف اشارہ فرمایا۔

اسو فاعل من
 اشار علیہ اذا نصحه
 و بین له الصواب
 و سَمِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ
 لَانَهُ النَّاصِحُ الْمَخْلُصُ
 وَنَصَحَ - (سبل الہدی ج ۱ ص ۶۴)

عن حذيفة بن
 اليمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي
 لَا اَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي
 فِيكُمْ فَاقْتَدُوا بِاللَّذِينَ
 مِنْ بَعْدِي وَاِشَارَ
 اِلَى ابْنِ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 (سنن ابن ماجه ص ۱)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا كَانَ لِلّٰهِ لَاقِطَةُ الْاِیْمَانِ • وَاللّٰهُ یَسِّرُ لِمَنْ یَشَاءُ سُبُوْلًا یَسْرًا • وَیُعِزُّ لِمَنْ یَشَاءُ بِقُوَّتِهِ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ عَلٰی سَبْعِ مِاْثَاةٍ • وَیُعِزُّ لِمَنْ یَشَاءُ بِقُوَّتِهِ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ عَلٰی سَبْعِ مِاْثَاةٍ • وَیُعِزُّ لِمَنْ یَشَاءُ بِقُوَّتِهِ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ عَلٰی سَبْعِ مِاْثَاةٍ •

سَبَبُ الْمَصِیْبَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہمارے سردار مصیبت پہنچائے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن سعد
ابن ابی وقاص
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ
بَلَاءً قَالَ الْأَنْبِيَاءُ
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ
ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ
مَنْ النَّاسِ يَبْتَلِي
الرَّجُلَ عَلَى حَسَبِ
دِينِهِ فَإِنَّ كَانَ
فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ
زِيدَ فِي بَلَاءِهِ وَإِنْ
كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةٌ

حضرت سعد بن ابی وقاص
رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ میں
نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ
لوگوں میں مصیبت کے لحاظ سے
کون لوگ سب سے بڑھ کر ہیں۔
آپ نے فرمایا (وہ) انبیاء کرام
عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ہیں پھر ان کے بعد صالحین
کا گروہ ہے۔ پھر درجہ بدرجہ (حسب
دین و ایمان) بلا اور مصیبت آتی
ہے۔ یعنی آدمی کو اس کی دینی حالت
کے لحاظ سے مصائب کی آزمائش
میں ڈالا جاتا ہے۔ اگر اس کی دین
پر سختی ہوگی تو بلا و مصیبت میں بھی
اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس

وَمَا تَقْبَلُ مِنْهَا أَنْتَ التَّوْبَةَ الْعَلِيمَ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

خفت عنه وما يزال
البلاء بالعبد حتى
يمشي على ظهر
الأرض ليس
عليه خطيئة.

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۴۲)

عن أنس بن مالك
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى ابْنِ سَيْفِ الْقَيْنِ
وَكَانَ ظَنُرَ الْإِبْرَاهِيمِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَاخَذَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَقَبَلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ
دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ
ذَلِكَ وَابْرَاهِيمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَجَعَلَتْ
عَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ -

(الحديث)

(صحیح البخاری ج ۱ - ص ۱۴۲)

کے دین میں ضعف ہوگا تو اس
پر مصائب میں بھی تخفیف ہوتی
ہے۔ اور بندہ ہمیشہ مصیبتوں
میں گھرا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین
پر اس حال میں چلتا ہے کہ مصائب
کے کفارہ ہو جانے سے اس پر
کوئی خطا باقی نہیں رہ جاتی۔

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں
کہ ہم حضور اقدس رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے ہمراہ
ابو سیف لوبار کے ہاں گئے اور
وہ حضرت ابراہیم رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی دالی
کے شوہر تھے۔ تو حضور اقدس رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نے حضرت ابراہیم رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو لے
لیا اور انہیں پیار کیا اور ان کے
اوپر منہ رکھا پھر ہم اس کے بعد
ابو سیف کے ہاں گئے اور حضرت
ابراہیم رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنی جان اللہ تعالیٰ
کو دے رہے تھے۔ تو حضور اقدس رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
کی دونوں آنکھیں بہنے
لگیں۔

والعزى وتدعو الى
 الهك العزيز الحكيم لولا
 رحم بينى وبينك ما كلمتك
 الكلام حتى اقتلك
 ولكن ادع الهك
 العزيز الحكيم ينجيك
 منى اليوم وساعرض
 عليك امرا هل لك الى
 ان اصارعك وتدعو الهك
 العزيز الحكيم ان يعينك
 على وانا ادعو اللات
 والعزى فان انت صرعتنى
 فلك عشر من غنى هذه
 تخارها فقال عند ذلك
 نبى الله ﷺ نعم ان
 شئت فاخذ فدعا نبى الله
 ﷺ الهه العزيز الحكيم
 ان يعينه على ركانه
 ودعا ركانه اللات والعزى
 اعنى على محمد فاخذ النبى
 ﷺ فصرعه وجلس على
 صدره - (دلائل النبوة ج ۱ ص ۱۲)

کی طرف دعوت دیتا ہے اگر تیرا
 میرے ساتھ قرابت داری کا تعلق نہ ہوتا
 تو میں آج تجھ سے بات بھی نہ کرتا یہاں
 تک کہ تجھے قتل کر دیتا۔ لیکن میں تیرے
 سامنے ایک اور بات پیش کرتا ہوں
 اپنے معبود عزیز الحکیم کو پکارو جو مجھ سے
 آج تجھے نجات دے۔ وہ معاملہ یہ ہے
 کہ میں تجھ سے کشتی لڑتا ہوں اور تو
 اپنے معبود عزیز الحکیم کو میرے خلاف
 مدد کے لیے پکار اور میں لات اور
 عزی کو پکارتا ہوں۔ پھر اگر تو مجھے
 پچھاڑ کر گرا دے تو تجھے اختیار ہے
 کہ میرے ریوڑ میں سے دس بکریاں
 پسند کر کے لے لے۔ اس وقت نبی
 کریم ﷺ نے فرمایا اگر تو کشتی لڑتا
 چاہتا ہے تو مجھے منظور ہے پھر نبی کریم
 ﷺ نے اپنے معبود عزیز الحکیم کی
 بارگاہ میں رکازہ کی خلاف مدد کیلئے دعا کی
 اور رکازہ نے لات اور عزی کو آپ پر مدد
 کے لیے پکارا۔ اس کے بعد نبی کریم
 ﷺ نے اُسے پکڑا اور زمین پر
 گرا دیا اور اس کی چھاتی پر بیٹھ گئے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِّنْ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْلِيهِ
وَعَشْرَتِهِ خَلْقِكَ وَجَمْعِهِمْ وَتَتَمِّمْ لِحَدِيثِكَ وَمَا أَذْكَرَ لَكَ اسْتَعْوَاكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

سَيِّدِكَ الْمُرْفُوحِ مَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار مصافحہ کرنے والے درود سلام بھیجیے اللہ آپ سے

عن ابن مسعود
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَلَّمَنِي
النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُدَ وَ
كُنِيَ بَيْنَ كَفِيهِ -

(صحیح البخاری ج ۲ - ص ۹۲۶)
عن انس بن مالك
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا اخذ
رسول الله ﷺ بيد رجل
ففارقه حتى قال اللهم
أتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار -
عمل اليوم والليلة لابن سني ص ۱۰۷ شمارہ ۲

حضرت ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
روایت ہے آپ نے فرمایا کہ
حضور اقدس ﷺ نے مجھے تشہد
سکھایا اور میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں
کے بیچ میں لے کر مصافحہ کیا۔

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ جناب
رسول اللہ ﷺ جب بھی کسی
سے مصافحہ کرتے تو اس کا ہاتھ نہ
چھوڑتے جب تک یہ نہ پڑھ لیتے
اے اللہ عطا کر ہمیں دنیا میں بھلائی
اور آخرت میں بھلائی اور بچا ہم کو
دوزخ کے عذاب سے۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا اللَّهُ
الْمُرْسَلِ وَمَلَكًا مَرِيضًا عَلَى سَنَابِلٍ وَمَلَائِكَةً مُنْجِلِينَ لِقَوْلِ الشَّيْءِ الْأَمْرِ وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَسَوْفَ يُعْطِ اللَّهُ لَهُ مِنْ حَيْثُ يُرِيدُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

سَيِّدُكَ الْمَصِحُّ الْحَامِ

ہمارے سردار صلح کرانے والے دُرُودِ سَلَامِ بِحُجَّجِ اللَّاتِیۡنِ

حضرت برار بن عازب رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ جب حضور
اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ والوں
سے صلح کی تو آپ نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ سے ایک تحریر ان کے
لیے لکھوائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے
درمیان صلح درست ہے۔ راوی
احمد رضی اللہ عنہ نے اتنا زیادہ کہا کہ وہ
صلح (درست) نہیں جو حرام کو حلال
کرے اور حلال کو حرام کرے۔

عن البراء بن عازب
رضی اللہ عنہ قال لما صالح
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
اهل الحدیبیۃ کتب
علی رضی اللہ عنہ بینہم کتابا (الحديث)
(صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۷۱)

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم الصلح جائز بین
المسلمین زاد احمد رضی اللہ عنہ
الا صلحا حرم حلالا او
احل حراما۔
(سنن ابی داؤد ج ۲ ص ۱۵۰)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لِحَقِّهِ الْأَنْبِيَاءَ اللَّهُ
الَّذِينَ صَلَّوْا وَسَلَّمُوا وَكَرَّمُوا عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِيهِ
وَعَشْرَتِهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُمْ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُمْ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُمْ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُمْ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُمْ وَسَلَّمَ

سَيِّدِنَا الْمَصْبِحُ

ہمارے سردار چراغ روشن درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”وَهُوَ چراغ ایک قندیل
میں ہے۔“
چراغ اور ایک مشہور ستارا۔
یہ اسم مبارک آپ کا اس لیے رکھا
گیا۔ کہ آپ کی وجہ سے آفاق
روشن ہوئے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے۔ کہ سورہ نور کی
آیت (کمشکوة فیہا
مصباح) میں فرماتے ہیں۔ کہ
مشکوة سے مراد حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک ہے۔
الزجاج (شیشہ) سے مراد

اشارہ الی قوله،
”الْمَصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ط“
(سورة النور ۳۵)
السراج واحد اعلام
الکواکب سمي به صلی اللہ علیہ وسلم لانه
اضاء به الافاق۔
(شرح المواهب اللدنیة للذقانی ج ۱ ص ۱۲۵)
عن ابن عمر
رضی اللہ عنہما فی قوله
کمشکاة فیہا مصباح
قال المشکاة جوف
محمد صلی اللہ علیہ وسلم والزجاج
قلبه و المصباح النور
الذی فی قلبه

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

توفد من شجرة
مباركة الشجرة ابراهيم
عليه السلام زيتونة لا
شرقية ولا غربية
لا يهودية ولا نصرانية
ثم قرأ ما كان
ابراهيم عليه السلام
يهودياً ولا نصرانياً
ولكن كان
حنيفاً مسلماً و
ما كان من
المشركين -

(الدر المنثور ج ۲ ص ۲۸)

آپ کا دل مبارک ہے۔ اور
مصباح چراغ سے مراد وہ نور
ہے۔ جو آپ کے دل میں موجود
ہے۔ اور شجرہ مبارکہ بابرکت
درخت سے مراد حضرت ابراہیم
عليه السلام ہیں (لا شرقية و
لا غربية) سے مراد یہ ہے
کہ آپ یودی اور نصاریٰ میں
سے نہ ہوں گے۔ پھر آپ نے
یہ آیت پڑھی۔ حضرت ابراہیم
عليه السلام نہ یودی تھے اور نہ
ہی عیسائی۔ لیکن وہ ایک طرف
مسلمان تھے اور مشرکوں سے
ان کا تعلق بالکل نہ تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے
کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا مجھ پر
یہ آیت اتاری گئی ہے۔ اے نبی ہم نے
تجھے آپ کی امت پر گواہ بنا کر بہشت
کی خوشخبری دینے والا اور آگ سے ڈرانے
والا اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ
کی اپنے حکم سے دعوت دینے والا اور
روشن چراغ قرآن کریم کیساتھ بھیجا ہے۔

عن علی رضی اللہ عنہما قال قال
رسول الله ﷺ فانه قد انزل
علي يا ايها النبي انا ارسلتك شاهداً
علي امتك ومبشراً بالجنة ونذيراً
من النار وداعياً الى شهادة ان
لا اله الا الله باذنه وسراجاً
منيراً بالقرآن - (رواه الطبراني،
تفسير ابن كثير ج ۲ - ص ۲۹۷)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَنْتُمْ بِمَدُونِ كُلِّ مَلَكٍ لَمْ يَلِدْ
وَمَهْمًا وَخَلَقَتْ رُوحِي لِيُحْيِيكَ وَيُنْزِلَكَ وَمَا دَعَاكَ اسْتَعْوَضَ اللَّهُ بِكَ لَأَلَّا أَكْفُرَ بِكَ وَآسُؤِبَ إِلَيْكَ

سَيِّدِكَ الْمَصْدِقِ

ہمارے سردار تصدیق کرنے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
” اور جو لوگ سچی بات لے کر
آئے۔ اور (خود بھی) اس کو سچ
جانا تو یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔“
یہ اسم گرامی حضور اقدس ﷺ
کا اس لیے رکھا گیا کہ حضرت جبریل
ﷺ نے جو اللہ تعالیٰ سے وحی
کی خبر دی اس کی آپ نے تصدیق
فرمائی۔

حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے فرمایا
آپ اگلے نبیوں کی تصدیق کرنے
والے ہیں اور سخاوت میں سب
جہاں سے سخی ہیں۔

اشارة الى قوله :
” وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ
وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ “ (سورة الزمر ۳۳)
وسمی بسم اللہ علیہ وسلم
بذلك لانه صدق جبریل
ﷺ فيما اخبر به عن
الله تعالى من الوحي -
(سبل الهدى ج ۱ - ص ۲۳۸)

قال حسان رضي الله عنه :
” مصدقا للنبين الالى سلفوا
وابذل الناس للمعروف للجادي “
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۲ ص ۲۲۲)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَعَشِيرَتِهِ بِمَدِينَةِ نَبِيِّكَ
وَمَدِينَةِ خَلْقِكَ وَبِحَضْرَتِكَ وَمَدِينَةِ كَلِمَاتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْمُؤْتَمِرُ بِالْمَدِينَةِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَلِكٌ قَدِيمٌ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سردار تصدیق کئے گئے درود سلام بھیجیے اللہ آپ سے

عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قال شهدنا مع النبي
ﷺ خيبر فقال النبي
ﷺ لرجل ممن
معه يد عن بالاسلام
ان هذا من اهل النار
فذكر معناه الا انه
قال فاشد على
رجال من المسلمين
فقالوا يا رسول الله
ﷺ قد صدوت الله
حديثك و قد انتحر
فلان فقتل نفسه.
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۱۰۲)

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
مروی ہے کہ ہم جناب رسول اللہ
ﷺ کے ساتھ غزوہ خیبر میں حاضر ہوئے
تو آپ نے ایک شخص کے بارے میں جو آپ
کے ساتھ تھا اور اسلام پر اعتقاد رکھتا
تھا فرمایا یہ اہل نار میں سے ہے اس کے
بعد راوی نے سابقہ حدیث کا مضمون
بیان کیا۔ البتہ اس میں ان الفاظ کا
اضافہ ہے کہ یہ بات کچھ مسلمانوں کے گراں
گذری پس ازاں انہوں نے عرض کیا
یا رسول اللہ ﷺ اللہ نے آپ
کی بات کو سچا کر دکھایا فلاں شخص نے
خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو قتل
کر دیا۔

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

لو تھڑا رہتا ہے پھر اللہ ایک فرشتہ
کو چار باتوں کے ساتھ بھیجتا ہے۔
پس وہ اس کا عمل اور اس کی عمر اور اس کا
رزق اور یہ بات کہ وہ شقی ہوگا یا
سعید لکھ دیتا ہے۔ پھر اس میں روح
پھونکی جاتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ میں نے ابو القاسم
رضی اللہ عنہ سے سنا جو سچے تھے اور
لوگ ان کو سچا جانتے تھے۔ اس
حجرے میں رہتے تھے۔ آپ
رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ رحمت
رشفقت اور مہربانی اور نرمی نہیں
چھینی جاتی ہے۔ مگر بد بخت سے۔
حضرت عبداللہ (بن مسعود)
رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضور
اقدم رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا
اور وہ صادق و مصدوق تھے۔

کلمات فیکتب عملہ و
اجلہ و رزقہ و شقی
او سعید ثم ینفخ فیہ
الروح۔ (الحديث)
(صحیح البخاری ج ۱ - ص ۲۶۹)

عن ابی ہریرۃ
رضی اللہ عنہ قال سمعت
ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم
الصادق المصدوق صاحب
ہذہ الحجرة یقول
لاتنزع الرحمة الا
من شقی۔

(سنن ابی داؤد ج ۲ - ص ۲۲۰)

عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وهو الصادق المصدوق۔
(الحديث) (صحیح البخاری ج ۱ ص ۲۵۶)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • سَأَلْنَا اللَّهَ لَكَفَّةَ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَلَائِكَةِ الْمَلَكُوتِ
وَبِمَدَدِ حَقَائِقِ رُوحِ قُدْسِكَ وَبِنِعْمَتِكَ وَمَدَدِ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِينُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِنَا مُصْطَفَى

ہمارے سردار
پسند فرمائے گئے
دُور و سلا بھیجے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اللہ تعالیٰ رکوع اختیار ہے رست
کے لیے جس کو چاہتا ہے منتخب
کر لیتا ہے۔ فرشتوں میں سے
رحمن فرشتوں کو چاہے احکام پہنچانے
والے مقرر فرماتا ہے۔“ (اسی
طرح) آدمیوں میں سے۔“
حضرت عوف بن مالک
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور اقدس ﷺ نے فرمایا
اللہ کی قسم میں حاشرا کٹھا کر نیوالا
ہوں۔ میں سب سے آخری نبی ہوں
اور میں ہی پسند فرمایا گیا نبی
ہوں۔

اشارہ الی قوله:
”اللَّهُ يُصْطَفِي
مِنَ الْمَلَائِكَةِ
رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ“
(سورة الحج ۷۵)
عن عوف بن
مالك رضي الله عنه قال قال
رسول الله ﷺ
فوالله اني لانا الحاشر
وانا العاقب وانا النبي
المصطفى -
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۶ ص ۲۵)

رَبَّنَا نَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَنْتُمْ بِمَقْدَمِهِمْ إِنَّ
وَعْدَ وَحُلُقُوتِكَ بِرَبِّكَ وَبَشَرِيَّتِكَ وَوَعْدَ حَقِّكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ الْحَقِيمُ وَالْحَقُّ الْحَقِيمُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِكِ الْمَلَكُوتِ السَّمَاءِ

ہمارے سردار آسمان کی طرف لے جائے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک
جانور لایا گیا جو گدھے سے بڑا تھا
اور نچر سے چھوٹا تھا۔ اس کا قدم
جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی
پڑتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا اور
میرے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام
تھے تو میں چلا۔ حضرت جبریل
علیہ السلام نے کہا اتریں اور نماز پڑھیں
میں اُترا اور نماز پڑھی حضرت جبریل
علیہ السلام نے کہا آپ جانتے ہیں
آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ آپ
نے طیبہ میں نماز پڑھی ہے۔ اسی

عن انس بن
مالك رضی اللہ عنہ قال
ان رسول الله
صلی اللہ علیہ وسلم قال اتیت
بدا بة فوت الحمار
و دون البعل
خطوها عند منتهی
طرفها فركبت
و مع جبریل علیہ السلام
فسرت فقال انزل
فصل ففعلت فقال
اتدری این
صلیت صلیت بطیبة
و ایها المهاجر تم

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبَّ الْعَالَمِین ط

قال انزل فصل
فصلیت فقال اتدری
این صلیت صلیت
بطور سیناء حیث
كلم الله موسى
ﷺ ثم قال
انزل فصل فنزلت
فصلیت فقال
اتدری این صلیت
صلیت ببیت لحم
حیث ولد عیسی
ﷺ ثم دخلت
الى بیت المقدس
فجمع لى الانبیاء
ﷺ فقد منى
جبرئیل ﷺ حتى
امتهم ثم صعد بى
الى السماء الدنيا
فاذا فیها آدم
ﷺ - (الحديث)

(سنن النسائی ج ۱ ص ۴)

کی طرف ہجرت ہوگی۔ پھر حضرت
جبریل ﷺ نے کہا اتریں اور
نماز پڑھیں۔ میں نے نماز پڑھی۔
انہوں نے پوچھا آپ جانتے ہیں
آپ نے کہاں نماز پڑھی؟ یہ
طور سینا ہے۔ جہاں حضرت موسیٰ
ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے کلام
کی تھی۔ پھر کہا اتریں اور نماز پڑھیں
میں اُترا اور نماز پڑھی۔ پھر حضرت
جبریل ﷺ نے پوچھا آپ
جانتے ہیں؟ آپ نے کہاں نماز
پڑھی؟ یہ بیت لحم ہے جہاں پر
حضرت عیسیٰ ﷺ پیدا ہوئے
تھے۔ پھر میں بیت المقدس میں
پہنچا۔ وہاں تمام انبیاء ﷺ
اکٹھے کئے گئے۔ حضرت جبریل
ﷺ نے مجھے آگے کیا۔ میں
سب کا امام بنا پھر حضرت
جبریل ﷺ مجھ کو چڑھا کر پہلے
آسمان پر لے گئے۔ وہاں پر حضرت
آدم ﷺ ملے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَنْ مَلَكَ الْوَدَّ
وَمَدَدِ مَنْ مَلَكَ الْوَدَّ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَنْ مَلَكَ الْوَدَّ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ
وَصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ مَنْ مَلَكَ الْوَدَّ

ہمارے سرکار اللہ کی طرف لے جائے گئے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا جب مجھے اپنے رب کی طرف اٹھایا گیا تو میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے جو اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے (یعنی غیبت کرتے تھے) اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔

عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي الى رب عز وجل مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرئيل عليه السلام؟ قال هؤلاء الذين ياكلون لحم الناس ويقعون في اعراضهم۔

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۲۲۳)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَحَسْبُنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأَمِينُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَزِّزْ بَعْدَهُ فِي مَقَامِكَ
وَعَمَلِهِ وَخَلْقِكَ وَجِزْ نَفْسِكَ وَتَحَرِّمْنَا وَمَا دَخَلْنَاكَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْمُتَكَبِّرُ الْكَبِيرُ

مَلَصَفَاءُ

سَيِّدِكَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار پاک صاف درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
» بیشک اللہ تعالیٰ نے (نبوت کے لیے)
منتخب فرمایا ہے (حضرت) آدم کو اور
(حضرت) نوح کو اور (حضرت) ابراہیم
کی اولاد میں سے بعضوں کو اور عمران
کی اولاد میں سے بعضوں کو تمام جہان پر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیہ یونٹھا۔
سب کچھ معلوم ہے کہ آپ اخلاق میں
پاک صاف تھے۔ اور پاک امنی میں تو
آپ کی مثال نہیں ملتی یہ آپ کی پاکیزہ میت
اور جسم پر میری جان قربان ہو۔ کیا
ہی پاک ذکر اور اخلاق اور جسم ہے۔

اشارہ الی قوله،
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى
آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ
إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ
عَلَى الْعَالَمِينَ ۝
(سورة ال عمران ۳۳)
قال ابو بکر الصديق
رضی اللہ عنہ يرثيه صلی اللہ علیہ وسلم :
"كان المصفاة في الاخلاق قد علموا
وفي العفاف فلم تعدل بواحد
نفسى فداؤك من ميت ومن بدن
ما اطيب الذکر والاخلاق والجسدا
(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۲۲)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَمِّرْهُمْ بِعَدْوَى كُلِّ مَلَكٍ وَأَنْ
وَبَعْدَ وَحَلَّتْ وَجْهِي نَفْسِكَ وَتَشْرِيفِكَ وَمَدَادَ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْكَافِرُ الْغَافِقُ وَأَمَّا الْيَوْمُ

سَيِّدِكَ الْمَصْدِقِ

ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
ان انا ساً من بنى عمرو بن
عوفٍ كان بينهم
شئ فخرج اليهم النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في اناس من
اصحابه يصلح بينهم فحضرت
الصلوة ولم يأت النبي
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاذن بلال رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
بالصلوة ولم يأت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فجاء الى ابى بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فقال
ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حبس وقد
حضرت الصلوة فهل لك
ان تؤم الناس فقال نعم ان شئت
(الحديث، صحيح البخارى ج ۱ ص ۲۰۲)

حضرت سہل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
روایت ہے کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے کچھ
لوگوں میں باہم جھگڑا تھا تو حضور اقدس
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اپنے چند اصحاب کے ہمراہ ان لوگوں
کے درمیان صلح کرنے کیلئے تشریف لے گئے
پھر نماز کا وقت آیا اور حضور اقدس
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشریف لائے تو حضرت بلال
نے نماز کیلئے اذان دی اور پھر بھی حضور
اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشریف لائے تو وہ حضرت
ابوبکر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ
جناب رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو دیر ہو گئی اور
نماز کا وقت آیا ہے پس کیا آپ کی مرضی ہے کہ
آپ لوگوں کی امام کریں تو انہوں نے جواب دیا
ہاں اگر تم چاہو۔ تو میں نماز پڑھاؤں گا

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَبِيٌّ بَعْدَكَ
وَمَعَهُ صَلَاتُكَ وَبَرَكَاتُكَ وَتَحِيَّاتُكَ وَتَسْبِيحُكَ وَتَعْظِيمُكَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَبِيٌّ بَعْدَكَ

سُبْحَانَكَ يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ إِلَهِي الْبَدِيْعِي

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مَنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ نَبِيٌّ بَعْدَكَ

ہمارے سردار بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لئے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی آیتیں

حضرت برار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے چھ یا سات مہینے نماز پڑھی۔ مگر آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرمایا کہ حضور اقدس ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے سولہ ماہ نماز پڑھی پھر بعد میں قبلہ تبدیل ہو گیا۔

عن البراء رضی اللہ عنہما قال لما قدم رسول الله ﷺ المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة او سبعة عشر شهرا و كان رسول الله ﷺ يحب ان يوجه الى الكعبة - (الحديث) (جامع الترمذی ج ۲ - ص ۱۲)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلى رسول الله ﷺ الى بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم صرفت القبلة بعد - (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۵)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

فقد منى فصليت
بهم فلما انصرفت
قال جبريل عليه السلام
يا محمد صلوات الله عليه وسلم ادرى
من صلى خلفك ؟
قال قلت لا
قال صلى خلفك
كل نبى بعثه الله
عز وجل .

(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۷)
عن أنس بن مالك
رضي الله عنه في قصة المعراج
ثم بعث له آدم فمن
دونه من الانبياء
عليهم السلام فأمهم رسول الله
صلوات الله عليه وسلم تلك الليلة .
(تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۳۷)

ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ رجاعت
کرائی، پھر جب نماز سے میں فارغ
ہوا تو حضرت جبریل عليه السلام نے
پوچھا۔ یا محمد صلوات الله عليه وسلم آپ جانتے
ہیں کہ آپ کے پیچھے کس نے نماز
پڑھی ہے۔ میں نے کہا کہ میں
نہیں جانتا۔ حضرت جبریل عليه السلام
نے کہا آپ کے پیچھے تمام نبیوں
نے نماز ادا کی ہے جس قدر انبیاء
اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں۔
حضرت انس بن مالک رضي الله عنه
سے قصہ معراج میں روایت ہے
آپ صلوات الله عليه وسلم نے فرمایا پھر حضرت
آدم عليه السلام سے لے کر تمام پیغمبر
نماز پڑھنے کے لیے اُٹھے تو
آپ صلوات الله عليه وسلم نے اس رات
ان کی امامت فرمائی۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَنْتُمْ مَعَهُ عَلَىٰ تَمْلُؤِ لَدُنِّي
وَمَعَدِ خَلْقِكَ وَرَوْحِ نَسْتِكَ وَتَشْرِيفِكَ وَتَمَادُكَ عَلَىٰ أُمَّةٍ كَرَّمْتَ لَهَا الْأَكْرَامَ وَالْمُحْتَضِرِينَ وَالْمُحْتَضِرَاتِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُضِيٍّ

ہمارے سردار بدر میں نماز پڑھنے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم میدان بدر میں حضور اقدس ﷺ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ ﷺ نماز میں مسکرائے جب آپ نے نماز پڑھ لی تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ ہم نے آپ کو نماز میں مسکراتے دیکھا آپ نے فرمایا جبریل علیہ السلام میرے پاس سے گزرے اور اس کے پردوں پر گرد و غبار تھا۔ اور وہ کفار کو ڈھونڈنے واپس آ رہا تھا وہ ہنس پڑا تو میں مسکرا دیا۔

عن جابر رضي الله عنه
قال كنا نصلي مع
رسول الله ﷺ
في غزوة بدر اذ تبسم
في صلاته فلما قضى
الصلاة قلنا يا رسول الله
ﷺ رأيناك تبسمت قال
مر بي ميكائيل عليه السلام
وعلى جناحه اتر غبار
وهو راجع من طلب القوم
فضحك الي فتبسمت اليه
رواه ابو يعلى مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
ج ۶ - ص ۸۳

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

عليها فانطلقت تهوى
بنايقع حافرها
حيث انتهى طرفها
حتى بلغت ارضا
ذات نخل فانزلني
فقال صل فصليت
ثم ركبت فقال
اندرى اين صليت
قلت الله اعلم
قال صليت بيثرب
صليت بطيبة -

(تفسير ابن كثير ج ۳ - ص ۱۳)

روى ابن شعبة
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ كَانُوا
يُسَمُّونَ يَثْرِبَ فَمَا هِيَ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
طَيْبَةَ وَ فِي حَدِيثٍ لِلْمَدِينَةِ
عَشْرَةَ أَسْمَاءَ هِيَ الْمَدِينَةُ
وَ طَيْبَةُ وَ طَابَةُ -

(وفاء الوفا ج ۱ - ص ۱)

اس پر سوار کرایا وہ مجھے لے کر چل
پڑا۔ اس کے سم حد نظر تک پڑتے
تھے۔ حتیٰ کہ ہم ایک کھجوروں والی
زمین میں پہنچے۔ تو انہوں نے مجھے
اتار کر کہا کہ نماز پڑھ لیں۔ میں نماز
پڑھ کر پھر اس پر سوار ہو گیا۔ تو حضرت
جبریل عَلَیْهِ السَّلَام بولے۔ آپ جانتے
ہیں۔ کہ آپ نے کہاں نماز پڑھی
میں نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا
ہے۔ حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلَام نے کہا
کہ آپ نے یثرب میں نماز پڑھی
یعنی آپ نے طیبہ (مدینہ) میں
نماز پڑھی۔

امام ابن شیبہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرُهُ
رَوَايَتُ كِي هِيَ - كِه (يهودي)
مدینہ منورہ کو یثرب کہتے تھے -
حضور اقدس ﷺ نے اس کا نام
طیبہ رکھا اور دوسری روایت میں
آیا ہے۔ کہ مدینہ منورہ کے دس نام
ہیں۔ وہ مدینہ بھی ہے طیبہ
اور طابہ بھی ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَصَفِّهِمْ بِمَدُونِ كُلِّ سَلَامٍ أَنْ
رَبِّهِمْ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار مدین میں نماز پڑھنے والے درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت شداد بن اوس
رضی اللہ عنہ سے معراج کے واقعہ میں روایت
ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ براق
ہمیں لے کر چل پڑا اسکے قدم آہٹائے
نظر پڑتے تھے۔ پھر ہم ایک زمین میں
پہنچے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ
اُتر کر نماز پڑھ لیں میں نے وہاں نماز
پڑھی۔ پھر ہم سوار ہو گئے۔ حضرت جبریل
علیہ السلام نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ
آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حضرت
جبریل علیہ السلام بولے آپ نے مدین
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت
کے نزدیک نماز پڑھی۔

عن شداد بن
اوس رضي الله عنه في قصة
المعراج قال فانطلقت
تهوى بنا يقع حافرها
عند منتهى طرفها
ثم بلغنا ارضا
قال انزل ثم
قال صل فصليت
ثم ركنا فقال
اتدري اين صليت؟
قلت الله اعلم
قال صليت بمدین عند
شجرة موسى عليه السلام -

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۲)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتَهُمْ وَمَنْ تَعَلَّقَ بِهِمْ
 وَرَمَدَ وَخَلَقَ بِهِمْ وَنَشَأَ بِهِمْ وَنَمَّاهُمْ بِكَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَكْرَمُ الْكِرَامِ وَأَكْرَمُ الْوَالِدِ وَأَكْرَمُ الْوَالِدِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ

ہمارے سردار درود شریف بھیجے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ پر

اِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ
 "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ
 يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ
 وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"

(سورة الاحزاب ۵۶)

عن ابن عمر و ابی
 هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلُّوا
 عَلَيَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ
 عَلَى صُلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ -
 (اخرجه ابن عدی / القول البدیع ص ۲۵)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
 "بیشک اللہ تعالیٰ اور اس
 کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ ان
 پیغمبر پر اسے ایمان والو تم بھی آپ
 پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام
 بھیجا کرو۔"

حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت
 ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سے روایت
 ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے
 فرمایا تم مجھ پر درود بھیجو اللہ تعالیٰ
 تم پر رحمتیں نازل فرمائے گا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا نَالَهُ لَأَخِيهِ الْإِنْسَانِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَعَنْهُمْ وَعَلَىٰ مَنْ تَلَمَّذُوا مِنْهُمْ
وَعَلَىٰ مَنْ تَلَمَّذُوا مِنْهُمْ وَعَلَىٰ مَنْ تَلَمَّذُوا مِنْهُمْ وَعَلَىٰ مَنْ تَلَمَّذُوا مِنْهُمْ

سَيِّدِنَا صَلَوَاتُكَ وَسَلَامُكَ

ہمارے سردار محفوظ درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

<p>حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمزاد جن مومل کر دیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ پر بھی آپ نے فرمایا اور مجھ پر بھی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں میری مدد فرمائی۔ اس لیے وہ تال بعد اد ہو گیا ہے۔ اب نیکی کے علاوہ وہ کسی بات کا مشورہ نہیں دیتا۔</p>	<p>عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ ما منكم من احد الا وقد وكل الله به قرينه من الجن قالوا و اياك يا رسول الله ﷺ قال و اياي الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يا مرفف الا بخير - (اصحح مسلم ج ۲ - ص ۲۷۶)</p>
---	--

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امين امين امين يَا رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْبَشَرَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَعَشِيرَتِهِ بِعَدَدِ كُلِّ مَلَكٍ مَلَكٌ
وَبِعَدَدِ كُلِّ نَفْسٍ نَفْسٌ وَبِعَدَدِ كُلِّ كَلِمَةٍ كَلِمَةٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْحَقُّ الْقَدِيمُ وَأَمَّا بَعْدُ

مُصِيبَةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار صحیح فیصلہ فرمانے والے دُورِ سلا بھیجے اللہ آپ کے

عن عربین
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن
الرَّأْيَ إِنَّمَا كَانَ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُصِيبًا لِأَنَّ اللَّهَ كَانَ
يُرِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ
الظَّنِّ وَالتَّكَلُّفِ -

(سنن ابی داؤد ج ۲ - ص ۱۲۹)

حضرت عمر بن خطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
نے منبر کے اُپر فرمایا اے لوگو
حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی رائے
ٹھیک تھی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان
کو سمجھاتا تھا۔ اور ہماری رائے
ایک گمان ہے اور محنت ہے۔
یعنی ہم محنت اور خوض کر کے
ایک رائے نکالتے ہیں۔ پھر اس
پر بھی بھروسہ نہ چاہیے کہ یہ ہمیشہ
صحیح اور درست ہوگی۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

احدى يديه تحت
ذقنه و الاخرى
فى فاس راسه
فقبله و قال
حسين رضي الله عنه منى
و انا من حسين
رضي الله عنه احب الله من
احب حسيناً رضي الله عنه
حسين رضي الله عنه سبط
من الاسباط -

(سنن ابن ماجه ص ۱۳ و ۱۴)

عن النعمان بن بشير
رضي الله عنه فى حديث قال
ثم جاء ابو بكر رضي الله عنه
فاستأذن عليه فوجدته
يضاحكها قال فاذن له
فدخل فقال له
ابو بكر رضي الله عنه يا رسول الله
صل الله عليه وسلم اشركانى
فى سلمكما كما
اشركتانى فى حربكما -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۳ - ص ۲۴۲)

میں حضور اقدس ﷺ نے ان
کو پکڑ کر ایک ہاتھ ذقن (ٹھوڑی)
کے نیچے رکھا اور ایک گدھی کے
نیچے اور ان کے چہرے کو بوسہ دیا۔
اور فرمایا حضرت حسین رضي الله عنه
مجھ سے ہے اور میں حضرت حسین
رضي الله عنه سے ہوں۔ جو شخص حضرت
حسین رضي الله عنه سے محبت کرے
گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے
گا۔ حضرت حسین رضي الله عنه میرا
نواسہ ہے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضي الله عنه
سے ایک حدیث میں روایت ہے۔
پھر ایک دفعہ حضرت ابو بکر رضي الله عنه
تشریف لائے اور انہوں نے اجازت
طلب کی تو آپ حضرت عائشہ صدیقہ
رضي الله عنها کو ہنس رہے تھے۔ آپ نے
حضرت ابو بکر رضي الله عنه کو اجازت
دی۔ حضرت ابو بکر رضي الله عنه نے عرض کی
کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے
اپنی صلح میں داخل فرمایا جیسے آپ
نے مجھے اپنی لڑائی میں شامل کر لیا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَتَرِهِ بِعَدْوَيْهِمْ
وَعَدْوِ خَلْقِكَ وَجِيهِ قَلْبِكَ وَتَحَرُّمِكَ وَمَدَاوِلِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَمَّا بَعْدُ

مَنْ فِيكُمْ مِنْكُمْ

سَيِّدِكُمْ

ہمارے سردار حسب و نسب میں پاک درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت حسان بن ثابت
رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم ﷺ
کا مرثیہ یوں پڑھا:
ہمارے رسول جو نجیب الطہین
ہیں۔ ان پر رو۔ سارے جہان
سے برد باد پاک دامن جو جہالت
سے پاک ہیں۔

حضرت فریم بن اوس بن جاریہ
بن لام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ ہم حضور اقدس ﷺ کی
خدمت اقدس میں حاضر تھے۔
حضرت عباس بن عبدالمطلب
رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ
کے رسول میں آپ کی طرح کرنیکا

قال حسان
ابن ثابت رضی اللہ عنہ یرثی
النبی صلی اللہ علیہ وسلم
"علی رسول لنا محض ضربتہ
سمع الخلیقة عفت غیر جہال"
(الطبقات الکبریٰ لابن سعد ج ۲ ص ۲۲۳)

عن خريم بن
اوس بن جارية بن
لام رضی اللہ عنہ قال کنا
عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
فقال له العباس
ابن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ
یا رسول اللہ ﷺ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

انی ارید ان امدحک
فقال له صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هات لا یفرض الله
فاک وانشأ
یقول:

" قبلها طبت فی الظلال و فی
مستودع حیث یخسف الودق
ثم هبطت البلاد لا بشر
انت ولا مضغة ولا علق"
(رواه الطبرانی)

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج ۱۲

عن ابن عباس

رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كنت و آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي

الجنة فِي صلبه و ركب

فِي السفينة فِي صلب

أج نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ و

قذف فِي النار

فِي صلب ابراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ -

(رواه ابن عساکر المنتخب كز العمال علی

هامش مسند الامام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۳۳)

ارادہ کرتا ہوں۔ آپ (ﷺ)
نے اُسے فرمایا کہ اللہ تیرے مُنہ کو
برائی سے بچائے۔ بتا کیا مدح کرتا
ہے۔ حضرت عباس رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے
مندرجہ ذیل شعر پڑھنے شروع کئے
آپ اس سے پہلے (بہشت)
میں ٹھنڈے سایے میں محفوظ رہیں
جہاں (آدم نے) پتوں کو جوڑا
تھا۔ پھر آپ شہروں میں نازل
ہوئے۔ نہ آپ بشر اور نہ ہی
بوٹی اور لو تھڑا تھے۔

حضرت ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

سے روایت ہے کہ حضور اقدس

ﷺ نے فرمایا میں اور حضرت

آدم عَلَيْهِ السَّلَامُ بہشت میں تھے۔

میں (اسوقت) انکی پشت میں تھا پھر

میں اپنے باپ حضرت نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ

کیساتھ کشتی میں سوار ہوا (اسوقت بھی)

میں انکی پشت مبارک میں تھا۔ اور مجھے

اپنے باپ حضرت ابراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ کے

ساتھ آگ میں پھینکا گیا۔ (اس وقت)

میں آپ کی پشت میں تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَصْرِتُمْ بِمَدُونِ كُلِّ سَلَامٍ أَنْ
 تَبَدَّدْتُمْ وَخَلَقْتُمْ وَجْهِي لِيُشْرِكُ وَمَا دَعَا لَكَ اسْتَشْفَاءُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَافِرُ الْبَغِيضُ وَالْمُؤْمِنُ الْإِلَهِيُّ

سَيِّدِنَا الْمَعْصُومِ

ہمارے سردار دو گنا ثواب دیے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ ایک شخص
 نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم
 مبارک پر ہاتھ رکھا۔ پھر کہنے لگا اللہ
 کی قسم بخار کی (گرمی کی) شدت کی
 وجہ سے میں آپ پر ہاتھ نہیں
 رکھ سکتا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء علیہم السلام
 کے گروہ کو دو گنا مصیبت پہنچائی
 جاتی ہے۔ اور ہمیں دو گنا ہی
 اجر دیا جاتا ہے۔



عن ابی سعید الخدری
رضی اللہ عنہ قال وضع رجل یدہ
 علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال
 واللہ ما اطیق ان
 اضع یدی علیک
 من شدة حماک
 فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
 انا معشر الانبیاء یضاعف
 لنا البلاء کما یضاعف
 لنا الاجر۔ الخ (الحديث)
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۹ ص ۹۲)

رَبَّنَا نَقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا سَأَلَ اللَّهُ لَأَقْرَبَ الْإِنْسَانَ إِلَهُهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَعَسِّرْ مَعْدُوهُ وَعَلِّمْ مَلَائِكَةَ
 قَوْمِهِ وَخَلْقَكَ وَجَمِيعَ نَسَبِكَ وَمَوَادِّ كَلِمَاتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِنَا ﷺ
مَضِي
 صِرْبِي عَلَيْهِ السَّلَام

ہمارے سردار قربانی کرنے والے دُرودِ سلام بھیجیے اللہ آپ کے

عن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 قال اقام رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالمدينة عشر
 سنين يضحى -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۸)

عن ثوبان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 قال ضحى رسول الله
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال
 يا ثوبان اصلح لنا
 لحم هذه الشاة قال
 فما زلت اطعمه منها
 حتى قدمنا المدينة -

(سنن ابى داؤد ج ۲ ص ۳۳)

حضرت عبداللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس
 صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے مدینہ منورہ میں دس
 سال قیام فرمایا ہر سال قربانی
 کرتے رہے۔

حضرت ثوبان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے یہ روایت
 ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے
 سفر میں قربانی کی۔ پھر فرمایا اے ثوبان
 ہمارے لیے اس بکری کے گوشت
 کو صاف کرو۔ حضرت ثوبان کا
 بیان ہے۔ پھر میں وہی گوشت
 آپ کو کھلاتا رہا۔ یہاں تک کہ
 ہم مدینے میں داخل ہوئے۔
 (سفر ختم ہوا)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين آمين يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَنَّتِ سَائِرُ النَّبِيِّ الْأَخْيَرِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمَكْرَمَةِ
وَمَدِينَةِ مَدْيَنَةَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَوَدَّكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلِيحِ إِزْوَانِ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سردار اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کر سوائے دُور و دُور سے بھیجے اللہ آپ کے

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

ان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دخل عليها وحاضت
بسرف قبل
ان تدخل مكة
وهي تبكي فقال
مالك انفسيت
قالت نعم قال
ان هذا امر
كتبه الله على
بنات ادم عَلَيْهِ السَّلَام
فاقضى ما يقضى
الحاج غير ان
لا تطوف بالبيت

حضرت عائشہ صدیقہ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ حضور
أقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ میرے پاس
تشریف لائے اور مجھے دخول کعبہ
سے پہلے مقام سرف میں ایام آگے
میں رنجیال حج نہ ہونے کے رو رہی
تھی۔ آپ نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا
کیا ایام آگے؟ میں نے عرض
کیا ہاں آپ نے فرمایا کچھ اندیشہ
کی بات نہیں کیونکہ یہ حکم اللہ نے
حضرت آدم عَلَيْهِ السَّلَام کی بیٹیوں
پر لکھ دیا ہے۔ اس کا فکر نہ
چاہیے۔ پس جو افعال دوسرے
حاجی کر رہے ہیں وہی تم بھی کرو

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
جب ہم منیٰ میں آئے تو میرے
پاس گائے کا گوشت لایا گیا میں
نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے
جواب دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک
گائے قربانی کی ہے۔ یہ اس کا
گوشت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے آپ نے فرمایا کہ
حجۃ الوداع میں حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی جن جن بیویوں نے
آپ کے ہمراہ عمرہ کیا تھا۔ ان
سب کی جانب سے قربانی میں
ایک گائے ذبح کی تھی۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
فعل کو ازواج مطہرات کی اجازت
پر محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ غیر کی
قربانی اس کی اجازت کے بغیر
ناجاز ہے۔

فلما كنا بمنى
أتيت بلحم بقر
فقلت ما هذا
قالوا ضحى رسول الله
ﷺ عن ازواجه
بالبقر.
(صحيح البخارى ج ۲ - ص ۸۳۲)

عن ابى هريرة
ﷺ قال ذبح
رسول الله ﷺ
عمن اعتمر من نسائه
في حجة الوداع بقرة
بينهن.
(سنن ابن ماجه ص ۲۲۶)

هذا محمول على انه
ﷺ استاذنهن في
ذلك فان تضحية الانسان
عن غيره لا تجوز الا باذنه.
(نوادى شرح مسلم ج ۱ - ص ۳۸۸)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لِأُمَّةٍ إِلَّا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدِنَا وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيَّ الْأَمِينِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَصَحْبِهِ مَعْدُونَ عَلَىٰ مِثْلِهِمْ لَكَ
 وَمَنْ يَتَّبِعْكَ يَخْسِرْ وَمَنْ يَخْسِرْكَ يَخْسِرْ دِينَهُ وَمَنْ يَخْسِرْكَ يَخْسِرْ نَفْسَهُ وَمَنْ يَخْسِرْكَ يَخْسِرْ عِلْمَهُ وَمَنْ يَخْسِرْكَ يَخْسِرْ عَمَلَهُ وَمَنْ يَخْسِرْكَ يَخْسِرْ عَمَلَهُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ

ہمارے سردار اپنی امت کی طرف سے قربانی کرنا اور دو سو سلام بھیجے اللہ آپ پر

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن دو
 بونے سینگ دار ابلق نختی ذبح
 کئے۔ اور ان کو رو بقبلہ کیا تو یہ دعا
 پڑھی میں نے ہر طرف سے منہ
 موڑ کر اس کی طرف منہ کیا جس نے
 آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور
 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
 دین پر ہوں، اور توحید کرنے والا
 ہوں اور مشرکوں میں سے نہیں
 ہوں۔ تحقیق میری نماز اور میری
 قربانی اور میرا جینا اور میرا مزاج
 اللہ کے لیے ہے۔ جو تمام جہانوں

عن جابر بن
 عبد الله رضی اللہ عنہ قال
 ذبح النبي صلی اللہ علیہ وسلم
 يوم الذبح كبشين
 اقرنين املحين
 موجونين فلما
 وجهما قال
 انى وجهت وجهى
 للذى فطر السموات
 والارض على ملة
 ابراهيم حنيفا و
 ما انا من المشركين
 ان صلوتى ونسكى
 ومحياى ومماتى

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

لله رب العالمين
لا شريك له و بذلك
امرنا و انا من
المسلمين اللهم
منك ولك عن
محمد ﷺ و امته
بسم الله و الله اكبر
شع ذبح -

(سنن ابی داؤد ج ۳ ص ۳)

عن ابی هريرة
رضي الله عنه ان رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد
ان يضحي اشترى
كباشين عظيمين سميين
اقربين املحين موجواين
فذبح احدهما عن امته
لمن شهد لله بالتوحيد
وشهد له بالبلاغ و ذبح
الاخر عن محمد و عن اب
محمد ﷺ - (سنن ابن ماجه ص ۲۵)

کا پرودگار ہے۔ اس کا کوئی شریک
نہیں اور یہی حکم مجھ کو ہوا ہے۔ اور
میں سب سے پہلے فرمانبرداری
(اسلام) کا اقرار کرتا ہوں۔ اے
اللہ یہ قربانی تیری ہی عطا ہے۔ اور
خاص تیری ہی رضا کے لیے ہے۔
تو اس کو محمد ﷺ اور اس کی
امت کی طرف سے قبول فرما اللہ
کے نام سے اور اللہ بہت بڑا ہے
پھر اس کو ذبح کیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو موٹے
تازے خسی میٹھے بڑے بڑے سینک
والے کالے اور سفید رنگ خرید فرماتے
ایک میٹھا تو اپنی امت کی طرف
سے جو لوگ اللہ کی توحید کے قائل
ہیں اور حضور اقدس ﷺ کی
رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ اور
دوسرا اپنی اور اپنے گھروالوں کی
طرف سے قربانی فرماتے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَمْ يَلِدْهَا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَقْرَتِهِ بِمَدُونِهِ كُلِّ مَسْلُومٍ لَكَ
رَبُّنَا وَخَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَرِزْقِكَ وَمَعَادُكَ هَذَا لَكَ اسْتَشْفَاءُ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدُكَ مَلِكُ عَمْرٍ

ہمارے سردار عظیم سردار درود سلام بھیجے اللہ آپ پر

بہت بڑے بزرگ عظیم
سردار۔

حضرت علی بن ابی طالب
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔
آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے
جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب رعب دار
چہرے والے بزرگ خاندان والے
راور) بہت اچھی آواز والے تھے
اور تمہارے نبی ﷺ بھی رعب دار
چہرے والے بزرگ خاندان والے
راور) بہت اچھی آواز والے تھے۔

السید الشریف العظیم
المنیف - (سبل الہدی ج ۱ ص ۲۳۸)
عن علی بن
ابی طالب رضی اللہ عنہ قال
ما بعث اللہ نبیا قط
الا صبیح الوجه کریم
الحسب حسن الصوت
وان نبیکم صل اللہ علیہ وسلم
کان صبیح الوجه
کریم الحسب حسن
الصوت۔

(رواه ابن عساکر الخصال الكبرى ج ۲ ص ۴۲)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 وَمَنْ دَعَاكَ فِي حَرْبٍ أَوْ سَلَامٍ أَوْ فِي حَرْبٍ أَوْ سَلَامٍ أَوْ فِي حَرْبٍ أَوْ سَلَامٍ

سَيِّدِنَا الْمُضْعَمِ

ہمارے سردار بڑے بہادر سردار دُور و سلا بھیج اللہ آپ کی

سخت حملہ آور اور سخت ضرب لگانے والے۔

امام زہری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نے ذکر کیا ہے کہ ابی بن خلف (کافر) نے حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو (میدان جنگ میں) پایا اور بولا اے محمد اگر تو (میری زد) سے بچ نکلا تو میں نجات نہ پاؤں صحابہ کرام میں بعض نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول ہم میں سے کوئی اس پر حملہ آور ہوتا ہے آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا اس کو آنے دو جب وہ آپ کے قریب آ گیا تو حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے

الشديد الصدم والضرب (قاموس ج ۱ ص ۱۲۲) ذکر الزہری رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ان ابی بن خلف ادرك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يقول يا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا نجوت ان نجوت فقال القوم يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعطف عليه رجل منا فقال دعوه فلما دنا تناول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحارث بن الصمة قال بعض القوم

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

كما ذكر لي فانتفض
بها انتفاضة تطايرنا
عنه تطاير الشعر
عن ظهر البعير، اذا
انتفض ثم استقبله فطعن
في عنقه طعنة تداومها
عن فرسه مراراً.

(اخرجه البيهقي من طريق ابن اسحاق
(الخصائص الكبرى
ج ۱ - ص ۲۱۳)

عن جابر رضي الله عنه
قال قال رسول الله
ﷺ انا اشرف الناس
حسباً ولا فخر واکرم الناس
قدراً ولا فخر.

(رواه الديلمي في الفردوس،
منتخب كنز العمال الى هامش

مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۳۰۵)

عن علي رضي الله عنه
قال كان النبي
ﷺ ضخم الهامة
مشرباً حمرة - (الحديث،
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۲۴)

حضرت حارث بن صمم رضي الله عنه
سے خنجر لے کر اس پر حملہ کیا اور
وہ اسی خنجر سے ایسا لڑھکا جیسے
اونٹ کی کوبان کے بال فضا میں
اُڑ جائیں۔ پھر آپ اس کے سامنے
آئے اور اس پر ایسا وار کیا کہ وہ
اپنے گھوڑے سے کسی قلابازیاں
کھاتا ہوا گر پڑا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضي الله عنه
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا میں خاندان کے
لحاظ سے تمام لوگوں میں اشرف
ہوں اور یہ بات میں فخریہ نہیں
کہہ رہا اور میں بزرگی کے لحاظ سے
تمام لوگوں سے مرتبہ والا ہوں۔
اور یہ بات میں فخریہ نہیں کہہ رہا۔
حضرت علی رضي الله عنه سے روایت
ہے کہ حضور اقدس ﷺ
بہت بڑے دماغ والے اور
آپ کے چہرے کی زنگت سُرخ
تھی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ
وَمَدِينَةِ مَدْيَنَةِ الْيَوْمِ وَالْغَدِ وَبِأَرْضِ الْمَدِينَةِ الْمَكْرَمَةِ وَبِأَرْضِ الْمَدِينَةِ الْمَكْرَمَةِ وَبِأَرْضِ الْمَدِينَةِ الْمَكْرَمَةِ

مَضْرِي

سَيِّدِكَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار قبیلہ مضر کے سردار دُرود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اُونچے خیمے والے بڑے عرب
والے مضر قبیلے سے سخی منتخب
فرمائے گئے اُونچے خاندانی۔
مضر حضور اقدس ﷺ کے
جدِ اعلیٰ ہیں مضر نسبت ہے۔ اور
یہ عرب کا معروف قبیلہ ہے جس
کی طرف قریش کی نسبت ہے
اور ان کا نسب نامہ یوں ہے۔
مضر بیٹا نزار کا وہ بیٹا معد کا وہ
بیٹا عدنان کا۔ مضر کا بھائی ربیعہ
بن نزار ہے۔ اور یہ عرب کے
بہت بڑے قبیلے ہیں۔

"کریم الخیما روع مضر حی
طویل الباع منتجب نجیب"
(طبقات الکبری لابن سعد ج ۲ ص ۳۲۹)
المضر جدہ النسبة
الی مضر وہی القبيلة
المعروفة التي ينسب
اليها قریش وهو مضر
ابن نزار بن معد
ابن عدنان اخو
ربیعة بن نزار
وهما القبيلتان العظمتان
(انساب السعفی ص ۵۳۳)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لَأَخِيَةِ الْإِيمَانِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَنَّتِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَهْلِيهِ وَعَشْرَتِهِ مَعَهُ وَكُلِّ مُتَّقِمٍ أَلَيْكَ
وَعَدَدِ خَلْقِكَ وَرَحْمَتِكَ وَمَدَادِ كَلِمَاتِكَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُضَرِّي

ہمارے سردار قبیلہ مضر سے تعلق رکھنے والے دُرودِ سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت یحییٰ بن جعدہ رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قافلہ سے ملاقات
ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم کس قوم
سے تعلق رکھتے ہو؟ انہوں نے
عرض کیا ہم مضر قبیلہ سے ہیں اس
پر آپ نے فرمایا میں بھی مضر خاندان
سے تعلق رکھتا ہوں۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
اللہ کے اس فرمان میں رکہ تمہارے پاس
تمہاری ہی جانوں سے رسول آئے فرماتے
ہیں عرب کا کوئی ایسا قبیلہ نہیں جس
میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری
ہو۔ وہ قبیلہ مضر ہو یا ربیعہ یا یمانیہ۔

عن یحیی بن
جعدہ رضی اللہ عنہ قال
لقد رسول الله
ﷺ ركباً فقال
من القوم فقالوا
من مضر فقال و
انا من مضر۔

(الطبقات الكبرى لابن سعد ج ۱ ص ۲۱)

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
فی قوله (لقد جاءكم
رسول من انفسكم) قال
ليس من العرب قبيلة الا
ولدت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مضر بها
وربعيها ویمانيها۔ (الوفاء لابن الجوزي
ج ۱ ص ۴)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أُمَّةٍ
وَمَا خَلَقْتَ رَجُلًا قَبْلَكَ وَتَتَّبَعْتَهُ وَمَا كَلَّمَاكَ اسْتَعْفَاكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْمُصْطَبِ

ہمارے سردارِ مصطباع کر کے طواف کریں گے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ سے

حضرت یعلیٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے سبز چادر اور ڈھکرا مضطباع کر کے طواف کیا۔

حضرت یعلیٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ کا بیان ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے چادر اور ڈھکرا مضطباع کی حالت میں طواف کیا۔

حضرت یعلیٰ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس ﷺ کو حضرموت کی کُنْجی میں دایاں کندھانزکا کر کے طواف کرتے دیکھا۔

عن يعلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ مَضْطَبَعًا بِبِرْدِ اخْضَرِ (سنن ابی داؤد ج ۱ ص ۲۵۹)

عن يعلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ان النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مَضْطَبَعًا قَالَ قَبِيصَةُ وَعَلِيهِ بَرْدٌ (سنن ابن ماجہ ص ۲۱۲)

عن يعلى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَضْطَبَعًا بِرْدَاءِ حَضْرَمِي (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۱۲)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْبَيْتَ الْمَقَامُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَنْتُمْ بَعْدَهُ عَلَى سَائِرِ الْمُرْسَلِينَ
وَبَعْدَ خَلْقِكَ رَوْحُ فَسِيحِكَ وَمَا دَعَا لَكَ اسْتَفْرَاغَ اللَّهُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ الْأُمَّةَ لِيُطِيعُوا وَأَسْمَاءُ إِلَهٍ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ مُطَاعٌ

ہمارے سردار اطاعت کرائے گئے درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اور ہم نے تمام پیغمبروں کو جہاں
اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے۔ کہ
یہ حکم خداوندی اُن کی اطاعت
کی جائے۔“
”آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت
کرو اور رسول کی اطاعت
کرو۔“
”اور وہاں یعنی آسمانوں میں
اس کا کہا جاتا ہے۔ اور امانتدار
ہیں کہ وہی کو صحیح صحیح پہنچا دیتے
ہیں۔“
مطاع سے مراد ہمارے سردار
حضرت محمد ﷺ ہیں۔

اشارہ الی قوله :
”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ
رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ
بِإِذْنِ اللَّهِ ط“
(سورة النساء ۶۴)
”قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُوا الرَّسُولَ ج“
(سورة التوبة ۵۳)
”مُطَاعٌ شَمَّ
أَمِينٌ“
(سورة التکویر ۲۱)
انہ سیدنا محمد ﷺ -
(سبل الہدی ج ۱ - ص ۶۳۹)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا تَأْتِيهِمْ مِنْ نِعْمَةٍ لَوْ تَضَاعَفَتْ لَوَجَدُوا فِيهَا غَلَاظَ الْبُخْلِ وَرَبُّهُمُ الرَّحِيمُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَعَصْرَتِهِمْ مَعَهُمْ كُلِّ مَنْ تَشَاءُ
وَمَنْ تَخْتَارُ وَرَبِّكَ وَسَيِّدِكَ وَمَوْلَاكَ إِنَّكَ أَسْتَعِينُكَ بِكَ اللَّهُمَّ لَوْلَا إِذْكَ لَمْ يَكُنْ الْإِسْلَامُ وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ

سَبَّحَ رَبِّي مَطْعَمًا مَسْجِدًا

ہمارے سزا بھوکوں کو بہت کھانا کھلانے والے دُؤدُوسلا بھیجے اللہ آپ سے

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشیروں
پڑھتے ہیں:

”پیکر باکرامت بھوکوں کو
کھانا کھلانے والے۔ غلاموں کو
آزاد کرنے والے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
اس آیت ازینج دن بھوک والے
کے کے باکے میں فرماتے ہیں یعنی
بھوک کے دن کھانا کھلانا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا بھوک کے مسلمان کو کھانا کھلانا
بخشش کو واجب کر دیتا ہے۔

قال حسان بن
ثابت رضی اللہ عنہ یرثی السببی
صلی اللہ علیہ وسلم:

کشاف مکرمہ مطام مسغبہ
وہاب عانیہ وجنا شمال
الطبقات الکبری لابن سعد ج ۲ ص ۳۲۳

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما
فی یوم ذی مسغبہ
البلد ۱۳ قال مجاعة۔

فتح القدیر ج ۵ ص ۳۳۳

عن جابر رضی اللہ عنہ مرفوعاً
من موجبات المغفرة اطعام
المسلم السغبان۔

رواہ البیهقی والحاکم۔ الدر المنثور ج ۳ ص ۳۵۵

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْبَنِيَّةَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

سَيِّدِنَا الْمَطَّلِعُ

صَلَّىٰ عَلَيْنَا وَصَلَّىٰ عَلَىٰ آبَائِنَا

ہمارے سردار اللہ کی طرف سے اطلاع کئے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قال قدم رسول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ واصحابه
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وقد وهنتهم
حمى يثرب قال
فقال المشركون انه يقدم
عليكم قوم قد وهنتهم
الحمى قال فاطلع الله
النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك
فامر اصحابه ان يرملوا
وقعد المشركون ناحيه
الحجر ينظرون اليهم فرملا
ومشوا ما بين الركنين - (الحديث)
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ - ص ۲۹)

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور آپ کے صحابہ کرام رُحْمَةَ
القضاء کیلئے جب مکہ مکرمہ آئے تو ان کو
مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا تھا
تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تمہارے پاس
ایک ایسی قوم آ رہی ہے جن کو بخار نے
کمزور کر دیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ
نے اپنے نبی کو اسکی اطلاع دیدی تو آپ نے
اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ڈر کی چال چلیں
اور مشرکین مکہ عظیم کی طرف بیٹھے ہوئے
صحابہ کرام کو دیکھ رہے تھے۔ تو صحابہ حجرا سود
سے رکن یمانی تک ڈر کی چال چلے اور
رکن یمانی سے حجرا سود تک آہستہ چلے۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ لِأَخِيهِ الْإِسْمَاعِيلَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
وَمَدَّ يَدَيْكَ وَأَوْجِلْ لِسَانَكَ وَتَحَرَّرْنَا بِكَ وَمَا دَعَاكَ اللَّهُ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

مَطْلَعُ سَيِّدِنَا

عمارے سردار جھانکنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت نافع رضي الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انکو حضرت عبداللہ بن عمر رضي الله عنهما نے خبر دی کہ حضور اقدس ﷺ نے بد کے کنوئیں میں پڑی ہوئی رکفار کی لاشوں پر جھانکا پھر انکو آواز دی۔ اے قلب رکنوئیں کا نام (والو کیا تم نے اس وعدہ کو سچا پایا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام میں سے بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ مردوں کو آواز دیتے ہیں، حضور اقدس ﷺ نے فرمایا تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو جو میں نے ان کو کہا ہے۔

عن نافع رضي الله عنه
ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره قال اطلع رسول الله ﷺ على اهل القليب ببدر ثم ناداهم فقال يا اهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قال اناس من اصحابه يا رسول الله ﷺ اتنادى ناسا امواتا فقال رسول الله ﷺ ما انتم باسمع لما قلت منهم (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۳۱)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَى كُلِّ مَتَلَمٍّ لَكَ
 وَرَبِّكَ وَخَلْقِكَ وَرَبِّكَ وَنَسَبِكَ وَمَعَادِكَ اللَّهُمَّ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْمُتَكَبِّرُ الْكَبِيرُ

امام مطالع صبحا

صلى الله عليه وسلم
 صبحي كليم

ہمارے سردار صحابہ پر نمودار ہونے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن حذيفة
 ابن اسيد رضي الله عنه اطلع
 النبي صلى الله عليه وسلم علينا
 ونحن نتذاكر
 الساعة فقال
 ما تذكرون قالوا
 نذكر الساعة فقال
 انها لن تقوم حتى
 تروى عشر آيات
 الدخان والدجال
 والدابة وطلوع
 الشمس من مغربها و
 نزول بن مريم
 وياجوج و ماجوج

حضرت حذیفہ بن اسید رضي الله عنه
 سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صلى الله عليه وسلم نے ہم پر جھانک کر دیکھا
 اور ہم آپس میں قیامت کا تذکرہ
 کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم
 کیا تذکرہ کر رہے ہو۔ ہم نے عرض
 کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے
 ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت
 ہرگز قائم نہ ہوگی جب تک تم
 دس نشانیاں نہ دیکھ لو گے (یعنی)
 دھواں کا ظاہر ہونا۔ دجال کا
 نکلنا۔ دابة الارض
 (جانور کا نام) کا نکلنا۔ سورج کا
 مغرب سے طلوع ہونا۔ حضرت

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين يا رب العالمين ط

و ثلاث خسوف خسف
بالمشرق و خسف
بالمغرب و خسف
بجزيرة العرب
و آخر ذلك نار
تخرج من قبل
تطرد الناس
الى محشرهم.

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲)

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ
كَانَتْ لَنَا حَصِيرَةٌ نَبْسُطُهَا
بِالنَّهَارِ وَ نَتَجْرِهَا عَلَيْنَا
بِاللَّيْلِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ لَيْلَةَ فَنَسَمِعُ أَهْلَ الْمَسْجِدِ
صَلَاتَهُ فَاصْبَحُوا فَذَكَرُوا
ذَلِكَ لِلنَّاسِ فَكَثُرَ النَّاسُ
اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ
اَكْفُوا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا تَطِيقُونَ
فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَمِيلُ حَتَّى تَمْلُوا.

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۶ ص ۱)

عيسیٰ ابن مریم ﷺ کا آسمان
سے اترنا۔ اور قوم ماجوج ماجوج
کا نکلنا۔ تین مقامات پر سے
زمین کا دھنس جانا۔ ایک خسف
مشرق میں ہوگا۔ ایک خسف
مغرب میں اور ایک خسف عرب
کے جزیرہ میں ہوگا۔ اور آخری
نشانی ہے کہ ایک آگ نکلے گی
جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف
بھگا کر لے جائے گی۔

حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سے روایت ہے۔
وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمکے ہاں ایک چٹائی
تھی جسکو ہم دن کے وقت بچھالیا کرتے تھے اور
رات کو اس پر ڈھک لیا کرتے تھے۔ ایک رات
حضرت اقدس ﷺ نے تہجد گزاری تو
مسجد نمازیوں نے آپ کی آواز سنی تو صبح
اہوں نے اس بات کا چرچا کیا تو دوسری رات
کثرت لوگ جمع ہو گئے تو حضور اقدس ﷺ
نے انکو بھانکا اور فرمایا کہ تم (عبادت) کیلئے
اسی ہی تکلیف اٹھایا کرو جتنی تم میں طاقت ہو۔
کیونکہ تمہاری بندگی سے اللہ تعالیٰ نہیں
اکٹائے گا لیکن تم اکتا جاؤ گے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ لِأَهْلِ الْبَيْتِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا مَحْتَجًّا إِلَى الشَّيْخِ الْأَمِيرِ وَظَلِّ الْبَيْتِ وَأَصْحَابِهِ وَعَفْرِتِهِ مَدَى كُلِّ مَلَامٍ أَنْ
 وَجَدَ وَخَلَقَكَ وَجِيءَ لَطْفِكَ وَنَشْرَ لِيْلَهُ وَمَا كَلَّمَكَ أَنْ تَسْتَعْرِضَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ وَالْمَلِكُ الْكَرِيمُ

سَيِّدُكَ ﷺ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

ہمارے سردار قیدیوں کو رہا کرنے والے دُرُودُ سَلَامِ بَيْتِ الْبَرِّ

إشارة إلى قوله :

" وَهُوَ الَّذِي كَفَّ
 أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
 عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ
 مِنْ أُنْفٍ
 أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط

(سورة الفتح ۲۳)

عن عكرمة مولى

ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ان قریشاً بعثوا

أربعين رجلاً منهم

أوخمسین وامروهم

ان يطیفوا بعسكر

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اشارہ ہے اس قول کی طرف :

”اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان

کے ہاتھ تم سے یعنی تمہارے

قتل سے) اور تمہارے ہاتھ ان

(کے قتل) سے عین مکہ (کے قریب)

میں روک دیے۔ بعد اس کے کہ

تم کو ان پر قابو دے دیا تھا“

حضرت عکرمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جو حضرت

عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کے

آزاد کردہ غلام ہیں۔ سے روایت

ہے کہ قریش مکہ نے (صلح حدیبیہ

کے موقع پر) چالیس پچاس آدمیوں

کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ وہ حضور اقدس

ﷺ کے لشکر کے ارد گرد پھریں۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین یا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

تاکہ کسی صحابی کو شہید کر دیں یا پکڑ کر لے آئیں۔ وہ (مشرک) پکڑے گئے اور وہ حضور اقدس ﷺ کے پاس حاضر کئے گئے۔ آپ ﷺ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور ان کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ انہوں نے حضور اقدس ﷺ کے لشکر پر پتھر پھینکے تھے اور ان پر تیر بھی برسائے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ رات کے وقت اسی کی تعداد میں مستح ہو کر تنعیم کے رستے حملہ آور ہوئے۔ آپ ﷺ نے ان کو لگا کر گرفتار کر لیا اس موقع پر یہ آیت اتری کہ اس اللہ نے ان کفار کے ہاتھ تم سے روک لیے۔

ليصيبوا من اصحابه
احداً او ياخذوا احداً
فاتي بهم رسول الله
ﷺ فعفى عنهم
وخلى سبيلهم وقد
كانوا رموا الى
عسكر رسول الله
ﷺ بالحجارة والنبل.
تفسير ابن كثير ج ۲ - ص ۱۹۳
عن انس رضی اللہ عنہ قال
لما كان يوم الحديبية هبط
على رسول الله ﷺ واصحابه
ثمانون رجلا من اهل مكة
والسلاح من قبل جبل النعيم
فدعا عليهم فاخذوا ونزلت
هذه الاية : وهو الذي
كف ايديهم عنكم.

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۱۱۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لَأَهْلَةِ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَعَتَرَتِهِ بِمَدَدِ عِلْمِ تَعْلَمُ أَنَّ
قَدَمَهُ وَخَطَمَهُ وَرَأْسَهُ فَتُحْيِيكَ وَمَدَادُ قَلَمِكَ اسْتَظَرُّكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَطْلُوبُونَ

ہمارے سرکار تلاش کئے گئے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

عن عائشة رضي الله عنها
قالت طلبت رسول الله
صلى الله عليه وسلم ذات ليلة
في فراشي فلم اصبه
فضربت بیدی علی
رأس الفراش فوقت
یدی علی اخص
قدمیه فاذا هو ساجد
يقول اعود بعفوك
من عقابك و اعود بفضلك
من سخطك و اعود بك
منك -

(سنن النسائي ج ۲ ص ۲۷۸)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
سے روایت ہے۔ انہوں نے
فرمایا کہ میں نے حضور اقدس
ﷺ کو ایک رات اپنے کھونے
میں ڈھونڈا تو نہ پایا۔ میں نے اپنا
ہاتھ کھپونے پر پھیرا تو میرا ہاتھ آپ
کے پاؤں پر لگا اس جگہ پر جو چلتے
وقت زمین سے اٹھا رہتا ہے معلوم
ہوا آپ سجدے میں ہیں۔ آپ فرماتے
تھے۔ پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کی
تیرے عذاب سے اور پناہ مانگتا ہوں
تیری رضامندی کی تیرے غصے سے
اور پناہ مانگتا ہوں تیری تجھ سے۔

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ أَنْتَ التَّجْمَعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَيَّ سَيِّدَتِي وَمَوْلَاتِي وَجَسَدِي الْمُحْتَمِلِ لِلنَّبِيِّ الْأَخِي وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَصَفْوَتِهِ بِمَدُونِي مَثَلِي وَأَنْتَ
وَمَعْدَةُ خَلْقِي وَرَبِّي فَطَرْتَنِي وَمَا كُنْتُ لَكَ بِشَيْءٍ إِلَّا لَكَ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ وَأَمَّا الْيَوْمُ

سَيِّدَتِي مَلِكَةُ

صَلَّى عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

ہمارے سردار پاک کئے گئے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ
اے گھر والو! تم سے آلودگی کو
دور رکھو۔ اور تم کو (بہ طرح ظاہر اور
باطن) پاک صاف رکھے۔“
”اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم
کو پاک صاف رکھے۔ اور یہ کہ تم پر اپنا
انعام تمام فرماوے۔“

حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
یہ دُعا پڑھتے تھے۔ اے اللہ مجھ کو
برف اور زراوں اور ٹھنڈے پانی سے دھو
ڈال۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک کر
دے جس طرح سفید کپڑے میل صاف کیا جاتا ہے۔

إشارة إلى قوله ،
”إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيرًا“

(سورة الاحزاب ۳۳)

”وَ لَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمُ
وَلِيَتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ“

(سورة المائدة ۶)

عن ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ قال
كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم
طهرني بالتلج والبرد والماء البارد
اللهم طهرني من الذنوب كما
يطهر الثوب الابيض من الدنس

(سنن النسائي ج ۱ ص ۴۲)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ إِذْ عَلَّمَهُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَعْلَمُ مَا فِي سُبْحَانِهِ مَعْرِفَةً حَقِيقَةً وَمَا فِي سُبْحَانِهِ مَعْرِفَةً حَقِيقَةً وَمَا فِي سُبْحَانِهِ مَعْرِفَةً حَقِيقَةً

سَيِّدِكَ
مُرَاطِبِهِ

ہمارے سردار پاک کرنے والے دُرُودِ سَلَامِ بَیِّنِ اللّٰہِ پَی

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
”آپ اُن کے مالوں میں سے
صدقہ جس کو یہ لائے ہیں اے
بیچے جس کے (یعنی کے) ذریعہ
سے آپ اُن کو رگناہ کے آثار سے
پاک و صاف کر دیں گے۔“
کیونکہ آپ ﷺ ذات او
معنی کے لحاظ سے بھی پاک ہیں۔
اور آپ ظاہری اور باطنی لحاظ
سے بھی پاک ہیں
حضرت عبداللہ بن برید رضی اللہ عنہ
اپنے والد سے روایت کرتے ہیں
کہ انہوں نے فرمایا کہ میں حضور اقدس
ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ

اِشَارَةٌ إِلَى قَوْلِهِ :
”خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تَطْهَرُ بِهَا وَ
تُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ
عَلَيْهِمْ ط“
(سورة التوبة ۱۰۳)
لأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَهَّرَ
ذَاتًا وَمَعْنَى ظَاهِرًا
وَبَاطِنًا -
(سبل الهدى ج ۱ ص ۲۳۹)
عن عبد الله بن
بريدة رضي الله عنه عن ابيه
قال كنت جالساً
عند النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فجاءته امرأة من بنى
 غامد فقالت يا نبى الله
 (ﷺ) انى قد زنىت
 وانى اريد ان
 تطهرنى فقال لها
 ارجعى فلما كانت
 من الغداتة ايضا
 فاعترفت عنده بالزنا
 فقالت يا نبى الله (ﷺ)
 طهرنى فلعلك ان
 ترددنى كما رددت
 معز بن مالك
 (رضي الله عنه) فوالله انى
 كجلى فقال لها السبى
 ﷺ ارجعى حتى
 تلدى فلما ولدت
 جاءت بالصبي تحمله
 فى خرقة فقالت يا
 نبى الله (ﷺ) هذا وقد
 ولدت فقال اذهبى
 فارضيه ثم افطميه فلما
 فطمته جاءته بالصبي

آپ کے پاس (قبیلہ) بنو غامد کی ایک
 عورت نے آکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ
 ﷺ میں نے زنا کیا ہے۔ اور
 میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے پاک
 کر دیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تو چلی جا
 تو دوسرے روز پھر اس نے آپ کے
 پاس آکر زنا کا اقرار کیا کہ یا نبی آپ
 مجھے پاک کر دیں۔ شاید آپ مجھ کو لوٹانا
 چاہتے ہیں جیسے معز بن مالک
 (رضي الله عنه) کو لوٹایا تھا۔ اللہ کی قسم میں
 حاملہ ہوں۔ تو اس سے حضور اقدس
 ﷺ نے فرمایا کہ لوٹ جا یہاں تک
 کہ تیرے بچہ پیدا ہو جب اسکے بچہ
 پیدا ہوا تو اسکو ایک کپڑے میں لیکر
 آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ
 یہ بچہ میرے پیدا ہوا تو فرمایا کہ لے جا اسکو
 دو دوہ پلا پھر اس کا دو دوہ چھڑا۔ جب
 اس نے بچے کا دو دوہ چھڑایا تو اس کو
 لے کر آئی اور اس کے ہاتھ میں روٹی
 کا ٹکڑا تھا اور اس نے عرض کی کہ
 یا رسول اللہ ﷺ میں نے اس کا
 دو دوہ چھڑا دیا تو حضور اقدس ﷺ

ف يده كسرة
خبز فقالت يا بنى الله
ﷺ قد فطمته
فامر النبي ﷺ
بالصبي فدفع الـ
رجل من المسلمين
وامر بها فحفرها حفرة
فجعلت فيها المـ
صدرها ثم امر
الناس ان يرموها
فاقبل خالد بن
الوليد ﷺ بحجر فرمى
رأسها فتلطح الدم
على وجنة خالد
ابن الوليد ﷺ فسبها
فسمع النبي ﷺ سبه
اياها فقال مه يا خالد لا
تسبها فوالذي نفسى بيده
لقد تابت توبة لو تابها
صاحب مكس لغفرله فامر
فصلى عليها ودفنت -

(سنن الدارمی ج ۲ - ص ۱۴۹)

نے نیچے کے باسے میں حکم دیا تو وہ
مسلمانوں میں سے ایک شخص کو
دے دیا گیا۔ اور عورت کچے باسے میں
حکم کیا تو اس کے لیے ایک گڑھا
کھود دیا گیا اور وہ اس میں سینے تک
گاڑھ دی گئی۔ پھر لوگوں کو حکم دیا کہ
اسے سنگسار کریں تو حضرت خالد بن
ولید رضی اللہ عنہما ایک پتھر لے کر گئے
اور اس کے سر پر مارا تو ان حضرت
خالد کے گال خون سے بھر گئے
تو انہوں نے اس کو برا کہا اور حضور
اقدم ﷺ نے ان کے اس
کہنے کو سن لیا تو فرمایا کہ اے خالد
خبردار اس کو برا نہ کہنا۔ قسم ہے اس
ذات کی جس کے ہاتھ میں میری
جان ہے۔ اس نے ایسی توبہ
کی اگر ٹیکس وصول کرنے والا
کرتا تو بخش دیا جاتا۔ پھر اس
کے لیے حکم کیا تو اس کے
لیے نماز پڑھی گئی اور دفن
کردی گئی۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآخِرَتِهِ إِنَّكَ عَلِيمُ السُّمُوعِ
 وَنَجْمِ السَّمَاوَاتِ وَنُورِ الْقُلُوبِ وَنُورِ السُّمُوعِ وَنُورِ السُّمُوعِ وَنُورِ السُّمُوعِ وَنُورِ السُّمُوعِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاتُكَ وَسَلَامُكَ عَلَيْكَ

ہمارے سردار پاک دل والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قوله:

وَسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاتُكَ وَسَلَامُكَ عَلَيْكَ

(سورة المدثر ۴)

قال سعيد بن

جبیر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَلْبُكَ

فَطَهَّرَ -

(فتح القدير ج ۳ ص ۳۱۵)

عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

شَوَّ بَطْنَهُ مِنْ عِنْدِ صَدْرِهِ

إِلَى اسْفَلِ بَطْنِهِ فَاسْتَجْرَجَ

مِنْهُ قَلْبُهُ فَعَسَلَ فِي طَسْتِ

مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ مَلَأَ إِيمَانًا وَ

حِكْمَةً ثُمَّ أَعْيَدَ مَكَانَهُ -

(اخرجه البيهقي / الخصائص الكبرى ج ۱ ص ۶۳)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:

”اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک

صاف رکھیں۔“

حضرت سعید بن جبیر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

فرماتے ہیں۔ ثبات سے مراد

اس جگہ دل ہے یعنی آپ اپنے

دل کو پاک رکھیں۔

حضرت انس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت

ہے کہ حضور اقدس ﷺ کا بطن

مبارک سینے سے لیکر پیٹ کے آخری حصہ

تک چال کیا گیا پھر اس میں سے آپ کا

دل نکالا گیا پھر اس کو سونے کے تھال

میں رکھ کر دھویا گیا پھر اس میں ایمان

اور دانائی بھر کر اسے اسی جگہ رکھ دیا گیا۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولِيْ آيَاتِهِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَارْحَمْهُمْ وَعَنْزِلْهُمُ عَلَى سُلُوكِ
 دَرَجَاتِهِمْ وَجَنَّةِ جَنَّاتِهِمْ وَمَا جَاءَكَ مِنْ شَيْءٍ فَاسْتَشْفِئْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالشُّرْكِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار فرما نبردوار (اللہ کے) دروڑ سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت عبد اللہ بن عباس
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ
 حضور اقدس ﷺ اپنی فُعامیں
 یہ کلمات پڑھا کرتے تھے میرے
 پروردگار میری مدد کیجیو اور نہ مدد
 کیجیو میرے خلاف اور فتح عطا کیجیو
 مجھے اور نہ فتح دیجیو (کسی کو) میرے
 اوپر اور تدبیر کیجیو میرے حق میں اور
 میرے اوپر داؤ نہ چلے اور ہدایت
 دیجئے مجھے اور آسان کیجئے ہدایت
 میرے لیے اور فحشیاں کیجئے مجھے
 اس پر جو بغاوت کرے میرے خلاف
 اے پروردگار بنا دے مجھے ایسا کہ
 ہو جاؤں میں تیری ہی شکرگزار

عن ابن عباس
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنِ النَّبِيَّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ
 فِي دَعَائِهِ رَبِّ
 اعْنِي وَلَا تَعْنِ
 عَلِيًّا وَانصُرْنِي
 وَلَا تَنْصُرْ عَلِيًّا وَ
 امْكُرْنِي وَلَا تَمْكُرْ
 عَلِيًّا وَاهْدِنِي
 وَيَسِّرْ لِي الْهُدَى لِي
 وَانصُرْنِي عَلِيًّا
 مِنْ بَنِي عَلِيٍّ
 رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ
 شَكَارًا لَكَ ذَكَرًا

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

لك رها با لك
مطيعاً اليك محبتاً
اليك اواهاً
منيباً رب تقبل
توبتي واغسل
حوبتي واجب
دعوتي واهد
قلبي وسدد
لسانك وثبت
حجتي واسلل
سخيمة قلبي.

(سنن ابن ماجه ص ۲۷۱)

عن ابن سعید
رضي الله عنه فقال من
يطيع الله اذا
عصيت ايا مني
الله على اهل
الارض فلا تامنوني.

(الحدیث)

(صحيح البخاری ج ۱ ص ۴۷۲)

کرنے والا۔ تیرا بہت ذکر کرنے والا
صرف تیری ہی بہت اطاعت
کرنے والا۔ صرف تیرے ہی آگے
جھکنے والا۔ صرف تیرے ہی سامنے
گریہ زاری کرنے والا۔ تیری ہی
طرف رجوع کرنے والا۔ اے میرے
پروردگار قبول فرما لے میری توبہ
کو اور دھو دیجئے میرے گناہ کو
اور سن لیجئے میری پکار کو اور تہمت
دیجئے میرے دل کو اور راستی پر
رکھیے میری زبان کو اور قائم کر دیجئے
میری حجت کو اور کھینچ کر باہر نکال
دیجئے میرے دل کی کدورت کو۔

حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا جب میں ہی
اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ تعالیٰ
کی اطاعت کون کرے گا۔ فرمایا
اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین والوں کا
امین بنایا ہے۔ پھر تم مجھے کیوں
امین نہیں جانتے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَتَحْتَ لَنَا جَنَّةً قَدْ خَلَّاهَا النَّبِيُّ الْأَخْيَرُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَلَيْهِمْ سَلَامٌ مِمَّنْ لَمْ يَلْمِزْكَ رَبُّكَ مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ تَلَمَّحْتَ وَجْهَ نَبِيِّكَ وَأَشْرَفْتَ عَلَيْهِ وَرَفَعْتَ عَلَى الْبَنَاتِ اسْتَفْرَافَهُ الْبَنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ وَأَعْلَى الْأَعْلَى

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ لَمْ يُظْفَرْ

ہمارے سردار کامیاب درود و سلام بھیجیے اللہ آپ سے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
 ” اور وہ ایسا ہے کہ اس نے ان
 کے ہاتھ تم سے (یعنی تمہارے قتل سے)
 اور تمہارے ہاتھ ان (کے قتل سے)
 عین مکہ (کے قریب) میں روک دیے
 بعد اسکے کہ تم کو ان پر قابو دے دیا تھا۔“
 حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
 کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے
 کے لیے تشریف لائے تو آپ کے صحابہ
 کرام نے حرم کے کچھ لوگوں کو غفلت
 کی حالت میں گرفتار کر لیا۔ پس ان
 گرفتار شدگان کو حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ عین مکہ مکرمہ میں
 گرفتار پر غلبہ دینے سے یہ مراد ہے۔

إشارة إلى قوله :
 ” وَهُوَ الَّذِي كَفَّ
 أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
 عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ أَعْدٍ
 أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ “
 (سورة الفتح ۲۴)
 عن مجاهد رضي الله عنه
 قال اقبل معتمرا النبي
صلی اللہ علیہ وسلم فاخذ اصحابه
 ناسا من اهل الحرم
 غافلين فاسلمهم النبي
صلی اللہ علیہ وسلم فذلك الاظفار
 ببطن مكة -
 (تفسير ابن جرير طبري ج ۲۶ ص ۹۴)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين يا رب العالمين ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَعَلَى ابْنِ مَرْثَدَةَ وَعَلَى كُلِّ نَفْسٍ طَابَتْ فِيهَا وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ الْوَالِدَةِ الْوَالِدَةِ الْوَالِدَةِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَمْ يُظْهِرْ

صَلَّى وَسَلَّمْ وَبَارَكْ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ

ہمارے سرکار دین کو ظاہر کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

اشارہ الی قوله :

”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ
الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ“

(سورة الصف ۹)

و معنی لیظہرہ لیجعلہ
ظاہراً علی جمیع الادیان عالیاً
علیہا غالباً لہا ولو کرہ المشرکون
ذلك فانه كان لا محالة قال
مجاهد رضي الله عنه ذلك اذا نزل
عيسى عليه السلام لم يكن في الارض دين
الادين الاسلام - فتح القدير ج ۵ ص ۱۱۵

اشارہ ہے اس قول کی طرف
”وَهُوَ الَّذِي اِيَّاهُ حَسِبَ النَّاسُ
اَنْ يُدْعُوا بِالْحَقِّ كَدْعْوِهِمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَدَّاهُمْ
وَلَا يَعْلَمُونَ“
اس را اسلام کو تمام دینوں پر غالب
اور اونچا کرے۔ اگرچہ یہ بتا مشرکوں کو ناگوار
ہو یہ تو لا محالہ ہو کر رہے گا۔ حضرت مجاہد
رضي الله عنه فرماتے ہیں یہ اس وقت ہوگا
جب حضرت عیسیٰ عليه السلام آسمان سے
اتریں گے تو اس وقت اسلام کے سوا زمین
پر کوئی دوسرا دین نہ ہوگا۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ لَكُمْ إِلَّا اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنْ أُمَّةٍ
رَبِّهِمْ وَخَلْقِكَ وَجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ وَرَبِّكَ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَكَ الْاَكْبَرُ الْكَرِيمُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُرَّاتٍ كَثِيرًا

ہمارے سردار فوج کو ترتیب دینے والے درود سلام بھیجے لایے

حضرت عبدالرحمن بن عوف
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور اقدس ﷺ نے ہمیں
رجنک (بدر کی رات کو
ترتیب دیا۔

حضرت ابویوب انصاری
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رجنک (بدر کے دن ہم نے
صفیں باندھیں۔ ہم میں سے بعض
کاٹنے صف سے آگے نکل گیا
تو آپ ﷺ نے اس کی
طرف دیکھ کر فرمایا۔ میرے ساتھ
ہموار ہو۔ میرے ساتھ ہموار ہو۔

عن عبد الرحمن بن
عوف رضي الله عنه قال عبانا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
ببدر ليلاً.

(جامع الترمذی ج ۱ ص ۱۰۱)

عن أبي أيوب
الأنصاري رضي الله عنه قال
صففنا يوم بدر
فبدرت منا بادرة
إمام الصف فنظر
رسول الله صلى الله عليه وسلم
إليهم فقال معي معي
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۲۰۲)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا كُنَّا لَنَدْرِكَ لَكُمُ الْاَبْنَاءَ لَوْلَا
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَجَنَّتْ سَائِرُ النَّبِيِّينَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ وَصَلِّ عَلَى مَنْ وَّجَدْتَهُمْ
وَعَلَىٰ مَنْ وَّجَدْتَهُمْ وَوَجَدْتَهُمْ وَوَجَدْتَهُمْ وَوَجَدْتَهُمْ وَوَجَدْتَهُمْ وَوَجَدْتَهُمْ وَوَجَدْتَهُمْ وَوَجَدْتَهُمْ وَوَجَدْتَهُمْ وَوَجَدْتَهُمْ

مَعْتَدِلُ الْخَلْقِ

سَيِّدُكُمْ

ہمارے سرور درمیانے قامت والے درود سلام بھیجے اللہ آپ سے

حضرت ہند بن ابی ہالہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ اور یہ صحابی حضور اقدس ﷺ کا حلیہ مبارک بیان کرنے والوں میں سے تھے کہ حضور اقدس درمیانہ قد والے تھے۔

حضور اقدس ﷺ تمام امور میں معتدل تھے یعنی آپ کے تمام طور طریقے یعنی براعتدال اور ہموار تھے تمام کام یامکیں اور برقرار تھے۔ آپ کے تمام کام اونچ نیچ سے پاک صاف تھے۔ اور اختلاف اور کمی بیشی کا وہاں گذر نہ تھا۔ اور اپنی امت کی تعلیم و تربیت اور تہذیب میں بے خبر نہ تھے۔

عن ہند بن ابی ہالہ
رضی اللہ عنہما وکان وصافاً
عن حلیۃ رسول اللہ ﷺ
قال کان معتدلاً الخلق۔

(شامل الترمذی ص ۲)

آنحضرت ﷺ

معتدل الامر در ہمہ چیز یعنی ہمہ افعال و اوصناع شریفہی معتدل و ہموار بود و ممکن و بریک قرار بود در کارہای او پست و بالا نبود و اختلاف و افراط و تفریط راہے یافت و غافل نبود از تعلیم و تادیب و تہذیب امت۔

(مارج استنبوہ ج ۱ ص ۳۶)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يَكْفُلْ لَكَ اللَّهُ
وَمَا تَكْفُلُ لَكَ اللَّهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ بِالْآخِرَةِ وَالْحَقُّ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ بِالْحَقِّ وَالْحَقُّ بِالْحَقِّ

سَيِّدِنَا مُعْتَصِمٌ

ہمارے سردار دین کو مضبوطی سے پکڑنے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

إشارة الى قوله:

" وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ
فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ (سورة العنكبوت ١٠١)
" وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ
اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا "

(سورة العنكبوت ١٠٣)

عن علي رضي الله عنه
قال جبريل عليه السلام كتاب
الله تعالى به يعتصم الله
كل جبار من اعتصم
نجا وبه من تركه
هلك

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ١ ص ٩١)

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
" اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط
پکڑتا ہے۔ تو ضرور راہِ راست
کی ہدایت کیا جاتا ہے۔"
" اور مضبوط پکڑے ہو اللہ تعالیٰ
کے سلسلہ کو اس طور پر کہ تم سب باہم
متفق بھی ہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو۔"
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور
قدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی
کتاب ایسی ہے جس سے اللہ ہر سرکش
کو تباہ کر دیکتا جو اسے مضبوطی سے
پکڑے گا وہ نجات پائے گا۔ اور جو
اسے چھوڑ دیکتا وہ تباہ ہو جائے گا

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبَائِهِ وَعَزِمْتُمْ بِمَدْوَنَةِ كِتَابِكُمْ أَنْ
 وَرَدَّ وَخَلَقَكَ وَرَضَّ لِقَابِكَ وَمِنَّا وَكَرَّمْنَاكَ اسْتَعْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ لَمِعْتُونَ

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
 وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
 وَآحِبَائِهِ

ہمارے سردار غلاموں کو آزاد کرنے والے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجرات کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں نذرمانی تھی کہ مسجد حرام میں اعتکاف بیٹھوں گا عبد الصمد راوی بیان کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ قبیلہ ہوازن کے قیدیوں میں سے ایک لڑکا تھا آپ نے اسے فرمایا جا اعتکاف بیٹھ۔ چنانچہ وہ جا کر معتکف ہو گیا۔ دس اشاکہ وہ نماز پڑھتا تھا اس نے لوگوں سے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوازن کے قیدیوں کو آزاد کر دیا ہے۔ پھر آپ نے اس لڑکے کو بلایا اور آزاد کر دیا۔

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر رضی اللہ عنہ سأل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانة فقال انی كنت نذرت فی الجاهلیة ان اعتکف فی المسجد الحرام قال عبد الصمد ومعہ غلام من سبئی ہوازن فقال له اذهب فاعتکف فذهب فاعتکف فیما هو یصلی اذ سمع الناس یقولون اعتق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سبئی ہوازن فدعا الغلام فاعتمه۔

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۱۵۳)

رَبَّنَا أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا سَأَلَ اللَّهُ لَأَهْلِهِ إِلَّا اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْنَا عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ وَعَنْتَهُمْ سَدِّدْ عَلَيْنَا
 وَمَنْ دَخَلَ مِنْكَ رَوْحًا فَتَمَّكَ وَرَضَّكَ وَمَا دَخَلَ مِنْكَ رَوْحًا فَتَمَّكَ وَرَضَّكَ وَمَا دَخَلَ مِنْكَ رَوْحًا فَتَمَّكَ وَرَضَّكَ

سَيِّدِكَ لَمَعْرُونَ

ہمارے سردار معروف و مشہور درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ الی قولہ:

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ
 فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

(سورة المؤمنون ۶۹)

قال جعفر بن
 اب طالب رضي الله عنه للنجاحي
 ملك الحبشة ايها الملك
 ان الله بعث فينا
 رسولا نعرف نسبه
 وصدقه و امانته و
 هكذا قال المغيرة بن
 شعبة رضي الله عنه لنايب كسري
 حين بارزهم و
 كذلك قال ابوسفيان

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
 کیا انہوں نے اپنے رسول کو
 نہیں پہچانا پھر وہ (بہت دھرمی)
 سے اس کا انکار کرتے ہیں۔

جعفر بن اب طالب رضي الله عنه
 نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو کہا کہ
 بادشاہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک
 بہت بڑا پیغمبر بھیجا جس کی نسبت
 اور صداقت اور امانت کو ہم جانتے
 ہیں۔ اور اسی طرح حضرت مغیرہ بن
 شعبہ رضي الله عنه نے ایران کے بادشاہ
 کسری کے نائب کو کہا۔ جب وہ
 ان کے آمنے سامنے ہوئے۔ اور اسی
 طرح ابوسفیان صحزین عرب نے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

صخر بن حرب ملك
الروم هرقل حين
سأله واصحابه عن
صفات النبي ﷺ و
نسبه وصدقه و امانته
وكانوا بعد كفاراً
لم يسلّموا ومع هذا
لم يمكنهم الا الصدق
فاعترفوا بذلك -

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۲۵۰)

عن ابی صالح رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
فی قوله " ام لم يعرفوا
رسولهم" - قال
عرفوه و لكنهم
حسدوه -

(تفسیر فتح القدیر ج ۳ ص ۲۹۹)

ای بل الم
يعرفوه بالأمانة والصدق
فانكروه ومعلوم
انهم قد عرفوه
بذلك -

(تفسیر فتح القدیر ج ۳ ص ۲۹۹)

روم کے بادشاہ ہرقل کو کہا جب
اس نے اس سے اور اس کے
ساتھیوں سے حضور اقدس ﷺ
کی صفات کے بارے دریافت کیا اور
آپ کا خاندان اور صداقت اور
امانت کی بابت پوچھا جب وہ
ابھی تک کافر تھے مسلمان نہ ہوئے
تھے۔ باوجود اس کے پھر وہ سچائی
پر مجبور ہو گئے۔ اور انہوں نے اس
بات کا اعتراف کر لیا تھا۔

حضرت ابوصالح رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سے
روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس
فرمان میں "کیا وہ اپنے رسول کو پہچانتے
نہیں۔" یعنی وہ اس کو اچھی طرح
پہچانتے ہیں۔ لیکن وہ اسے سخیبر سے
حسد کرتے ہیں۔

یعنی کیا وہ اس رسول کی امانت
اور صداقت کو پہچانتے نہیں۔ کہ
اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ بات
جانی پہچانی ہے۔ کہ وہ اسے سخیبر کے
اوصاف حمیدہ کو اچھی طرح پہچانتے
ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا قَالَهُ لَوْ كُنْتُ الْاِنْسَانِ اللّٰهُ
اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَسْبُنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْاَمِينُ وَظَلَمْنَا اِلَيْهِ وَاصْبِرْ بِمَدَدِ كُلِّ مَلَكٍ اَلَمْ
يَخْلُقْ وَحَلَقْ وَرَضِيَ بِطَبْعِكَ وَتَشَرَّفْنَا بِمَدَدِ ظِلِّكَ اَسْتَغْفِرُكَ اللهُ الَّذِي لَا اَلَهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَالْمُتَكَبِّرُ الْعَلِيُّ

سَيِّدِنَا مُعْتَرِفٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار اعتراف کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

حضرت عبد اللہ بن عباس
رضی اللہ عنہما سے روایت ہے انہوں
نے فرمایا کہ حجۃ الوداع میں جناب
رسول اللہ ﷺ کی دُعاؤں میں
یہ دُعا بھی تھی اے اللہ تو میرے کلام
کو سنتا ہے اور میری حالت دیکھنے والا
ہے اور میرے ظاہر و باطن کو جانتا ہے اور
میرے معاملات میں سے تجھ پر کوئی چیز پوشیدہ
نہیں ہے میرے عاجز و فقیر ہوں فریاد کرنے والا۔
پناہ کا طلبگار ڈرنے والا اور اپنے گناہوں
کا اعتراف کرنے والا ہوں میں تجھ سے
مسکینوں جیسا سوال کرتا ہوں اور ذلیل
آدمیوں کی طرح تیری بارگاہ میں عاجزی
سے فریاد کرنے والا ہوں۔

عن ابن عباس
رضی اللہ عنہما قال كان فيما
دعا به رسول الله
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
" اللَّهُمَّ اَنْتَ تَسْمَعُ كَلَامِي
و تَرْمِكُنِي وَ تَعْلَمُ سِرِّي
وَ عَلَانِيَتِي وَ لَا يَخْفِي عَلَيْكَ
شَيْءٌ مِنْ اَمْرِي اَنَا الْبَاسِ
الْفَقِيرُ الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيرُ
الْوَجِلُ الْمَشْفُوقُ الْمَقْرُ
الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ اَسْئَلُكَ
مَسْأَلَةَ الْمَسْكِينِ وَ ابْتِهَالِ
الِيكَ ابْتِهَالِ الذَّلِيلِ - الخ
(تاریخ ابن کثیر ج ۵ - ص ۱۷۵)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ اٰمِيْنَ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً أُولِيْ آيَاتِهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَخَلْفَتِهِ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ
وَمَدِينَةِ مَدِينَةِ نَبِيِّكَ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَخَلْفَتِهِ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُعْتَبِرِ اللَّهِ

ہمارے سردار اللہ کی طرف سے عزت دیے گئے درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

اشارہ الی قولہ :

” يَقُولُونَ كَبِئْرًا
رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ
لِيُخْرِجَنَا مِنْهَا
الَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ
الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ
الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ “

(سورة المنافقون ۸)

و ذکر عکرمة
و ابن زید رضی اللہ عنہما وغیر
ان الناس لما قفلوا

اشارہ ہے اس قول کی طرف :

” (اور یہ لوگ) کہتے ہیں کہ اگر ہم
اب مدینہ میں لوٹ کر جائیں گے
تو عزت والا وہاں سے واپس آئے
کو باہر نکال دے گا اور یہ کہنا جہل
محض ہے بلکہ اللہ ہی کی ہے عزت
(بالذات) اور اس کے رسول کی
رہ واسطہ تعلق مع اللہ کے) اور
مسلمانوں کی رہ واسطہ تعلق مع اللہ
و رسول کے) و لیکن منافقین
جانتے نہیں۔“

حضرت عکرمة اور ابو زید رضی اللہ عنہما
وغیرہ نے ذکر کیا کہ لوگ جب مدینہ منورہ
کو واپس جا رہے تھے حضرت عبد اللہ

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

راجعت الى المدينة
وقف عبدالله بن
عبدالله هذا على
باب المدينة واستل
سيفه فجعل الناس
يمرون عليه فلما جاء
ابوه عبدالله بن ابي
قال له ابنه وراءك
فقال مالك وملك؟
فقال والله لا تجوز من
هنا حتى ياذن لك رسول
الله ﷺ فانه العزيز وانت
الذليل - (تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۲۴۲)
" و لله العزة و لرسوله
و للمؤمنين اى القوة
و الغلبة لله و حده
و لمن افاضها عليه
من رسله و صالحى
عباده لا لغيرهم -
(تفسير فتح القدير ج ۵ ص ۲۲۶)

بن عبد الله ﷺ مدينة منوره کے
دروانے پر کھڑے ہو گئے اور انہوں
نے اپنی تلوار کو میان سے نکال لیا
تھا۔ لوگ گد ر رہے تھے جب ان
کے باپ عبد اللہ بن ابی آئے تو انہوں نے
اس سے کہا تجھے ہٹ جا۔ اس نے
کہا کیوں۔ تو عبد اللہ ﷺ نے
کہا خدا کی قسم تو اس جگہ سے اس وقت
بہک نہیں گذر سکتا جب تک تیرے
بے حضور اقدس ﷺ اجازت
نہ فرمائیں۔ بے شک حضور اقدس
ﷺ عزت والے ہیں۔ اور تو
ذلیل انسان ہے۔
اور عزت تو اللہ اور رسول اور
مومنوں کے لیے ہی ہے یعنی قوت
اور غلبہ تو صرف اللہ وحدہ کے لیے
ہی ہے۔ پھر اس کے فیض و انعام
سے اس کے رسول اور اس کے
بعزیک بندہ کے لیے ہے۔
دوسروں کے لیے قطعاً نہیں۔

رَبَّنَا قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَصْرَتِهِ بِمَدُونِهِمْ عَلَى مَقْلُومِ لَدُنْكَ
 وَعَبْدُ خَلْقِكَ وَوَجْهٌ لِقَبْلِكَ وَبَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَ وَبَدَأَ خَلْقَكَ اسْتَفْرَأْتُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَلِكٌ مُعَزَّزٌ خَلِيدٌ

ہمارے سردار کلمہ توحید کے ساتھ عربی میں کیے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

عز عثمان بن عفان رضي الله عنه
 قال سمعت رسول الله ﷺ
 يقول اني لا اعلو كلمة لا
 يقولها عبد حقا من قلبه
 الا حرم على النار فقال له
 عمر بن الخطاب رضي الله عنه انا
 احديثك ما هي هي كلمة الاخلاص
 التي اعز الله تبارك وتعالى بها
 محمدا ﷺ واصحابه وهي
 كلمة التقوى التي الاصر
 عليها نبي الله ﷺ وسلم ربه
 ابا طالب عند الموت شهادة
 ان لا اله الا الله -
 (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۳)

حضرت عثمان بن عفان رضي الله عنه
 سے روایت ہے۔ آپ نے میں نے
 حضور اقدس ﷺ کو فرماتے سنا ہے
 کہ مجھے ایسا کلمہ معلوم ہے کہ کوئی بندہ
 سچے دل سے حق سمجھتے ہوئے اس کا اقرار
 کرے تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائیگی
 حضرت عمر بن الخطاب نے انکو فرمایا میں
 بیان کرتا ہوں کہ وہ کلمہ کیا ہے وہ کلمہ الاخلاص
 ہے جس کے فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت
 محمد ﷺ کو اور آپ کے صحابہ کرام کو عزت
 بخش ہے اور وہ تقویٰ کا کلمہ ہے جو آپ نے
 اپنے چچا ابوطالب کو اسکے مرنے کے وقت پیش
 کیا وہ کلمہ لا اله الا الله ہے
 یعنی کوئی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • مَا كَانَ لِلّٰهِ لَوْحَةٌ اَلْبَیِّنَاتُ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰی سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَآخِطِهِ وَعَنْتَ مِنْتَ عَلٰی سَلْمِ الْوَلَدِ
 وَمَنْ وَجَلَّتْ رُجْمٌ مِنْكَ وَتَشْرَبَتْ مِنْكَ وَمَا كُنَّا بِكَ اَسْتَعِزُّوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

مِلْحَنَاتُ نَبِيِّكَ ﷺ

ہمارے سردار تعظیم کئے گئے درود و سلام بھیجئے اللہ آپ کی

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
 «سو جو لوگ ان نبی (موصوف) پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں»
 حضرت معاذ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے ہم سے پانچ باتوں کے بارے میں عہد لیا کہ جو شخص ان میں سے کوئی بات کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پر وہ ضامن ہوگی۔ جو شخص کسی مریض کی عیادت کیے یا جنازہ کیساتھ جائے یا اللہ کے

اشارہ الی قوله :
 « فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزَلَ مَعَهُ لَا أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ »
 (سورة الاعراف ۱۵۷)
 عن معاذ رضي الله عنهما قال عهد المينا رسول الله ﷺ في خمس من فعل منهن كان ضامنا على الله من عاد مريضاً او خرج مع جنازة او خرج غازيا في سبيل

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين يا رب العالمين ط

راستے میں جہاد کے لیے نکلے۔ یا
امام پر اس کی تعظیم اور عزت کرنے
کے لیے داخل ہو۔ یا گھر میں بیٹھ
جائے کہ لوگوں کو اس سے سلامتی
ہو اور وہ خود بھی سلامت رہے۔

"پھر وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی
حضور اقدس ﷺ کے ساتھ ایمان
لائے اور انہوں نے تابعداری
کی یعنی اس شریعت کی تابعداری
کی جو وہ (خدا) کی طرف سے لائے
تھے اور آپ ﷺ عزت
کے معنی آپ کی تعظیم اور توقیر کی
انحسب نحوی ﷺ نے اسی طرح
اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ اور
یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ انہوں نے
آپ ﷺ کو دشمنوں سے
بچایا اور عذر کا لفظی ترجمہ
روکنا ہے۔

الله أو دخل على
امام يريد بذلك
تعزيره و توقيره أو
قعد في بيته فيسلم
الناس منه و يسلم -

(سنن الامام احمد بن حنبل ج ۵ ص ۲۳۱)

"فالذين امنوا"

ای بمحمد ﷺ

"واتبعوا" فيما جاء

بمن الشرائع

"وعزروه" ای

عظموه و وقروه

قاله الاخفش رحمه الله عليه

وقيل معناه منعه

من عدوه و اصل

العذر: المنع -

(تفسیر فتح القدیر ج ۲ ص ۲۳۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ • إِنَّهُ كَانَ سَمِيعًا عَلِيمًا • اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ بِمَدَدِ كُلِّ مُتَّقٍ وَأَنَّ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلَأَ عِزًّا

ہمارے سردار تعزیر لگانے والے دُرُودِ سَلَامِ بِحَسْبِ اللَّهِ أَجِبِي

حضرت انس رضي الله عنه سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پینے پر چوتوں اور چھڑی کے ساتھ تعزیر لگاتے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر رضي الله عنه نے چاہیں دے لگاتے پھر جب حضرت عمر رضي الله عنه کے زمانے میں لوگ سرسبز جگہوں سے اور بستوں سے نزدیک ہو گئے تو اس کے متعلق لوگوں نے مشورہ طلب کیا اور لوگوں میں بات پھیل گئی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه فرماتے ہیں میرا خیال تھا کہ حدود سے بہت ہلکی سزا تجویز کریں گے پھر حضرت عمر رضي الله عنه نے اسی دُرُوعے مارے۔

عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعزر في الخمر بالنعال و الجريد قال ثم ضرب ابوبكر رضي الله عنه اربعين فلما كان زمن عمر رضي الله عنه و دنا الناس من الريف و القرى استشار في ذلك الناس و فشا ذلك في الناس فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه اری ان تجعله كاحف الحدود ف ضرب عمر رضي الله عنه ثمانين - (مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۸)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلِيمًا
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعِزِّمْ مَدَدُ كُلِّ مُتَلِمٍ لَكَ
 وَمَدَدُ كُلِّ مَلِكٍ وَرَحْمَةُ كُلِّ مُتَلِمٍ وَمَدَدُ كُلِّ مَلِكٍ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ وَالْحَقُّ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ مَعَزُّهُ

ہمارے سردار امداد کے گئے درود سلام بھیجی اللہ آپ کے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما
 روایت کرتے ہیں کہ غار حرا میں
 پہلی وحی کے بعد جب آپ گھر تشریف
 لائے تو نبی ﷺ نے حضرت
 خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان
 کیا کہ میں نے ایک روشنی دیکھی
 ہے۔ اور ایک (سبب ناک)
 آواز سنی ہے اور مجھے دیوانہ ہو
 جانے کا خدشہ ہے۔ حضرت خدیجہ
 نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا
 اے ابن عبد اللہ اللہ تعالیٰ آپ
 سے بالکل ایسا معاملہ نہیں کرے
 گا۔ پھر وہ ورقہ بن نوفل کے پاس
 آئیں اور سارا معاملہ اُسے کہہ سنایا

عن ابن عباس
 رضي الله عنهما ان النبي ﷺ
 قال لخديجة اني
 ارى ضوا واسمع
 صوتا واني اخشى
 ان يكون بي
 جن فالت لم
 يكن الله ليفعل
 ذلك بك يا ابن
 عبد الله ثم اتت
 ورقة بن نوفل
 فذكرت ذلك
 له فقال ان
 بك صادقا فان

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

هذا ناموس مثل
ناموس موسى ﷺ
فان بعث و
انا ح فسا عذره
وانصره و او من
بر-

(مسند امام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۳۱۲)

عن ابى طلحة
رضي الله عنه قال خرج
رسول الله ﷺ
في بعض معازيه
و كنت اتحين قفوله
فاخذت مطاكان
لنا فسترته على
العرض فلما جاء
استقبلته فقلت السلام
عليك يا رسول الله
ورحمة الله وبركاته
الحمد لله الذي
اعزك و اكرمك (الحديث)

(سنن ابى داود ج ۲ ص ۱۱۶)

ورقة بن نوفل نے جواب دیا۔
اگر وہ اس بیان میں سچے ہیں۔
پھر موسیٰ ﷺ کے ناموس
کی طرح ناموس ہے یعنی آسمانی
شرعیات نازل ہو رہی ہے۔ اگر
وہ نبی مبعوث ہوئے اور میں زندہ
رہا تو ان کی مدد اور نصرت کروں
گا اور ان پر ایمان لے آؤں گا۔
حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ ایک دفعہ حضور
افس رضی اللہ عنہ کسی غزوہ میں نکلے
اور میں آپ کی واپسی کا انتظار کر
رہا تھا جب آپ کی واپسی کا وقت
آیا تو میں نے ایک پھلکاری (چادر)
سے اپنے گھر کے سامنے کی دیوار کو ڈھپ
دیا۔ اور پھر میں نے آپ کا استقبال
کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول
آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور
اس کی برکتیں نازل ہوں۔ سب
تعریفیں اس اللہ کے لیے خاص
ہیں جس نے آپ کو عزت اور
بزرگی سے نوازا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ

سَيِّدُكَ الْمَعْرِي

ہمارے سردار تسلی دینے والے درود و سلام بھیجے الہ آپ

عن عمرو بن
حزم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النبي
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَعْرِى إِخَاهُ
بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ
سَجَانَهُ مِنْ حُلِّ الْكِرَامَةِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ - (سنن ابن ماجه ص ۱۱۵)

عن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَلَيْهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرَى
مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ
أَجْرِهِ -

(سنن ابن ماجه ص ۱۱۵)
و اما المعزى الروح القدس

حضرت عمرو بن غرم
سے روایت ہے۔ وہ حضور اقدس
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے روایت کرتے ہیں
آپ نے فرمایا جو ایمان والا اپنے
مُصِيبَتِ زَوْه بھائی کو تسلی دے۔
اس کو اللہ سبحانہ قیامت کے دن
بزرگی کا جوڑا پہنائے گا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا جو شخص کسی
مُصِيبَتِ زَوْه کو تسلی دے اس کو
مُصِيبَتِ زَوْه کی مثل ثواب
ملتا ہے۔

لیکن مددگار یعنی روح القدس

جسے باپ میرے نام سے بھیجے
گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے
گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا
ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔
لیکن جب وہ مددگار آئے گا
جس کو میں تمہارے پاس باپ
کی طرف بھیجوں گا۔ یعنی سچائی کا روح
جو باپ کی طرف سے نکلتا ہے۔
تو وہ میری گواہی دے گا۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نے آپ کے
پاس آدمی بھیجا کہ میرا بیٹا نزع کی
حالت میں ہے۔ آپ گھر تشریف
لائیں۔ آپ نے اس کے جواب میں
کہلا بھیجا کہ میری جانب سے کہنا کہ
وہ سلام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ
بیشک اللہ ہی کا تھا جو اس نے
لے لیا اور اللہ کا ہے جو اس نے
عطا کیا اور ہر چیز کا اس کے ہاں
ایک وقت مقرر ہے۔ صبر کیجئے اور
ثواب کی امید رکھیے۔

الذی سیرسلہ الاب باسی
فہو یعلم کل شیء و یدکرکم
بکل ما قلتہ لکم۔

(انجیل یوحنا باب ۱۰ - آیت ۲۶)
و متی جادکم المعزی
سارسلہ انا الیکم من الاب
روح الحق الذی من عند
الاب ینبشوق فہو یشہدلی
(انجیل یوحنا باب ۱۵ - آیت ۲۶)

عن اسامة
ابن زید رضی اللہ عنہ قال
ارسلت بنت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنا لی
قبض فأتنا فارسل
یقرئ السلام
و یقول ان لله
ما اخذ وله ما
اعطى و کلُّ عندہ
باجل مسمی فلتصبر
ولتحتسب۔

(الحديث)
(صحیح البخاری ج ۱ - ص ۱۷۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لِأُمَّةٍ إِلَّا اللَّهُ
اللَّهُ مُصَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَجْمَلِ عَلَى النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَجَزْتَ مَدَى عَلَى مَلَكٍ أَلَدٍ
وَمَدَى وَخَلْقِكَ وَعَلَى نَسَبِكَ وَرَبِّكَ وَمَا كُنَّا بِكَ إِسْتَفْهَامًا لَكَ اللَّهُ الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ وَأَمَّا الْبَرُّ

سَيِّدِكَ الْمَعْصُومِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار گناہوں سے پاک درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے
روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ
جناب رسول اللہ ﷺ کی پرمدار
حفاظت کرتے تھے یہاں تک
کہ یہ آیت وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ
مِنَ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
آپ کو لوگوں سے حفاظت میں
رکھے گا نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ
ﷺ نے اپنا سر مبارک قبہ سے
باہر نکال کر فرمایا اے لوگو لوٹ جاؤ
بیشک اللہ تعالیٰ نے میری
حفاظت فرمادی ہے۔

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يُحْرَسُ حَتَّى
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ "وَاللَّهُ
يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ"
فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ رَاسَهُ مِنَ
الْقُبَّةِ فَقَالَ لِمَ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ
انصرفوا فقد عصمني
الله عز وجل۔

(جامع الترمذی ج ۲ ص ۱۳۰)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ
 وَمَنْ دَخَلَ بَيْتَكَ مِنْ بَيْتِكَ وَرَأَىٰ فِيكَ رَسُولَكَ وَرَأَىٰ فِيكَ رَسُولَكَ وَرَأَىٰ فِيكَ رَسُولَكَ

سَيِّدِنَا الْمِعْطَاءُ

ہمارے سردار بہت عطا کرنے والے دو دوسلا بھیجے اللہ آپ کے

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے کہ اسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم کرنے کے لیے کچھ بکریاں عطا فرمائیں تو تقسیم کے بعد بکری کا ایک بچہ بیچ گیا تو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی قربانی تم کرو۔
 حضرت عمیر رضی اللہ عنہ جو ابو لہم کے آزاد کردہ غلام تھے سے روایت ہے کہ میں خیبر کی جنگ میں حاضر ہوا اور ان دنوں میں غلام تھا۔ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے استعمال کے لیے عطا فرمایا اور آپ نے مجھے ایک تلوار عطا فرمائی اور فرمایا اس کو رکر کے ساتھ لٹکا لو۔

عن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ان التبی
 من اللہ علیہ وسلم اعطاه غنماً
 یقسمها علی صحابته فبقی
 عتود فذکرہ للنبی
صلی اللہ علیہ وسلم فقال ضح بہ انت۔
 (صحیح البخاری ج ۱ - ص ۳۰۸)
 عن عمیر مولی
 ابی لہم رضی اللہ عنہ قال
 شہدت خیبر وانا عبد
 مملوک فاعطانی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من خرقی المتاع و
 اعطانی سیفا فقال تقلد
 بہذا۔ (سنن الدارمی ج ۲ - ص ۱۳۵)

رَبَّنَا قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلِّ مَسْلَمٍ أَلَيْكَ
 وَبِعَدِّ عِلَّتِكَ وَبِحَسْبِكَ وَبِشَرِّكَ وَمَا عَدَاكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَسْأَلُكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لَمْعَةُ عَطْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار عطر کی خوشبو والے دُودھ اور مساجد اللہ آپ کے

عن ام سلمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 قَالَتْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى
 صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
 يَوْمَ مَاتَ فَمَرَّتْ لِي
 جَمْعُ أَكْلِ وَاتْوَضَأُ وَمَا يَذْهَبُ
 رِيحُ الْمَسْكِ مِنْ يَدِي -

(رواه البيهقي تاريخ ابن كثير ج ۱ ص ۲۱)

عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
 قَالَتْ قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ
 ﷺ وَرَأْسَهُ بَيْنَ سَحْرِي
 وَنَحْرِي قَالَتْ فَلَمَّا خَرَجْتَ
 نَفْسَهُ لَمْ أَجِدْ رِيحًا قَطُّ
 أَطِيبَ مِنْهَا -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۱۲۱)

حضرت ام سلمہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روا
 ہے کہ میں نے حضور اقدس ﷺ
 کے سینہ مبارک پر اس دن ہاتھ رکھا جس
 دن آپ کا وصال ہوا۔ اس کے بعد
 میں کھانا بھی کھاتی رہی اور وضو بھی کرتی
 رہی لیکن میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو
 نہ گئی۔

حضرت عائشہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فرماتی ہیں کہ
 جب جناب رسول اللہ ﷺ کی رُوح
 مبارک قبض ہوئی اس وقت آپ کا
 سر مبارک میری گود میں تھا۔ پھر جب آپ
 کی رُوح مبارک نکلی تو میں نے اتنی پاکیزہ
 خوشبو پائی کہ اس سے بہتر خوشبو کبھی
 نہیں پائی۔

رَبَّنَا نَقْبَلُ مِنْكَ أَيُّهَا السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

قبة من آدم ولم
يدع معهم غيرهم
فلما اجتمعوا قام النبى
ﷺ فقال ما
حديث بلغنى عنكم فقال
فقهاء الانصار اما رؤساؤنا
يارسول الله (ﷺ) فلو
يقولوا شيئا واما
ناس منا حديثه
اسنانهم فقالوا يفسر
الله لرسول الله ﷺ
يعطى قريشا ويتركنا
وسيوفنا تقطر من
دمائهم فقال النبى
ﷺ فاني اعطى
رجالا حديثى عهد بكفر
اتالفهم اما ترضون
ان يذهب الناس
بالاموال وتذهبون
بالنبى الى رجالكم فوالله
لما تنقلبون به خيرا
مما ينقلبون به قالوا

خيمہ میں جمع کیا اور کسی غیر کو نہیں بلایا
جب وہ سب جمع ہو گئے تو فرمایا
یہ کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے
مجھے پہنچی ہے؟ فقہائے انصار
نے جواب دیا یا رسول اللہ ﷺ
انصار کے بزرگ تو کچھ نہیں کہتے ہاں
نوعمر لوگ ہم میں سے یہ کہتے ہیں۔ کہ
اللہ تعالیٰ رسول اللہ ﷺ کو مغفرت
کھے آپ قریش کو دیتے ہیں جو ابھی
مسلمان ہوئے ہیں) اور ہمیں چھوڑ دیتے
ہیں۔ حالانکہ ہماری تلواروں سے
قریش کے خون (اب بھی) ٹپک رہے
ہیں۔ حضور اقدس ﷺ نے جواب
دیا میں نے نومسلموں کو تالیف قلب
کے واسطے دیا ہے۔ اور تم کیا اس بات
سے راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر
جائیں اور تم رسول اللہ ﷺ کو اپنے
ساتھ لے جاؤ۔ اللہ کی قسم
جو تم لے جاتے ہو وہ اس سے بہتر
ہے جو کچھ وہ لے گئے ہیں۔ انصار
نے کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم
راضی ہیں پھر حضور اقدس ﷺ

نے ان سے کہا عنقریب تم میرے
پچھے سختی دیکھو گے صبر کرنا جنت تک
کہ اللہ تعالیٰ اور رسول (ﷺ)
سے نہ ملو۔ اور میں حوض کوثر پر ہوں
گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ انصار (بعد وصال رسول اللہ
ﷺ) صبر نہ کر سکے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے تھے
کہ حضور اقدس ﷺ بڑے مہربان
تھے جو آپ کے پاس آنا اس سے
وعدہ فرماتے اور اگر آپ کے پاس کچھ
ہوتا تو آپ اس کو ضرور دیتے۔ ایک
دفعہ نماز کی تکبیر ہو گئی اور ایک عربی
نے آپ کے کپڑے کو پکڑا اور بولا کہ
میرا تھوڑا کام باقی ہے اور مجھے
ڈر ہے۔ کہ اس کو ہمیں بھول نہ جاؤ
آپ نے جا کر اس کا کام کر دیا پھر
واپس آ کر نماز پڑھائی۔

یا رسول اللہ (ﷺ) قد رضينا فقال لهم
النبى ﷺ سجدون اثره
شديدة فاصبروا حتى
تلقوا الله ورسوله
ﷺ فاني على الحوض
قال انس رضی اللہ عنہ فلم يصبروا۔
(صحيح البخارى ج ۲ - ص ۶۲۰)

عن انس بن مالك
رضی اللہ عنہ يقول كان النبى
ﷺ رحیما وكان
لا ياتيه احد الا وعده
وانجزله ان كان عنده
واقمت الصلوة وجاءه
اعرابى فاخذ بثوبه فقال
انما بقى من حاجتى
يسيرة و اخاف انساها
فقام معه حتى فرغ عن
حاجته ثم اقبل فصلى۔
(الادب المفرد للبخارى ص ۳)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُخَلِّقَ الْإِنْسَانَ إِلَّا عَلَىٰ خَيْرٍ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَىٰ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَخَلْقِهِ بِمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ
وَبَعْدَ خَلْقِكَ وَوَجْهِ نَضْرَتِكَ وَمِنَادٍ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ لِعَظِيمِكَ

ہمارے سرکار عطا کئے گئے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

إشارة إلى قوله :
" وَ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ
رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ " (سورة الضحى ٥)

عن عبد الله رضي الله عنه
قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنا اهل بيت
اختار الله لنا الاخرة
على الدنيا و لسوف
يعطيك ربك فترضى
(رواه ابن ابي شيبة)
(تفسير ابن كثير ج ٥ ص ٥٢٣)

عن ابن عباس
رضي الله عنهما قال عرض على

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
” اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ
کو (آخرت میں بکثرت نعمتیں)
دے گا۔ سو آپ خوش ہو جائیں گے“
حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ
نے فرمایا ہم اہل بیت ایسا گھرانہ ہیں
کہ ہمارے لیے اللہ نے آخرت کو
دُنیا پر پسند فرمایا ہے۔ اور عنقریب
اللہ تعالیٰ آپ کو (آخرت میں بکثرت
نعمتیں) دے گا۔ سو آپ خوش ہو
جائیں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ آمِينَ رَبِّمِن يَارَبِّ الْعَالَمِينَ ط

پراپکے وصال کے بعد آپ کی امت پر جو خزانے فتح ہونے والے تھے وہ پیش کئے گئے۔ سو آپ کو اس کے ساتھ بہت خوشی ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔
 ولسوف يعطيك ربك فترضى
 پھر آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بہشتوں میں ہزار ہا محل عطا فرمائے گا پھر ہر محل میں جو اس کے لائق ہوں گے۔ بیویاں اور خادم موجود ہوں گے۔

حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ اپنے باپ اور وہ اس کے دادا حضرت عبد اللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔

رسول الله ﷺ
 ما هو مفتوح على
 امته من بعد
 كنزا كنزا فسر بذلك
 فانزل الله :

" ولسوف يعطيك ربك
 فترضى " فاعطاه في
 الجنة الف الف قصر
 في كل قصر ما ينبغي
 له من الازواج والخدام.
 (رواه الاوزاعي / تفسير ابن كثير
 ج ۳ - ص ۵۲۳)

عن عمرو بن
 شبيب عن ابيه
 عن جده رضي الله عنه ان
 رجلا قال يا
 رسول الله ﷺ
 ما الكوثر؟ قال:
 هو نهر من انهار
 الجنة اعطانيه الله -

(الخرج ابن مردويه،
 تفسير فتح القدير ج ۵ ص ۴۹)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا تَقَابَلُوا أَكْفَرًا لَكَ اللَّهُ • اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَحَسْبُنَا مُحَمَّدٌ النَّبِيُّ الْأَمِينُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَشْرَتِهِ مَعْدُ كُلِّ مَسْلُومٍ لَكَ
وَمَعْدُ خَلْقِكَ وَرَوْحُ نَفْسِكَ وَنَسْرَتُ شَيْئِكَ وَمَعْدُ ذُنُوبِكَ أَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

سَيِّدِكَ مَعْصُومِي

ہمارے سردار حوض کوثر دیے گئے درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

<p>اشارہ ہے اس قول کی طرف : ” شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ بیشک ہم نے آپ کو کوثر عنایت فرمائی ہے۔“ حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور اقدس ﷺ پر تھوڑی سی غشی طاری ہوئی۔ جب وہ حالت جاتی رہی تو آپ نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور آپ مسکرا رہے تھے یا تو آپ نے انکو فرمایا یا انہوں نے آپ سے عرض کیا۔ کہ حضور آپ کس لیے ہنسنے ہیں۔ تو اس پر آپ</p>	<p>إشارة إلى قوله : ” بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ • إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ •“ (سورة الكوثر 1) عن انس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ اغفى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغفائة فرفع راسه متبسما اما قال لم واما قالوا له لم ضحكت فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انه انزلت على انفا سورة فقرا</p>
---	---

رَبَّنَا قَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امين امين يا رب العالمين ط

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ ۝ اَنَا اعطيتك
 الكوثر ۝ حتى ختمها
 قال هل تدرون
 ما الكوثر؟ قالوا
 الله ورسوله اعلم
 قال هو نهر
 اعطانيه ربي عز وجل
 في الجنة عليه
 خير كثير يرد
 عليه امتي يوم
 القيامة انيته عدد
 الكواكب يختلج العبد
 منهم فاقول يا رب
 ان من امتي
 فيقال لي انك لا تدري
 ما احدثوا بعدك -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۱۲)

نے فرمایا مجھ پر ابھی ابھی ایک سورۃ
 نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے
 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 پڑھ کر پوری سورۃ کو پڑھی۔ آپ
 نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا
 ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور
 اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں
 آپ نے فرمایا وہ ایک نہر
 ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں
 عطا فرمائی ہے۔ کوثر میں خیر کثیر ہے۔
 میری امت قیامت کے
 دن وہاں آئے گی۔ اس نہر پر
 ستاروں جتنے برتن ہیں۔ ان میں
 سے ایک بندہ کو دُور کر دیا جائے گا
 پھر میں کہوں گا۔ اے میرے رب
 یہ تو میری امت میں سے ہے مجھے
 کہا جائے گا۔ آپ نہیں جانتے۔
 انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا
 بدعات نکالی تھیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَكُلِّ مَنْ تَلَمَّحَ مِنْهُمْ
 وَجَدَّ وَخَلَقَكَ وَوَضَعَكَ وَنَشَأَكَ وَمَعَادَكَ كَمَا بَكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَلِيمُ وَأَسْأَلُكَ بِرَبِّكَ

سَيِّدِنَا الْعَظِيمِ الْمُرْتَضَى

ہمارے سردار (زمین و آسمانوں کی) کنجیاں عطا کیے گئے درود سلام بھیجیے اللہ آپ کے

عن أبي هريرة
 رَوَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَيْتُ
 مَفَاتِيحَ الْكَلِمِ وَنَصْرَتِ
 بِالرَّعْبِ وَبَيْنَمَا أَنَا
 نَائِمٌ الْبَارِحَةَ إِذْ أَتَيْتُ
 بِمَفَاتِيحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ
 حَتَّى وَضَعْتُ فِي يَدِي
 قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ
 فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمْ تَنْتَقِلُونَهَا
 (صحيح البخاري ج ۲ - ص ۱۰۳۶)

حضرت ابو ہریرہ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نے فرمایا مجھے فصاحت و بلاغت
 کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اور میں رعب
 کے ساتھ امداد کیا گیا ہوں۔ اور کل
 رات میں نے خواب دیکھا کہ مجھے
 زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی
 ہیں حتیٰ کہ وہ میرے ہاتھ میں رکھی
 گئی ہیں حضرت ابو ہریرہ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ
 فرماتے ہیں حضور رَوَى اللَّهُ عَنْهُ تو تشریف
 لے گئے اور تم ان خزانوں کو منتقل
 کر رہے ہو۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآيَاتِ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ بِمَدِينَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ
 وَمِنْدُوحَاتِكَ وَوَجْهِ نَبِيِّكَ وَمِنَادِيكَ لِيَسْتَفِئِلَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَأَشْفُقْ عَلَيْنَا

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ لِعَظِيمِ

صَلَّى عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

ہمارے سردار تعظیم کے لائق دُور و سلا بھیجے اللہ آپ سے

إشارة إلى قوله :
 " اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
 وَ مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا
 لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ
 وَ تَعْرِوْهُ وَ تُوْقِرُوْهُ ط
 (سورة الفتح ۱۹/۸)
 و التعزير ههنا
 التعظيم - (مختصر شعب الايمان ص ۱۳)
 و قوله (لا تجعلوا
 دعاء الرسول بينكم كدعاء
 بعضكم بعضا) اى
 لا تقولوا له يا محمد يا ابا
 القاسم بل يا رسول الله
 يا نبى الله و لقوله (لا

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
 "ہم نے آپ کو گواہی دینے والا
 اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا
 بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ تم لوگ اللہ پر اور
 اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس
 کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔"
 اور اس جگہ تعزیر کا معنی
 تعظیم ہے۔
 اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ رسول
 کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم
 ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یعنی
 یا محمد یا ابا القاسم مست کہو بلکہ یا رسول اللہ
 یا نبی اللہ کہو اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا
 کہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمین آمین یا رب العالمین ط

تَدْمُو بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ، وَقَوْلُهُ (لَا تَرْفَعُوا
أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِيِّ - آيَةٌ)

وَبِهِ قَالَ الْبِيهَقِيُّ
رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ مَنْزِلَةٌ
فَوْقَ مَنْزِلَةِ الْمَحَبَّةِ أَذْلَيْسَ
كُلِّ مَحَبٍّ مَعْظَمًا -

(مختصر شعب الايمان ص ۱۴)

عَنْ بَرِيدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْهَمَ اجْعَلْنِي
صَبُورًا وَاجْعَلْنِي شَاكِرًا
وَاجْعَلْنِي فِي عَيْنِي
صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ
النَّاسِ كَبِيرًا -

(رواه البزار تخفة الذاكرين ص ۲۳۳)

مست بڑھو اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا
کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے
بلند نہ کرو۔ (آیہ)

اور امام بیہقی رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بھی
یہی فرمایا ہے۔ اور تعظیم کا مرتبہ
محبت کے مرتبے سے بہت بلند
ہے۔ کیونکہ ہر پیارِ معظّم نہیں ہوتا۔

حضرت بریدہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے
روایت ہے کہ حضورِ اقدس
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یہ دعا کیا کرتے تھے۔
اے اللہ مجھے صابر بنا لے اور
مجھے شکر گزار بنا لے اور مجھے میری
نظر میں چھوٹا اور لوگوں کی نظروں
میں بڑا بنا لے۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَامَ اللَّهُ لِأُمَّةٍ إِلَّا بَلَّغَهُ اللَّهُ بِرَسُولٍ مِّنْهُ مَا وَعَدَهُ وَكَانَ يُسْمَعُونَ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآخِصَّهُمْ وَصَحْبِهِمْ بِمَدِينَةِ نَبِيِّهِمْ مُحَمَّدٍ وَبَلَدِهِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ وَبِلَدِّهِ الْيَمَامَةِ وَأُمَّةٍ أُمَّةِ الْيَوْمِ وَالْغَدِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ مَلْعَقِبٍ

ہمارے سردار آخری (نبی) درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پانچ نام ہیں میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں نامی بھی ہوں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے اور میں حاشر بھی ہوں جس کے قدموں پر لوگ اکٹھے ہونگے اور میں عاقب یعنی آخری نبی بھی ہوں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ گویا کس کی فتح اور قسور شدہ کے تھے یعنی سمجھے آنے والا کے معنی میں اور ہوا ہے۔ کیونکہ آپ تمام نبیوں کے آخر میں آتے ہیں۔ اس لیے آپ کا اسم گرامی المَعْقِبُ ہے۔

عز جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لخمسة اسماء انا محمد و احمد و انا الماحي الذی یحو الله بالکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب۔ (صحیح البخاری ج ۱ ص ۱۵) قال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کانه بفتح العین و کسر القاف المشددة بمعنى العاقب لانه عقب الانبياء ای جاء بعدهم۔ شرح المواهب اللدنیة للزرقانی ج ۱ ص ۱۲۵

رَبَّنَا قَبِّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ • سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدًا وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَعَقْرَبِهِمْ وَسَلِّمْ وَكُلِّمْ سَلَامًا لِّكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ اٰدَمَ اِلَى يَوْمِنَا اَمَّا بَعْدُ فَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاَلْعٰنِ الَّذِيْ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

سَبِّحْهُ مُعَلِّمُكَ

ہمارے سردار علم سکھانے کے درود سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف :
” شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو نہایت مہربان نہایت رحم
والے ہیں۔“
” اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب
اور علم کی باتیں نازل فرمائیں۔ اور
آپ کو وہ باتیں بتلائی ہیں جو آپ
نہ جانتے تھے۔“

” ان کا ارشاد زری وحی ہے جو
ان پر بھیجی جاتی ہے۔ ان کو ایک
فرشتہ تعلیم دیتا ہے جو بڑا طاقتور
ہے پیدائشی طاقتور ہے۔“

حضرت خدیفہ بن یمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
سے روایت ہے کہ وہ حضورِ قدس

اشارہ اِلٰی قوله :
” بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنُ “
(سورة الرحمن ۲۰۱)
” وَ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَیْكَ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ
مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ “

(سورة النساء ۱۱۳)
” اِنَّهُ هُوَ الْوٰحِیُّ
وَحِیُّ یُوْحٰی عَلَیْهِ
شَدِیْدُ الْقُوٰی “

(سورة النجم ۵)
عن خدیفة بن
الیمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ
اٰمِیْنُ اٰمِیْنُ یٰ اَرْبَّ الْعٰلَمِیْنَ ط

النبي ﷺ فقال بينما
انا صلي اذ سمعت
متكلما يقول اللهم
لك الحمد كله و لك
الملك كله بيدك الخير
كله اليك يرجع الامر
كله علانيته و سره
فاهل ان تحمد
انك على كل
شئ قدير اللهم
اغفر لي جميع ماضي
من ذنبي و اعصمني
فيما بقى من
عمرى و ارزقني
عملا زاكيا ترضى به
عني فقال النبي ﷺ
ذاك ملك اناك يعلمك
تحميد ربك .

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۵ - ص ۲۹۶)

اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے
ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں
نماز پڑھ رہا تھا۔ اچانک میں نے
ایک کلام کرنے والے کی بات کو
سناؤ کہہ رہا تھا۔ اے اللہ تیرے
لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور ساری بادشاہی
بھی تیری ہے۔ تیرے ہاتھ میں تمام
بھلائیاں ہیں۔ تمام ظاہر اور پوشیدہ
امور تیری طرف ہی لوٹیں گے تو اس
لاائق ہے کہ تیری تعریف کی جائے۔
بیشک تو بہر چیز پر قادر ہے۔ اے
اللہ میرے تمام اگلے گناہ بخش دے اور
آئندہ عمر میں مجھے گناہوں سے بچا۔
اور مجھے پاک عمل کرنے کی توفیق عطا
فرما۔ جس پر تو راضی ہو جائے۔ تو
حضور اقدس ﷺ نے فرمایا یہ
فرشتہ تیرے پاس آیا ہے جو تجھے
اپنے رب کی حمد سکھانے آیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِكَ الْآيَاتِ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّرْ عَنَّا
وَمَنْ دَخَلَكَ وَرَحِمْتَ نَفْسَكَ وَتَشَرَّفَكَ وَمَنَادَ ظَلَمْتَكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

سَيِّدِنَا الْمُعَلِّمِ

ہمارے سرِ اظاہری و باطنی علم سکھانے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”اے ہمارے پرورگار! اور اس
جماعت کے اندران ہی میں کا ایک
ایسا پیغمبر مقرر کیجئے جو ان لوگوں کو آپ
کی آستیں پڑھ پڑھ کر سنایا کریں اور
ان کو (آسمانی) کتاب کی اور حکمت
کی تعلیم دیا کریں اور ان کو پاک کر دیں۔
بلاشبہ آپ ہی غالب القدرت
کامل الانتظام ہیں۔“
”اور آپ کو وہ وہ باتیں بتلائی
میں جو آپ نہ جانتے تھے۔“
حضرت معاویہ بن حکم سلمی
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں
حضور اقدس ﷺ کے ساتھ

اشارة الى قوله
”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ
أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“
(سورة البقرة ۱۲۹)
”وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ
تَعْلَمُ“ (سورة النصار ۱۱۳)
عن معاوية بن
الحكم السلمي رضي الله عنه قال
بينما انا اصلي مع

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امين امين امين يا رب العالمين ط

رسول الله ﷺ
 اذ عطس رجل من القوم
 فقلت يرحمك الله
 فرماني القوم بابصارهم
 فقلت واثكل امياہ
 ماشانكم تنظرون الى
 فجعلوا يضربون بايديهم
 على افخاذهم فلما رأيتهم
 يصمتونني لکنی سکت فلما
 صلی رسول الله ﷺ
 فبابی هو و امی
 ما رأیت معلما قبله ولا
 بعده احسن تعلیما منه
 فوالله ما کفرتی ولا ضربتني
 ولا شتمتني ثم قال ان
 هذه الصلوة لا یصلح
 فیها شیء من کلام
 الناس انما هو التسبیح
 والتکبیر و قرأة القرآن
 (الحديث) (الصحيح لمسلم ج ۱ ص ۲۳)

نماز پڑھ رہا تھا اتنے میں جماعت
 میں سے ایک شخص کو چھینک آئی
 میں نے یَرْحَمُكَ اللهُ کہا تو
 لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا
 میں نے کہا کاش مجھ پر میری ماں
 روتی (یعنی مرجاتا) تم مجھے کیوں گھورتے
 ہو؟ یہ سُکروہ لوگ اپنے رانوں پر ہاتھ مارنے
 لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ مجھے
 خاموش کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں خاموش
 ہو گیا۔ جب حضور اقدس ﷺ
 نماز سے فارغ ہو گئے۔ میرے ماں
 باپ آپ پر فدا ہوں۔ میں نے
 آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کوئی
 آپ سے بہتر سکھانے والا نہیں
 دیکھا اللہ کی قسم نہ آپ نے مجھے جھڑکا
 نہ مارا اور نہ گالی دی۔ چنانچہ فرمایا یہ
 نماز انسانوں کی باتوں میں سے کسی
 چیز کی درستگی نہیں رکھتی یہ تو
 تسبیح اور تکبیر اور قرآن کریم کی
 تلاوت کا نام ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ مِنْ اللَّهِ وَهُوَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآخِطِهِ وَهَجْرَتِهِ بِمَدِينَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآخِطِهِ وَهَجْرَتِهِ بِمَدِينَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآخِطِهِ وَهَجْرَتِهِ بِمَدِينَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمِنَا

ہمارے سرورِ امت کو تعلیم دینے والے درودِ سلام بھیجیے اللہ آپ کی

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”وہی ہے جس نے عرب کے
ناخواندہ لوگوں میں اُن ہی (کی قوم)
میں سے (یعنی عرب میں سے) ایک
پس خیمہ بھیجا جو ان کو اللہ کی آستین پڑھ
پڑھ کر سنانے میں اور ان کو (عقائد باطلہ
اور اخلاقِ ذمیرہ سے پاک کرتے ہیں
اور ان کو کتاب اور حکمت (کی باتیں)
سکھلاتے ہیں اور یہ لوگ (آپ کی
بعثت کے) سے کھلی مگر ابھی میں تھے
حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں
اُن ہی کی جنس سے ایک ایسے پس خیمہ
کو بھیجا کہ وہ اُن کو اللہ تعالیٰ کی آستین

اشارہ الی قوله:
”هُوَ الَّذِي
بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ
رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو
عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
مِنْ قَبْلُ لَفِئ
ضَلِّ مُبِينٍ“
(سورة الجمعة ۲)
”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ
أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

اَيْتِهٖ وَ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ اِنْ
كَانُوْا مِنْ قَبْلُ
لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(سورة آل عمران ۱۹۳)

عن ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قال ان رسول الله
ﷺ علم فوائح الخير
وجوامعها او جوامع الخير
وفوائحها وانا كنا
لا ندري ما نقول
في صلواتنا حتى علمنا
فقال قولوا التحيات
لله و الصلوات والطيبات
السلام عليك ايها النبي
ورحمة الله وبركاته
السلام علينا وعلى
عباد الله الصالحين - اشهد
ان لا اله الا الله واشهد
ان محمدا عبده ورسوله -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۰۸)

پڑھ پڑھ کر سنا تے ہیں اور ان لوگوں
کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو
کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے
ہیں اور بالیقین یہ لوگ قبل سے صحیح
غلطی میں تھے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

سے روایت ہے کہ حضور اقدس ﷺ

کو نیکی جاری کرنے والے اور جامع کلمات
سکھاتے گئے ہیں۔ یہ جامع خیر اور ان کو
جاری کرنے والے عمل سکھاتے گئے ہیں۔
اور ہمیں معلوم نہ تھا کہ ہم نماز میں کیا
پڑھیں حتیٰ کہ آپ نے ہمیں فرمایا یوں کہو۔
تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ
ہی کے لیے ہیں۔ سلام آپ پر لے
نبی (ﷺ) اور اللہ کی رحمت
اور اس کی برکتیں۔ سلام ہم پر اور اللہ
کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا
ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت
محمد ﷺ اللہ کے بندے اور
اس کے رسول ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • يَا أَيُّهَا اللَّهُ لَا تُهِنِّي الْإِنْبَاءُ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآحِبِّهِ وَعَمِّرْهُ بِمَدِينَةِ نَبِيِّهِ
وَمَدِينَةِ عِلْمِهِ وَوَجْهِ قَلْبِهِ وَمَدِينَةِ عِلْمِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْكَرِيمُ الْغَفُورُ وَأَمَّا الْيَوْمُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلِّمِ رِجَالِنَا

ہمارے سردار سچائی کی تعلیم دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

إشارة الى قوله :

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ
وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ
الْمُتَّقُونَ ○ (سورة الزمر ۳۳)

قال حسان بن
ثابت رضي الله عنه يرضى النبي
صلى الله عليه وسلم :

” يدل على الرحمن من يقدي به

وينقد من هول الخزايا ويرشد

امام لهم يهديهم الحق جاهاً

معلم صدق ان يطيعوه يسعدوا

اشار ہے اس قول کی طرف :

” اور جو لوگ سچی بات لے کر آئے
اور خود بھی اس کو سچ جانا تو یہ لوگ
پرہیز ہیں۔“

حضرت حسان بن ثابت
رضي الله عنه نے حضور اقدس ﷺ
پر یوں مرثیہ پڑھا۔

” جو آپ کی پیروی کرے آپ
ان کو رحمن کا راستہ دکھاتے ہیں۔
اور خطرناک خواری سے لوگوں کو بچا
کر راہ راست دکھاتے ہیں۔
آپ ان کے رہبر ہیں۔ ان کو
راہ راست دکھاتے ہیں۔ سچائی
کی تعلیم دینے والے ہیں جو ان کی

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

عَفْوَعَنِ الزَّلَّاتِ يَقْبَلُ عَذْرَهُمْ

وَإِنْ يَحْسَبُوا أَنَّ اللَّهَ بِالْخَيْرِ أَعْوَدُ

(الروض الانف ج ۲ - ص ۲۶۵)

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ (لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) إِنِّي

أَرِيدُ أَنْ أَذْكَرَ لَكَ أَمْرًا

مَا أَحَبُّ أَنْ تَعْبَلِي

فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي

أَبُو بَكْرٍ قَالَتْ مَا هُوَ قَالَ

فَتَلَا عَلَيْهَا "يَأْتِيهَا النَّبِيُّ

قَلَّ لَا زَوْجَكَ" الْآيَةَ قَالَتْ

عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَيُكَلِّمُكِ

أَبُو بَكْرٍ بَلْ اخْتَارَ اللَّهُ وَ

رَسُولُهُ وَأَسْأَلُكَ أَنْ

لَا تَذْكَرِي لِمَرْأَةٍ

مَنْ نَسَأُكَ مَا اخْتَرْتِ

(الحدیث)

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۳۲۸)

اطاعت کرے وہ نیک نخت

ہو جاتا ہے۔ غلطیوں کو معاف

فرماتے والے عذر قبول کرنے والے

ہیں۔ اور اگر وہ تابعدار نیکی کریں

گے تو اللہ بہترین سخاوت کرنے

والا ہے۔"

حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا سے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں

تجھے ایک بات بتانا ہوں میں نہیں جانتا

کہ تو اس میں جلد بازی کرے جب تک تو

اس میں اپنے والدین سے مشورہ نہ کرے۔

انہوں نے عرض کیا کہ وہ کیا بات ہے؟

اپنے یہ آیت پڑھی۔ "یعنی اے نبی

اپنی ازواج کو کہہ دیجئے" تو حضرت عائشہ

رضی اللہ عنہا نے عرض کی کہ آپ کے بارے میں

میں اپنے والدین سے مشورہ کروں بلکہ میں

اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند

کرتی ہوں۔ میرا مطالبہ آپ سے یہی ہے

کہ آپ اس بات کا اپنی دوسری بیویوں

سے ذکر نہ کریں کہ میں نے آپ کو

پسند کیا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ أَجْمَعِينَ وَصَلِّ بِمَدِينَةِ مَنْ تَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا
 وَصَلِّ بِمَدِينَةِ مَنْ تَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا وَصَلِّ بِمَدِينَةِ مَنْ تَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا وَصَلِّ بِمَدِينَةِ مَنْ تَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا

مُعَلَّنٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَي سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَآحِبِّهِمْ أَجْمَعِينَ

ہمارے سرکار اعلان فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ سے

عن ابی ہریرۃ
 رَوَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ
 إِلَّا بِقِرَاءَةٍ قَالَ
 أَبُو هُرَيْرَةَ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ فَمَا
 أَعْلَنَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَنَاهُ لَكُمْ
 وَمَا أَخْفَاهُ أَخْفَيْنَاهُ
 لَكُمْ۔

(اصحیح مسلم ج ۱ ص ۷۷)
 معناه ما جهر
 فیہ بالقرءة جهرنا
 بہ وما اسر اسرنا
 بہ وقد اجتمعت

حضرت ابو ہریرہ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا قرأت کے بغیر
 نماز نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رَوَى اللَّهُ عَنْهُ
 فرماتے ہیں جس نماز کو حضور اقدس
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے جہر سے پڑھا ہم بھی
 تمہیں بلند آواز سے پڑھائیں گے
 اور جس نماز کو آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 نے خاموشی سے ادا کیا ہم بھی
 تمہیں خاموشی سے پڑھائیں گے۔
 اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ
 جس نماز میں آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے
 قرآن مجید جہری آواز سے پڑھا اس
 کو ہم جہری پڑھیں گے۔ اور جس

وَسَيَا تَقْبَلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمين آمين يا رب العالمين ط

الامة على الجهر
بالقراءة في ركعتي
الصبح والجمعة
والاوليين من المغرب
والعشاء -

(نورى شرح مسلم ج ۱ ص ۱۷۱)

عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
ان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قال ان جبريل عَلَيْهِ السَّلَام
أتاني فامرني ان أعلن
بالتلبية -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۲۲۱)

عن ابى هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
امرني جبريل عَلَيْهِ السَّلَام
برفع الصوت في الاهلال
فانه من شعائر الحج -

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۲۵)

نماز کو آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے سری ادا
کیا ہم بھی اس کو سری ادا کریں
گے۔ اور امت نے اس بات
پر اجماع کیا ہے۔ کہ صبح کی دو رکعتوں
میں اور جمعہ کی نماز اور مغرب اور
عشاء کی دو پہلی رکعتوں میں قرآن
کو جہری پڑھنا چاہیے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
سے روایت ہے۔ کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا حضرت جبریل
ﷺ میرے پاس آئے اور
انہوں نے مجھ سے کہا کہ لبیک
اوپنی آواز سے پکاروں۔

حضرت ابوہریرہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سے
روایت ہے۔ کہ حضور اقدس
ﷺ نے فرمایا حضرت جبریل
ﷺ نے بلند آواز سے لبیک
پکارنے کا حکم دیا کیونکہ یہ حج کا رُخِیَا
نشان ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا قَالَهُ اللَّهُ لِأَخِيهِ الْإِنْسَانِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِينِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَعُمَّتِهِمْ مَعَهُ عَلَى تَعْلَمُ أَنَّكَ
رَبُّهُمْ وَخَلَقْتَ وَجْهَ طَرَفِكَ وَتَعَرَّفَكَ وَمَعَهُ كَمَا لَمْ يَسْتَفْهِرْ اللَّهُ الْإِنْسَانَ لَمْ يَلِدْهُ الْإِنْسَانُ لَمْ يَكُنْ الْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ وَالْإِنْسَانُ الْإِنْسَانُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٌ ﷺ مَعْلُومٌ

ہمارے سردار جانے گئے درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

اشارہ ہے اس قول کی طرف:
”کیا ان لوگوں کے لیے یہ بات
دلیل نہیں ہے کہ اس (پیشگوئی)
کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں۔“
”تم اللہ اور رسول کے حقوق میں
اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں
خلل مت ڈالو اور تم تو اس کا مضر
ہونا جانتے ہو۔“

علماء بنی اسرائیل سے مراد وہ
انصاف پسند علماء ہیں جو یہ تسلیم
کرتے ہیں کہ ان کے ہاں کتابوں
میں حضور اقدس ﷺ کی
صفات اور آپ کا مبعوث ہونا
اور آپ کی امت کی صفیتیں موجود

إشارة إلى قوله:
”أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ
أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ ۖ (سورة الشعراء ۱۹۷)
”لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَ تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ“

(سورة الانفال ۲۷)
و المراد العدو
منهم الذين يعترفون
بما في ايديهم
من صفة محمد
ﷺ و مبعثه و امته
كما اخبر بذلك

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

ہیں۔ یعنی اجوان میں سے ایمان لے آئے۔ مثلاً حضرات عبداللہ بن سلام اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہم وغیرہ جو کہ ان کے سے ہم مذہب (یہودی) اور ہم مشرب تھے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں کہ سچ اور جھوٹ میں خلط ملط نہ کرو۔ یعنی تم یہودیت اور عیسائیت کو اسلام کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ۔ یعنی انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو چھپایا تھا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جیسا کہ ان کے ہاں توراہ اور انجیل میں لکھا ہوا تھا۔

من امن منهم
كعبد الله بن سلام
وسلمان الفارسي
رضي الله عنهما ادركما
منهم و من ساكلهم۔

(تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۳۲۴)
عن قتادة رضي الله عنه
في قوله "ولا تلبسوا"
(الاية) قال لا تلبسوا
اليهودية والنصرانية
بالاسلام وتكتموا الحق
قال كتموا محمدا وهم
يعلمون انه رسول الله
يجدونہ مكتوبا عندهم
في التوراة والانجيل۔
(رواه عبد بن حميد)
تفسیر فتح القدیر ج ۱ ص ۶۲



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ إِذْ عَلَّمَهُهُ
اللَّهُ مَعْلَمًا وَسَلَّمَ رُوحَهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَجَنَّتْنَا فَتَحَلَّى النَّبِيَّ الْأَمِينُ وَعَلَى الْبِرِّ تَأْتِيهِمْ وَتُحْمَلُونَ مِنْهُمُ الْمَوْتُ
وَمِنْ خَلْقِكَ وَمِنْ نَسَبِكَ وَمِنْ تَعْرِيفِكَ وَمِنْ أَدْبَابِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ الْوَهَّابُ

سُبْحَانَكَ يَا مُحَمَّدٌ الْمُعَلَّى

ہمارے سردار بلند مرتبہ درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

جس کو دوسرے پر بلند کیا گیا ہو۔
یہ تعلیۃ بمعنی بلندی سے اسم مفعول
کا صیغہ ہے۔

الذی رفع علی غیرہ
اسم مفعول من التعلیۃ
وہی الرفعۃ۔

(سبل الہدی ج ۱ - ص ۶۲۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے۔ کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مجھ پر
درود بھیجو تو میرے لیے اللہ سے
وسیلہ مانگو۔ انہوں نے عرض کیا کہ
حضور وسیلہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا بہشت میں سب سے
اوپر درجہ جو صرف ایک ہی آدمی کو
ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ آدمی
میں ہی ہوگا۔

عن ابی ہریرۃ
رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلیتم
علی فاسألوا اللہ لی
الوسیلۃ قالوا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ما الوسیلۃ قال اعلی
درجۃ فی الجنۃ لاینالہا
الا رجل واحد وارجو
ان اکون انا ہو۔

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ - ص ۲۶۵)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِنْسَانَ إِذْ عَلَّمَهُهُ
اللَّهُ مَعْلَمًا وَمَنْ يَشَاءُ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يُضِلُّهُ فَلَا يُمْسِكُ بِشَيْءٍ
وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَمُهْدَىٰ وَأَنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ
لَظَلِيمٌ

سَبِّكَ لِمَعْمَرٍ

ہمارے سردار عمامہ پہناتے گئے درودِ سلام بھیجے اللہ آپ کے

مفعول کے وزن پر یعنی عمامہ
والے اور اگلی کتابوں میں یہ حضور کے
اسما شریفہ سے ایک اسم مبارک
ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ جب عمامہ باندھتے تو شملہ
کو اپنے دونوں کندھوں کے درمیان
لٹکا دیتے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ حضور اقدس ﷺ فتح
مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے
اور آپ کے (سر مبارک) پر
سیاہ عمامہ تھا۔

بالبناء للمفعول ای
صاحب العمامة وهو من
اسماء ﷺ في الكتب
السابقة - (سبل الهدى ج ۱ ص ۱۲۱)
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما
قال كان النبي ﷺ
إذا اعم سدل عمامته
بين كتفيه -

(شمائل الترمذی ص ۹)
عن جابر رضی اللہ عنہ
قال دخل النبي ﷺ
مكة يوم الفتح وعليه
عمامة سوداء -

(شمائل الترمذی ص ۹)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْإِيمَانَ اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ تَمْلِكِ لَكَ
وَمَدِّ يَدَيْكَ وَجِيهِ قُدْرَتِكَ وَمَدِّ كَلِمَاتِكَ اسْتَغْفِرُكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الْسَّلَامُ

ہمارے سردار حضرت علیؑ کو در فضیلت پہننے والے دُود و سلام بھیجے اللہ آپؑ

حضرت عبد اللہ بن بسر رضی اللہ عنہ
سے روایت ہے کہ حضور اقدس
ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ
کو خیبر کی طرف روانہ کیا تو انہیں
اپنے دست مبارک سے سیاہ
عمامہ پہنایا پھر اس کے شملہ کو
آپؑ کے پیچھے یا بائیں کندھے
پر ڈال دیا۔

حضرت میمون رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ میں نے حضرت علی بن
ابوطالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں
نے سیاہ عمامہ پہن رکھا تھا۔ اور
اس کے شملہ کو اپنے پیچھے لٹکا رکھا
تھا۔

عن عبد الله بن
بسر رضی اللہ عنہ قال بعث
رسول الله ﷺ علي بن
ابي طالب الي خيبر
فعممه بعمامة سوداء ثم
ارسلها من ورائه او قال
علي كتفه اليسرى -

(رواه الطبراني / الحاوي للسيوطي ج ۱ ص ۱۰۷)

عن ميمون رضی اللہ عنہ
قال رأيت علي بن
ابي طالب رضی اللہ عنہ عمامة
سوداء قد ارخاها
من خلفه -

(العاوي للسيوطي ج ۱ ص ۱۰۷)

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْآيَاتِ اللَّهُ
الَّذِي صَلَّى وَسَلَّمَ وَارْتَضَى عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ
زَمَّ وَخَلَّفَ وَمَنْ لَمْ يَلْمُكَ وَتَشْرِكْهُ وَمَنْ دَانَ لَكَ اسْتَفْرَأَهُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَالْحَقُّ الْمُبِينُ

سَيِّدِكَ مُلْعِينٌ

ہمارے سردار مددگار درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہرگز نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہ کرے گا یقیناً آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں۔ غم بکا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ناداروں کو کما کر دیتے ہیں۔ جہان نواز ہیں اور سچائی کے کاموں میں تعاون فرماتے ہیں۔ جو کسی حادثہ میں پھنس جائے جیسے قرض یا دینت کا مال۔ آپ اس کی امداد فرماتے ہیں اور اس کی یاری فرماتے ہیں۔ اور آپ ان کو ان کا تکالیف سے رہائی دلاتے ہیں۔

عن عائشَةَ رضی اللہ عنہا قَالَتْ خَدِجَةُ رضی اللہ عنہا كَلَّا وَاللَّهِ مَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ لِتُصَلِّ الرَّحْمَةَ وَتَحْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الضَّعِيفَ وَتَعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. (الحديث، صحيح البخاري ج ۱ ص ۲) یعنی ہر کہ بجا دہے در ماندہ سے شود مثل مترض و مال دیت مدد سے کنی و یاری سے دہی اورا و رہائی سے بخششی اورا ازان و رطہ۔

(اشعة اللمعات ج ۳ - ص ۵۰۸)

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْبَنِيَّةَ اللَّهُ
الَّذِي يَصِلُ وَيَسْتَوْدِعُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ تَمَلَّكَ
وَمَنْ تَمَلَّكَ وَرَضِ بِكَ وَرَضِ بِكَ وَمَنْ تَمَلَّكَ وَمَنْ تَمَلَّكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

مَعْرِضَاتُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار جلاوطن کرنے والے درود و سلام بھیجیے اللہ آپ کے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دُڑے مارے اور جلاوطن کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دُڑے مارے اور جلاوطن کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دُڑے مارے اور جلاوطن کیا۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے ردین کے احکام حاصل کرو عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ اگر کنوارا شخص

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم ضرب وغرب و ان ابابکر رضی اللہ عنہ ضرب وغرب و ان عمر رضی اللہ عنہ ضرب وغرب۔

(جامع الترمذی ج ۱ ص ۱۴۳)
عن عبادة ابن الصامت رضی اللہ عنہ خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و تغريب

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رب العالمین ط

سنة و الثيب بالثيب
جلد مائة و الرجيم
(سنن ابن ماجه ص ۱۸۳)

کنواری عورت سے زنا کرے تو انہیں
سو کوڑے مارو۔ اور (مرد) کو ایک
سال جلا وطن کر دو۔ اور
شادی شدہ اگر شادی شدہ عورت
سے زنا کرے۔ تو سو کوڑے اور اس
کے بعد سنگسار کر دو۔

حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت
کرتے ہیں کہ آپ نے اس
شخص کے بارے میں ارشاد
فرمایا جس نے زنا کیا ہو اور وہ
ابھی شادی شدہ نہ ہو تو اس کی
سزا سو کوڑے اور ایک سال
کی جلا وطنی ہے۔

عن زید بن
خالد رضی اللہ عنہ عن
رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
انه امر فيمن
زف و لم يحصن
بجلد مائة و تغريب
عام۔
(صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۶۱)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْأُمَّةَ إِلَّا اللَّهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ
رَبَّنَا وَرَبَّكَ وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَا كُنَّا لِنُشْفِقَ لَكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مَعْرِزَمٌ

سَيِّدُكَ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہمارے سردار اللہ کے عاشق درود و سلام بھیجے اللہ آپ کے

محبت کے قیدی

أسیر الحب -

(قاموس ج ۲ ص ۱۵۶)

اور غزام کا معنی لازمی محبت
ہے عربی میں غزم اس آدمی کو کہا جاتا
ہے جس پر محبت غالب ہو۔

و اما الغرام فهو
الحب اللازم يقال رجل
مغرم بالحب ای قد لزمه
الحب - (روضة المحبتین ص ۵۶)

المغرم مسم کا ضمہ اور غین ساکن
یعنی اللہ تعالیٰ کے محب جس کا
مادہ غزام ہے۔ اور وہ کسی چیز
کا شدید محبت اور اس کا اہتمام
ہے۔

المغرم بضم المیم
وسكون الغین المعجمة
ای المحب لله تعالى
من الغرام وهو الولوع
بالشئ والاهتمام به -

(سبل الهدی ج ۱ ص ۶۲)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ أُمَّةً إِلَّا لَهَا نَصْرٌ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَصَفِيٍّ وَمَوْلَانَا
وَعَدُوِّهِمْ وَوَلَدِ نِسَاءِ مَنْزِلَتِهِ وَبَنَاتِهِ وَبَنَاتِ مَنْزِلَتِهِ وَبَنَاتِ مَنْزِلَتِهِ وَبَنَاتِ مَنْزِلَتِهِ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَعْتَبِي

ہمارے سردار کالی کھلی میں اپنے اہل و عیال کو دھانپنے والے دُور و مسافت میں بھیجے اللہ آپ سے

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ایک ہنڈیا لائیں جس میں حلیم تھا۔ آپ نے انہیں فرمایا کہ اپنے خاوند اور دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ حضرت علی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم تشریف لائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر حلیم تناول فرمانے لگے۔ اور آپ صحن میں خیر بی کھلی کو نیچے بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ اور میں حجرہ میں نماز پڑھ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت

عن ام سلمة رضی اللہ عنہا تذاکر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی بیتها فاتتہ فناطمة رضی اللہ عنہا ببرمة فیما خزیرة فدخلت بها علیہ فقال لها ادعی زوجک و ابنیک قالت فجاہا علی و الحسین و الحسن رضی اللہ عنہم فدخلوا علیہ فجلسوا یاکلون من تلك الخزیرة وهو علی منامة له علی دکان تحتہ کساء

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
امین امین امین یا رب العالمین ط

له خيبري قالت وانا
اصلى في الحجرة
فانزل الله عزوجل
هذه الاية انما يريد
الله ليذهب عنكم
الرجس اهل البيت
ويطهركم تطهيرا
قالت فاخذ فضل
الكساء فغاشهم به ثم
اخرج يده فالوى
بها الى السماء ثم قال
اللهم هؤلاء اهل بيتي
وخاصتي فاذهب عنهم
الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم هؤلاء اهل بيتي
وخاصتي فاذهب عنهم
الرجس وطهرهم تطهيرا
قالت فادخلت راسي
البيت فقلت وانا معكم
يا رسول الله ﷺ قال
انك الى خير انك الى خير
(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۲۹۲)

اُمّی۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ
اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور
کر دے اور تمہیں پاک کر دے۔
حضرت اقدس ﷺ نے اپنی کبلی
مبارک کا ایک کونہ کپڑا کران سبکی
اس میں ڈھانپ لیا۔ پھر آپ نے
اپنا دست مبارک باہر نکال کر آسمان
کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اے اللہ
یہ میرے اہل بیت ہیں اور میرے
خاص الخاص ہیں۔ ان سے ناپاکی
کو دور کر دے اور ان کو پاک و صاف
فرما دے۔ اے اللہ یہ میرے اہل بیت
ہیں اور میرے خاص الخاص ہیں۔
ان سے ناپاکی کو دور کر کے پاک و
صاف کر دے۔ حضرت ام سلمہ
رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے اپنا
سر گھر کے اندر کر لیا۔ پھر میں نے
عرض کیا اے اللہ کے رسول!
کیا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں
آپ نے فرمایا تو تو بھلائی کہ ہے۔
تو تو بھلائی پر ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْأُمَّةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَارْحَمْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ
بِمَعْنَى مَا كُنْتَ تَعْلَمُ وَتَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ وَتَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ وَتَعْلَمُ مَا كُنْتَ تَعْلَمُ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَلْعُوبِ صِرِّهِ

ہمارے سردار بُرائی پر ناراض ہونے والے دُرد و سلام بھیجے اللہ آپ پر

حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ
اپنے باپ، دادا سے روایت کرتے
ہیں کہ میں اور میرا بھائی ایک ایسی
مجلس میں بیٹھے تھے جو سُرخ اونٹوں
سے بھی افضل تھی۔ میں اور میرا بھائی
آئے (تو دیکھا کہ) اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے بوڑھے بوڑھے صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے گھر کے
کسی دروازہ کے قریب بیٹھے تھے ہم نے
اس بات کو بُرا جانا کہ ہم ان کے
درمیان تفریق پیدا کریں۔ لہذا ہم
ایک حجرہ میں بیٹھ گئے۔ اچانک ان
صحابہ کرام نے قرآن کی کسی آیت
میں جھگڑا کیا۔ اور ان کی آوازیں بلند
ہوئیں۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم

عن عمرو بن
شعیب رضی اللہ عنہ عن ابيه
عن جده قال
لقد جلست انا و
اخي مجلسا ما احب
ان لي به حمر
النعم اقبلت انا و
اخي و اذا مشيخة
من صحابة رسول الله
صلى الله عليه وسلم جلوس عند
باب من ابوابه
فكرهنا ان نفرق
بينهم فجلسنا حجرة
اذ ذكروا آية من

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
أَمِينَ أَمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

القرآن فتماروا فيها
حتى ارتفعت أصواتهم
فخرج رسول الله
ﷺ مغضبا قد أحمر
وجهه يرميهم بالتراب
ويقول مهلا يا قوم
بهذا اهلكت الامم
من قبلكم باختلافهم
على انبيائهم وضربهم
الكتب بعضها ببعض
ان القرآن لم ينزل
يكذب بعضه بعضا
بل يصدت بعضه
بعضا فما عرفتم
منه فاعملوا به وما
جهلتم منه فردوه الى عالمه

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۱۸۱)

عن الجب مسعود
الانصاري رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ
قال رجل يا رسول الله
ﷺ لا اكاد
ادرك الصلوة مما يطول

غصه کی حالت میں باہر تشریف
لائے۔ آپ کا چہرہ انور غصہ کی وجہ
سے سُرخ تھا۔ آپ نے ان پر
مٹی پھینکی۔ اور فرمایا اے قوم تجمل
سے کام لو۔ تم سے پہلی امتیں اسی
وجہ سے تباہ ہو گئیں کہ انہوں نے
اپنے نبیوں کے ساتھ اختلاف کیا۔
اور اللہ کی کتابوں کا آپس میں مقابلہ کیا
قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا
کہ اس کا بعض حصہ بعض کی تکذیب
کرے۔ بلکہ اس کا بعض حصہ بعض
کی تصدیق کرتا ہے۔ اس میں سے
جس چیز کو تم پہچانو اس پر عمل کرو۔
اور جس چیز سے تم جاہل ہو اس کو
اس کے جاننے والے کی طرف
چھوڑ دو۔

حضرت ابو مسعود انصاری
رَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ سے روایت ہے۔
ایک آدمی نے عرض کی کہ اے
اللہ کے رسول میں فلاں امام کی
وجہ سے نماز باجماعت نہیں پڑھ

بنا فلان فما رأيت
النبى ﷺ فى
موعظة اشد غضباً
من يومئذ فقتال
ايها الناس انكم
منفرون فمن صل
بالناس فليخفف فان
فيهم المريض
والضعيف و ذا
الحاجة

(صحيح البخارى

ج ۱، ص ۱۹)

سکتا کیونکہ وہ (امام) ہمیں لمبی
نماز پڑھاتا ہے۔ حضرت ابو سعید
رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ کہ میں نے
حضرت اقدس ﷺ کو کبھی اتنے
غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن
غصے میں تھے۔ پھر آپ ﷺ
نے فرمایا اے لوگو تم لوگوں کو
(دین سے) متنفر کر رہے ہو۔ دیکھو
جو شخص لوگوں کو نماز پڑھانے کو
چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھائے
کیونکہ ان میں بیمار بھی ہوتے ہیں
کمزور بھی اور کام کاج والے
بھی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے۔ کہ حضور اقدس ﷺ
کے ہاں ایک ریشمی جوڑا تھنٹہ
آیا۔ آپ نے وہ میرے پاس
بھیج دیا۔ میں اس کو پہن کر نکلا
تو آپ ناراض ہو گئے۔ حتیٰ کہ
میں نے غصے کے آثار آپ کے
چہرہ اقدس میں دیکھے۔ پھر آپ
نے فرمایا میں نے تجھے یہ تمہارے

عن علی رضی اللہ عنہ
قال اهدیت لرسول
الله ﷺ حلة سیراء
فبعث بها الی رسول الله
ﷺ فخرجت فیها
فغضب رسول الله
ﷺ حتى رأیت
الغضب فی وجهه فقال
انی لم اعطکھا

لتلبسها قال فامرني
فأطرتها بين نسائي -
(مسند الامام احمد بن حنبل
ج ۱۰، ص ۱۳۹)

عن عبد الله ﷺ
قال سمعت رجلا يقرأ
آية على غير ما
أقراني رسول الله
ﷺ فاخذت بيده
فاتيت به النبي
ﷺ فقال كلا
كما قد احسن وغضب
حتى عرف الغضب
في وجهه قال لا
تختلفوا فان من
قبلكم اختلفوا فيه
فهلكوا -

(مسند الامام احمد بن حنبل
ج ۱، ص ۲۱۲)

پہننے کے لیے نہیں دیا تھا حضرت
علیؑ فرماتے ہیں کہ میں
نے اس جوڑے کو گھر میں مستورات
کو بانٹ دیا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ
سے روایت ہے کہ میں نے
ایک آدمی سے قرآن کریم کی ایک
آیت سنی اور وہ اس قرأت کے
خلاف تھی جو مجھے حضور اقدس
ﷺ نے پڑھائی تھی میں اس
کے ہاتھ کو پکڑ کر حضور اقدس
ﷺ کی خدمت میں لے آیا تو آپ نے فرمایا
تم دونوں اچھا قرآن پڑھتے ہو اور
آپ ناراض ہو گئے۔ حتیٰ کہ آپ کے
چہرہ اقدس میں غصے کے آثار پھیلنے
جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا قرآن
کریم پڑھنے میں اختلاف نہ کرو
تم سے پہلے جو ہو گزرے ہیں۔ انہوں
نے ان راہی کتب میں
اختلاف کیا تھا تو تباہ و برباد
ہو گئے۔

و عظم شانہ حیث
ذکرہ معہ فی
ایصال الصنع الی
عبادہ وجعلہ مغنیاً
لہم بما فتح علی
یدیہ و افاءہ من
الغنائم۔

(سبل الہدی ج ۱۔ ص ۶۲۲)

الا اغناه الله
تعالی ایاہو ورسولہ
من فضلہ تعالی بالغنائم
التي ہی عندهم غاية
الغایات فی هذه الحیاة
الدنیا و كانوا كسائر
الانصارهم من الفقراء
فالاغناء من فضل الله
ببیعة الرسول والنصر له
وما فیہ من الغنائم
كما وعدہ۔

تفسیر المنارج ۱۱۔ ص ۵۵۶

اور آپ کا شرف بیان فرمایا گیا
ہے۔ نیز آپ کی عظمت شان
اور عالی مرتبہ ہونے پر تنبیہ فرمائی
ہے۔ یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کے
بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور
فتوحات و مال غنیمت سے حصہ
دے کر ان کو غنی کر دینے کا بیان
ہے۔

یہ آیت کہ ان کو اللہ اور اس کے
رسول (ﷺ) نے اپنے
فضل سے غنی کر دیا کا معنی یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غنیمت
کے مالوں سے مالا مال کر دیا جس
کی دنیا میں انتہائی ضرورت ہوتی
ہے۔ اور وہ دوسرے انصاریوں
کی طرح پہلے غریب تھے تو غنا اللہ
کے فضل و کرم سے نصیب ہوئی
حضرت اقدس ﷺ کے ساتھ
بیعت کرنے اور آپ کے تعاون
سے ہوئی جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ
نے بصورت غنائم کیا تھا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ • مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ الْبَنِيَّةَ اللَّهُ
 اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَلِّ عَلَى مَنْ مَلَكَ اللَّهُ
 وَمَنْ دَخَلَكَ مِنْ بَيْتِكَ وَتَشْرِيكَ وَمَنْ دَخَلَكَ اسْتَفْرَأَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَمَّا بَعْدُ

سَيِّدَتُكَ مَلْعِيَّةٌ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ہمارے سردار بڑے نام بدل دینے والے دُود و سلام بھیجیے اللہ آپ سے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
 روایت ہے کہ حضور اقدس
صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصیہ (عورت) کا
 نام بدل دیا اور فرمایا تو جمیلہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے
 روایت ہے۔ انہوں نے بیان
 کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا پہلے نام
 بڑہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ خود
 اپنے کو معصوم ظاہر کرتی ہیں تو جناب
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام
 زینب رضی اللہ عنہا رکھ دیا۔

حضرت امام زہری رضی اللہ عنہ
 سے روایت ہے وہ ابن مسیب

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما
 ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
 غیر اسم عاصیة
 وقال انت جمیلہ۔

(الصحيح لمسلم ج ۲ - ص ۲۰۸)
 عن ابي هريرة
رضی اللہ عنہ ان زينب رضی اللہ عنہا
 كان اسمها برة
 فقيل تزكي نفسها فسمها
 رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم
 زينب رضی اللہ عنہا

(الصحيح لمسلم ج ۲ - ص ۲۰۸)
 عن الزهري عن
 ابن المسيب عن ابيه

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
 آمِينَ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ط

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ لِحَدِيثِهِ جَدِّ سَعِيدٍ مَا
 اسْمُكَ قَالَ حَزْنٌ فَقَالَ
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَنْتَ
 سَهْلٌ فَقَالَ لَا أَعْرِضُ
 اسْمًا سَمَانِيَةً إِيَّاهُ قَالَ
 ابْنُ الْمُسَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 فَمَا زَالَتْ فِينَا خُرُونَةٌ
 بَعْدَ -

(مسند الامام احمد بن حنبل)

ج ۵، ص ۲۳۳)

عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ
 أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ
 كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فِسْمَانِي
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 زَيْنَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

(الصحيح لمسلم ج ۲، ص ۲۰۸)

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سے اپنے باپ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 سے روایت کرتے ہیں۔ کہ حضور
 اقدس رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے میرے دادا کے
 یعنی سعید کے دادا سے پوچھا
 تیرا نام کیا ہے۔ اس نے کہا حزن
 (غم) آپ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا بلکہ
 تو سہل (رزم) ہے۔ اُس نے کہا
 کہ میں ایسے نام کو تبدیل نہیں کر
 سکتا۔ جسے میرے باپ نے رکھا

ہو۔ ابن مسیب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا کا بیان
 ہے۔ ہمارے خاندان میں
 اس کے بعد ہمیشہ غم رہا۔

حضرت زینب بنت ام سلمہ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا سے روایت ہے کہ
 میرا نام برہ زینک بی بی تھا
 آپ حضور اقدس رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے
 میرا نام زینب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رکھا۔



